

فرہنگ عامرہ

کے متعلق

چند قیمتی راہیں
بنگا رکھو

فرہنگ عامرہ چھوٹے سائز کا لغت ہے جس میں عربی فارسی اور ترکی کے تقریباً چالیس ہزار الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ لکھا کر دیے گئے ہیں، اور جنکا عام فہم ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے اس فرہنگ کی خصوصیات فاضل مولف نے ظاہر کی ہیں کہ :-

(۱) الفاظ کی ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے اہم رکھی گئی ہے کہ کسی لفظ کی حروف میں وقت نہیں ہوتی
(۲) صحت تلفظ کے لئے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر لفظ کے آگے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور ہر ٹکڑے پر اعراب دیئے گئے ہیں؛ یہ وہی طریقہ ہے جو انگریزی زبان کی لغات میں رائج ہے۔

(۳) فارسی کی خلاف قیاس اور عربی کی مستعمل جمع اپنے سینہ مفرد کے ذیل میں درج کر دی گئی ہیں اور نیز استعمال میں نہاے جمع کو مستقل لغت کی حیثیت سے اسکی ہر جگہ پر پھر دوبارہ دیدیا گیا ہے
(۴) کثیرالاستعمال فارسی مصادر کے مضارعات اور صامی و قیاسی مشتقات بھی دیے گئے ہیں

اسی کے ساتھ قلیل الاستعمال مصادر کی بڑی تعداد بھی شامل کر دی گئی ہے۔

(۵) فارسی میں اکثر حروف دوسرے حروف سے بدل جاتے ہیں، اس کی صراحت بھی ہر حرف کی تقطیع کی ابتدا میں کر دی گئی ہے۔

- (۷) دورِ حاضرہ کے بہت سے مفید معرّبات و مفرّسات اس میں شامل ہیں۔
 (۷) ایشیا کی ماہیت و معانی بیان کرنے میں جدید تحقیقات کا خیال رکھا گیا ہے۔
 (۸) اسماء الرجال کے سلسلہ میں انسانی افراد اور تاریخی شخصیتوں کے درمیان حد فاصل قائم کر دی گئی ہے۔

میں نے اس فرہنگ کو خوب دیکھا ہے اور میں نے یہ تمام خصوصیات اس میں پائی ہیں، ہماری زبان میں لغت کی کتابوں کی بہت کمی ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ جامع بھی ہوں اور مختصر بھی، اس لئے ملک کو جناب محمد عبداللہ خاں نوشکی کامنوں ہونا چاہئے کہ انہوں نے سالہا سال کی محنت کے بعد یہ قابل قدر فرہنگ مرتب کی اور اچھے کاغذ پر مجلد شائع کر کے طلبہ کی بڑی ضرورت کو پورا کیا۔

اردو سے معلیٰ کان پور

مدت سے اردو میں ایک ایسے لغت کی ضرورت تھی جو جامع ہونے کے ساتھ اخبار نویسوں، مترجموں، شاعروں اور طالب علموں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔

ہمیں سرت ہے کہ جناب محمد عبداللہ خاں صاحب نوشکی نے بے انتہا محنت و کاوش سے ایک ایسا لغت مرتب کیا ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کے تقریباً چالیس ہزار الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔ اس لغت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ کے سامنے توہین جس ان کا صحیح تلفظ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ مثلاً :-

قوت (قُوْ، وُت) طاقت ریح الاول (رَبِّيْ، عُلن - آؤ اول) تیسرا

اسلامی قمری مہینہ

اس لغت کا نام فرہنگ عامر ہے، الفاظ کے معنی بیان کرنے میں جدید تحقیقات کا خیال رکھا گیا ہے۔ متروک الفاظ کی جگہ متبادل الفاظ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فارسی مصادر کے مضامین اور سماجی و قیاسی مشتقات بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ اسماء الرجال میں تاریخی اور

افسانوی ناموں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ دیا جاوے میں اسلٹاک الصدور (Prefixes) اور توابعات ترکیبی (Suffixes) کی فہرست ہے، مثالیں بھی دیدی گئی ہیں جس سے نئے الفاظ کے اختراع میں مدد ملتی ہے، الفرض مرتب نے انتہائی عرق ریزی اور کاوش سے کام لیا ہے۔

ہیں امید ہے کہ حامیان اردو کے حلقہ میں اس لغت کا پرچوش خیر مقدم کیا جائے گا۔

ہندستان لکھنؤ

فرہنگ عامرہ :- اردو میں لغت کی بہت بڑی کمی تھی۔ لیکن اب وہ کمی رفتہ رفتہ دور ہو رہی ہے۔ کئی اچھی لٹینیں نکل آئی ہیں۔ یہ لغت بھی ان میں اچھی لغتوں کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے۔ معنی کے ساتھ بہت اچھی طرح لفظ کا تلفظ بھی دیدیا ہے۔ اس میں اصطلاحیں فارسی اور عربی جمیں، فارسی مصدروں کے ساتھ مضامین، کچھ ضروری نایابی اور افسانوی نام بھی موجود ہیں۔ روزمرہ کے چھوٹے ادبی کاموں کے لئے اور مطالب علموں کے لئے یہ بے مثل چیز ہے۔ اچھی تک ہماری نگاہ سے کوئی ایسی لغت نہیں گذری تھی جو یہ ضرورت پوری کرتی ہو۔ اسے تیار کر کے مصنف نے اردو کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔

فرہنگ عامرہ میں پالیسی ہزار عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے معنی ہیں۔ ساتھ ساتھ الفاظ کے ٹکڑے کر کے ان کا تلفظ بھی دیدیا گیا ہے۔ فارسی کی خلاف قیاس اور عربی کی مستعمل جمع دے دی گئی ہیں۔ ترجمہ آسان اور با محاورہ زبان میں ہے۔ اس لغت نے اردو کی ایک بہت بڑی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اردو کے ہر قردان کو اپنے کتب خانہ میں یہ کتاب رکھنا چاہیے۔

مدرسہ پھول پور

فرہنگ عامرہ :- یہ فارسی و عربی کے ان الفاظ کا لغت ہے جو عام طور سے فارسی کتابوں میں مستعمل ہیں اور جن میں اکثر اردو زبان میں بھی رائج ہیں۔

الامان دہلی

یوں تو ملک میں اردو لغت کی بہت سی کتابیں رائج الوقت ہیں مگر ادو جیسی عالمگیر اور عام فہم زبان کے لئے جس عام فہم اردو لغت کی ضرورت تھی، ملک کی یہ اہم ضرورت نشہ تکمیل تھی، چونکہ اردو زبان فارسی، عربی، ترکی وغیرہ لغات سے مرکب ہے اس لئے پڑھے لکھے صحابہ کو لغت کے صحیح تلفظ میں، یا سخت تکلف سے کام لینا پڑتا تھا، یا پھر صحیح تلفظ میں دشواریاں پیش آتی تھیں مگر

للتذکرہ ہر آں چیز کہ خاطر میخواست
آخر آمد ز سپس پرودہ تھذیر پدید
خدا کا شکر ہے کہ مولوی عبداللہ خاں صاحب ٹوٹنگی ساکن نور پور نے ملک کی اس اہم ضرورت کا احساس فرما کر، فرہنگ عامہ کے نام سے جدید اصول تالیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کافی جدوجہد، تحقیق و تدقیق کے بعد تقریباً چالیس ہزار عربی، فارسی اور ترکی الفاظ و مصطلحات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع فرما کر دنیا کے علم و ادب پر احسان عظیم کیا ہے۔ جو طلبائے ہدایت کے علاوہ فقہاء و کلام کے وسعت معلومات کیلئے نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ صحت تلفظ، دور حاضرہ کے معرب و مفرد لغات، علامات قرأت، حروف پر اعراب کا عمل وغیرہ وغیرہ، یہ وہ مخصوص صفات ہیں جو کسی دوسری لغت میں حجتاً ہی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر یہ رائے حق بجانب ہوگی کہ مثلاً شیخان الفاظ و معانی کے لئے فرہنگ عامہ سے بہتر کوئی لغت ملک میں تالیف نہیں ہوئی۔

انصاری دہلی

یہ لغت جدید اصول ترتیب پر چالیس ہزار عربی، فارسی، ترکی الفاظ اور مصطلحات جدید کا بیش بہا ذخیرہ ہے، جسے فاضل لغت نے کافی جدوجہد، کاوش اور تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے۔ یہ لغت جدید طرز کی بہت سی خوبیوں کی حامل ہے۔ سب سے بڑی، اہم اور ضروری

خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ ہر لفظ کے سامنے حرکت و اعراب کے ساتھ اسکا صحیح تلفظ تو سب (بریکٹ میں دیکھا گیا ہے۔ الفاظ کے معانی بیان کرنے میں جامعیت و اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ لغات کے حروف تہجی کی ترتیب جدید لائٹوں پر نہایت صحت کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرہنگ ہذا کو عصر جدید کے قالب میں ڈھالنے کی جو کامیاب کوشش کی گئی ہے وہ قابل قدر لائق تحسین اور کافی قدر افزائی کی مستحق ہے۔

ہم ایک نظر دیکھنے کے بعد بلاشبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فرہنگ کی ممتاز خصوصیات شہنشاہانِ الفاظ و معنی کے لئے بڑی حد تک تسکین بخش ثابت ہوں گی۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”فرہنگ عامرہ“ اپنے انیاز و محاسن کے اعتبار سے ملک میں پہلی کوشش ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ اس کی بہت سی افادہ خصوصیات صرف مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس ضمن میں ان کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ علم و تدن کے ارتقاء کے ساتھ زبان میں جن نئے نئے الفاظ و مصطلحات کا اضافہ ہوا ہے ان کے جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے اور اکثر کتب متداولہ سے زیادہ لغات کا ذخیرہ فرہنگ عامرہ کے دامن میں نظر آتا ہے۔

ریاست دہلی

”فرہنگ عامرہ“ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک لغت ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کے تقریباً چالیس ہزار الفاظ یکجا کر دیے گئے ہیں۔ اس لغت میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر لفظ کے سامنے حرکت و اعراب کے ساتھ اس کا تلفظ بریکٹ میں دیکھا گیا ہے۔ اور الفاظ کے معنی بیان کرنے میں جامعیت و اختصار سے کام لیا گیا ہے۔

فارسی کی خلاف قیاس اور عربی کی استعصام جمع اپنے صیغہ مفرد کے ذیل میں درج کر دی گئی ہیں اور جمع کے لئے استعمال میں ان کو مستقل لغت کی حیثیت سے اس کے مقام پر رکھا گیا ہے۔ فارسی میں جو حروف دوسرے حروف سے بدل جاتے ہیں ان کی بھی

ملاپ لاہور

فرہنگ عامرہ ایک مختصر جامع لغت ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کے چالیس ہزار الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ یکجا کر دیے گئے ہیں اور ان کا عام فہم اور درجہ نہایت دلنشین انداز میں کیا گیا ہے۔ اس فرہنگ کی ایک چیدہ خصوصیت جو ہماری دوسری فرہنگوں میں سرے سے مفقود ہے یہ ہے کہ اس میں ہر لفظ کے سامنے حرکت و اعراب کے ساتھ اسکا تلفظ برکیٹ میں دیدیا گیا ہے اور وہ اس طرح پر کہ لفظ کا صحیح تلفظ آسانی ذہن نشین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انگریزی و کٹشتری کے اصول پر الفاظ کی ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے اس طرح رکھی گئی ہے کہ کسی لفظ کی ججھو میں چنداں دقت نہیں ہوتی۔ خوشحکی حساب جس جانفشانی اور عرق ریزی سے اس گراں پایہ ادبی خدمت کو انجام دیا ہے۔ اس کے لئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔

ہمیں امید ہے کہ اہل ذوق ان کی کاوش کی قدر کر کے حسن ذوق کا ثبوت دینگے۔

بیچ ویکلی دہلی

فرہنگ عامرہ :- اس نام سے جناب عبداللہ خاں نویشکی نے زبان اردو کے لئے ایک بہترین لغت تصنیف کی ہے جس میں عربی، فارسی، ترکی اور وہ تمام الفاظ شامل ہیں جو زبان اردو میں داخل اور مستعمل ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر زبان کو ایک مستقل فرہنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈکشنری کو شائع کر کے جناب عبداللہ خاں نویشکی نے وقت کی ایک بڑی ضرورت پوری کر دی ہے۔ فرہنگ عامرہ میں پوری تحقیق کے بعد تمام الفاظ کے تلفظ بھی لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار الفاظ شامل ہیں۔ جن کے معنی بھی نہایت واضح اور جامع طریقہ پر دیئے گئے ہیں۔ اس ڈکشنری کی خوبی یہ ہے کہ جامع ہونے کے باوجود مختصر ہے اس لئے نہایت آسانی سے ہر شخص اس سے کام لے سکتا ہے اور ضرورت کے لئے

اپنی مینز پر رکھ سکتا ہے۔ فرہنگ عامرہ اردو میں نئے طرز کی ایک مکمل لغت ہے جو مدد سوں، طالب علموں، مصنفوں، اخبارات اور رسائل کے ایڈیٹروں مترجموں، مصنفوں، نگاروں اور ادیبوں کے لئے مفید ہے۔

ہماری رائے ہے کہ یہ کتاب ہر اس اسکول یا کالج کی لائبریری میں ہونی چاہیے، جہاں زبان اردو زور پورہ تعلیم ہے۔ اس ڈکشنری میں الفاظ کی ترتیب بھی بہت سہل رکھی گئی ہے تاکہ لفظ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔

مناوی دہلی

فرہنگ عامرہ:۔ اردو کی خوش نصیبی ہے کہ اس میں ہر مہینہ نہایت مفید اور اعلیٰ کتابوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ محمد عبداللہ خاں صاحب نوشکی نے ایک فرہنگ ترتیب کی جو ہر لحاظ سے بے مثل ہے۔ اردو کے تقریباً سب الفاظ اس میں جمع کر دئے گئے ہیں اور ان کے معنی بہت سلیس اور مختصر الفاظ میں درج کئے گئے ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ الفاظ کا تلفظ بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے مثلاً:۔

صینق النفس (صنق۔ قنق۔ لفت۔ س) سانس کی بیماری
عبداللہ خاں کی اس کاوش کی قدر کرنی چاہیے۔

پارس لاہور

مذرت کہ ایچاؤ کی ماں کہا جاتا ہے۔ ”فرہنگ عامرہ“ کی تدوین و تالیف نے اس ضرب النشل پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔

”فرہنگ“ اردو زبان میں جدید رنگ کی وہ پہلی کتاب ہے جس کے قابل قدر مولف نے عربی، فارسی اور ترکی زبان کے چالیس ہزار الفاظ کا خزانہ اس خوبی کے ساتھ جمع کر کے ملک و قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ایک انسان کو اپنی علمی ضروریات کی تلاش

میں مختلف لغتوں کی اور ان گروائی کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔
 ”فرہنگ عامہ“ نہ صرف تعلیمیافتہ طبقہ کے لئے مفید ہے بلکہ اس سرچشمہ علم سے
 معمولی علمی استعداد رکھنے والے حضرات بھی یکساں طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بشرطیکہ
 اٹھانا چاہیں۔

ہمارے خیال میں ”فرہنگ“ شعراء، ادباء، فصحاء، مضامین نگاروں، و علموں
 خلیبوں، طلباء اور اساتذہ عزم ہر طبقہ، ہر جماعت، اور ہر فراق کے لوگوں کے علمی
 خزانوں میں اضافہ کرنے کی پوری پوری استعداد رکھتی ہے۔ الفاظ کی ماہیتوں اور مشتقات
 کے معانی کے بیان کا طریقہ جدید اور جلدی سے سمجھ میں آ جانے والا ہے۔ جہاں جہاں
 مصداق لگے ہیں وہاں مضامین بھی درج کر دیے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس
 سے آپ کو دوسری لغتیں کلیتاً خالی نظر آئیں گی۔

یہ فرہنگ اپنے ظاہری اور باطنی دونوں محاسن کے لحاظ سے مفید، کارآمد اور
 قابل قدر کتاب اور لغات اردو میں اپنی نوعیت کا جدید ترین اضافہ ہے۔

ہم اوسب اردو کی اس قابل قدر خدمت کے سلسلہ میں فرہنگ عامہ کے فائز
 مولف کی خدمت میں قلبی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ملک کا علم دوست
 طبقہ آپ کی خدمات جلیلہ سے وسیع پیمانہ پر فائدہ اندوز ہوگا۔

گرو گھنٹال لاہور

فرہنگ عامہ میں الفاظ کی ترتیب اور ان کے اولئے تلفظ کی ترکیب ایسی آسان رکھی گئی
 ہے کہ معمولی لکھا پڑا شخص بھی بے لفظ کو بے تکلف و ہونڈھ سکتا اور اس کے صحیح تلفظ کو
 سمجھنے میں کوئی وقت پیش نہیں آتی۔

یہ کتاب اپنے طرز کی ایک نئی کتاب ہے جو موجودہ زمانہ کے صاحب ذوق حضرات کی
 علمی ضرورتوں کو اچھی طرح پورا کرے گی۔

اسکول ماسٹروں کیلئے سید ضروری کتاب ہے کیونکہ انہیں ہر روز لغوی اور علمی الجھنیں پیش ہوتی رہتی ہیں۔

طلباء کے لئے ایک اور تحفہ ہے کیونکہ اس میں ان کی ہر قسم کی سہولتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور وہ اس زبان کے مطالعہ سے کامل زبان دان بن سکتے ہیں۔

علم دوست حضرات کو بھی کتب و رسائل اور اخبارات کے مطالعہ میں کافی سے زیادہ مدد مل سکتی ہے ہر لفظ کو اچھی طرح سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اردو بولتے ہیں مگر تلفظ صحیح نہیں ادا کر سکتے۔ ان کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ وہ اس کے مطالعہ سے زبان دانوں کی مجلس میں بے فونی سے زبان دانوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ اس کتاب کی خوبصورتی اور خوبیاں ہر شخص کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ ان کی میز پر ضرور ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مترجم حضرات کے لئے اس میں بہت سی علمی اصطلاحات اور لغات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ اخبار نویس و مضمون نگار حضرات کے لئے ہر قسم کی اقتصادی، تمدنی اور سیاسی الفاظ کی اخباری دنیا میں ہر روز ضرورت پیش آتی رہتی ہے موجود ہیں۔

مقرر حضرات کو جلسوں میں تقریر کرتے وقت صحیح تلفظ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں یہ کتاب ان کے لئے ایک کامل رہنما ثابت ہوگی کیونکہ اس میں مجلسی الفاظ کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔

نیشنل کانگریس لاہور

فرینک عامرہ :- یہ بالفاظ لغت ہے اور اسے ترتیب دینے میں مؤلف نے کافی محنت اور عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اچھے سے اچھے طرح لکھے آدمیوں کا تلفظ بھی غلط ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی کمزوری ہے، جس کی تلافی یونیورسٹی کی بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں کر سکتی۔

اردو زبان میں ایسے لغت تقریباً ہیں ہی نہیں جن میں تلفظ کا خیال رکھا گیا ہو اسلئے

امید کی جانی چاہیے کہ اس لغت کا غیر معمولی کوشش سے استقبال کیا جائیگا اور مولف کی محنت کی داد دی جائے گی۔

مولف نے یہ لغت ترتیب دے کر اردو زبان پر واقعی احسان کیا ہے۔

جناب پروفیسر محمد اللہ صاحب (کھنوکا کالج)

”فرہنگ علامہ بر تعریف و توصیف سے بالاتر ہے، آپ کی محنت اور تحقیق و تدقیق کی داد نہ صرف علم ہے۔ تقریباً چالیس ہزار الفاظ کا ایک مختصر سے حجم میں جمع کر دینا، معانی کی تعمیر میں اختصار اور وضاحت کا خیال رکھنا، تلفظ کی توضیح جو بد معرہ زبانوں کے طرز پر ہر لفظ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرنا، اس قدر دشوار کام تھا کہ علماء کی ایک جماعت سے بھی اس کا بہ خیر و خوبی انجام کو پہنچنا مشکل تھا، اس کا صلہ آپ کو حکومت سے ملنا چاہیے، حامیان اردو وغریب ہیں، اُنکے پاس ”دعا“ کے سوا دینے کے لئے کچھ نہیں ہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔“

”کتاب ما جامعہ ملیہ دہلی“

اردو زبان میں نئے طرز کی یہ پہلی لغت ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کے تقریباً چالیس ہزار الفاظ ایک جا کر دئے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک اہم تصنیف ہے جسے فاضل مولف نے بڑی کاوش اور تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے۔

مصنف نے اس کتاب کو ترتیب دیکر اردو زبان کی ایک بہت بڑی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ ہم لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ اور استعمال پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

تہذیب سوال لاہور

یہ کتاب سوری، فارسی اور ترکی کے چالیس ہزار الفاظ کا مجموعہ ہے جناب محمد عبداللہ صاحب نے بڑی محنت اور کاوش سے مرتب کی ہے اور عام اردو داں طبقے کے علاوہ محصلین

ادریہ تعلیم کے لیے یکساں مفید ہے۔ الفاظ کے معنی کے علاوہ کتاب کے شرمخ میں ایسی ہدایات درج ہیں جن سے زبان سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔

امید ہے کہ اس لغات کی اشاعت کے بعد اردو اور فارسی الفاظ پر اس قسم کے اعتراضات کا سلسلہ بند ہو جائیگا کہ ان کی "مکتوبی صورت" اور "ملفوظی صورت" میں کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ہم ان الفاظ کو اس طرح نہیں لکھتے جس طرح انھیں ادا کرتے ہیں۔ ویسا ہی میں مصنف نے صحیح تلفظ کی ضرورت پر بحث کی ہے۔

طلوع اسلام دہلی

اردو میں کوئی لغت ایسا نہیں ملتا تھا جو جدید اصول کے مطابق مرتب کیا گیا ہو، اس باب میں مولوی عبدالرشید خاں خوشی شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انھوں نے برسوں کی محنت و مشاقت کے بعد عربی، فارسی، ترکی کے قریب چالیس ہزار ایسے الفاظ کا لغت مرتب کیا ہے جو ہماری زبان میں مستعمل ہیں۔

یہ فرہنگ ہماری موجودہ ضروریات کو بڑی حد تک پورا کرے گا۔ تاہم طلوع اسلام میں سے وہ حضرات جو رسالہ کے انداز تنقیر کی شکل پسندی کی شکایت کیا کرتے ہیں۔ اس فرہنگ سے مزور فائدہ حاصل کریں۔

شاہکار لاہور

یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اکثر ہندوستانی تعلیمات و ادبیات سے اب خاص دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کی یہ کوششیں بڑی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں کہ رفتاً زمانہ کے ساتھ تعلیم و تعلم میں جو بہتر تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کے مطابق پڑانے مشرقی انداز کو بھی بنا رنگ دیا جاوے۔

ادبی دنیا لاہور

کسی زبان کی اہم ترین کتاب اس زبان کی لغت ہی ہوتی ہے۔ اردو زبان میں فرہنگ آصفیہ کے بعد سے کوئی خاص اچھی لغت شائع نہیں ہوئی تھی۔ البتہ لوگوں کی نظر میں انجمن ترقی اردو کی لغات کی جانب تھیں۔ یہ ڈکشنریاں جہاں تک ان کے حسن و خوبی کا تعلق ہے خوب ہیں لیکن ان میں دو باتوں کی کمی ہے۔ پہلی یہ کہ ان کی قیمتیں ایک غریب طالب علم کے لئے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے یہ اپنی جامعیت کی وجہ سے بہت زیادہ لمبی چوڑی معلوم ہوتی ہیں۔ مزورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی لغت بھی شائع کی جائے جو الفاظ کی کثرت کے ساتھ ہلکی پھلکی روزمرہ کے استعمال کے قابل ہو۔ مولوی محمد عبدالرشید صاحب (صاحب) خوشننگی نے حال ہی میں "فرہنگ عامہ" کے نام سے ایک ڈکشنری مرتب کر کے شائع کی ہے۔

یہ لغت اردو زبان کے ہر طالب علم کے لئے ایک مفید کتاب ہو سکتی ہے۔ معافی کے ساتھ ہر لفظ کا صحیح تلفظ بھی اس میں درج ہے۔ ہم کئی روز سے وقتاً فوقتاً اس لغت کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے اسے اب تک ہر طرح سے سچ پایا ہے۔ امید ہے کہ اردو زبان کے مشتاق اس لغت کی قدر کریں گے۔

سرگزشت علی گڑھ

فرہنگ عامہ: زبان اردو میں نئے طرز کی یہ پہلی فرہنگ ہے جس میں موجودہ زمانہ کے مرد و عورت کی کلی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ نہ صرف ماہرین زبان کے واسطے ایک مفید ذخیرہ ہے بلکہ معمولی لکھیے پڑھوں کے واسطے بھی درجہ مفید ہے۔ کیونکہ اس نے روزمرہ گفتگو میں ہر لفظ صحیح بولانا دکھنا آسان کر دیا ہے۔ المختصر یہ کہ ہر رسموں، دماغی قافوں، پیشہ، مصحفیوں، نگاروں اور شاعروں، مؤرخین ہر مذاق کے لوگوں کی واسطے مفید اور کارآمد ہے۔

یہ فرہنگ اپنی ظاہری و معنوی خوبیوں کے اعتبار سے بہت ہی مفید و دلکش ہے۔ جس کے واسطے فاضل خاں صاحب ملک سے مبارکیا دے مستحق ہیں۔

صداقت کا پور

کسی زبان کی تکمیل کے لئے قواعد صرف و نحو کے علاوہ ایک کمال لغت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پچاس پچاس ضرورت کو ہر دور کے فضلا پورا کرتے رہتے ہیں۔ اردو زبان میں لغت کی کتابوں کی بہت کمی ہے، مگر ہم کو فرہنگ عامہ دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی ہے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور بڑی قابلیت، محنت اور جانفشانی کے ساتھ مرتب کی گئی ہے، اور اس میں وہ خصوصیات ہیں جو لغتیں طور پر کسی دوسرے اردو لغت میں نہیں پائی جاتی اور جن کی اشتداد ضرورت تھی۔

ہم فرہنگ عامہ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اردو زبان کی تقریباً تمام ضروریات کو اچھی طرح پورا کر سکتی ہے، جس کے لئے ملک کو مولانا محمد عبداللہ خاں صاحب نولٹنگی کامنوں ہونا چاہیے۔ کہ ان کی بدولت اردو زبان میں ایک بڑی کمی پوری ہو گئی۔ غرض کہ کتاب اپنی صورت و معنوی خوبیوں کے اعتبار سے بہت قابل توفیق اور مفید و کارآمد ہے۔

ہمارے خیال میں یہ لغت اردو اور فارسی زبان کے طلباء و معلمین، دونوں کے لئے نہایت مفید ہے اور کتب خانوں، درس گاہوں یا دیگر علم دوست حضرات کی الماریوں میں رکھنے کے قابل ہے۔

ہمایوں لاہور

فرہنگ عامہ :- یہ چالیس ہزار عربی، فارسی، ترکی الفاظ کا ایک لغت ہے، جو محمد عبداللہ خاں صاحب نولٹنگی نے بڑی کاوش سے مرتب کیا ہے۔ معانی کے ساتھ ہر لفظ کا صحیح تلفظ بھی درج کیا گیا ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے اب تک ہمارے ہاں کوئی ایسا

لغت موجود نہیں جس میں یک جا ان زبانوں کے الفاظ مل سکیں۔
 نویشگی صاحب نے زبان کی بڑی خدمت کی ہے۔ اہل علم کو اس کی پوری پوری
 قدر کرنی چاہیے۔

انقلاب لاہور

فرہنگ عامرہ پومولوی محمد عبداللہ خاں صاحب نویشگی خوجوی کی گئی سال کی
 جانفتائی اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے۔ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جن سے توقع ہے کہ فرہنگ عامرہ
 بہت مقبولیت حاصل کرے گی۔ یہ لغت ہمارے خیال میں نہ صرف طلباء اور معلمین بلکہ ادیبان
 شہر، مصنفین، مؤلفین اور قارئین پیشہ حضرات کے لئے بھی بہت مفید ہے۔
 ہم مولوی عبداللہ خاں نویشگی خوجوی کو اس کامیابی پر سختی مبارکباد دیتے ہیں۔

احسان لاہور

فرہنگ عامرہ :- مولف نے یہ گرانقدر ذخیرہ مرتب کرنے کے اردو زبان پر ایک غیر منانی
 احسان کیا ہے۔

علوم و فنون کی ترقی کے لازمی نتیجے میں جو اصطلاحات پیدا ہوئی ہیں وہ عمدہ اسلوب
 اور ترتیب کے ساتھ جمع کر دی گئی ہیں۔ الفاظ کی تلاش میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔
 جدید فارسی کے لغات بھی بکثرت شامل ہیں، اسلئے طلباء کے لئے یہ لغت خصوصیت کے
 ساتھ مفید ہے۔

جامعت اور اختصار کے لحاظ سے فرہنگ عامرہ لغات میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی
 ہے کہ حامیان اردو فاضل مولف کی خواہش افزائی کریں گے۔

زمیندار لاہور

فرہنگ عامرہ :- یہ کتاب جو چالیس ہزار عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کا گرانقدر ذخیرہ ہے جہاں دو لغات میں بلند پایہ اضافہ ہے۔ اس لغت کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اعراب کے ذریعے صحیح تلفظ بتا دیا گیا ہے جو حد درجہ مفید ہے۔

الفاظ کے استخراے ذخیرہ کو ایک جا کرنے میں مولوی عبداللہ خاں صاحب نوشہلی نے جو کوشش کی ہے وہ اس کے لئے مستحق تبریک و تحسین ہیں۔
اس گرانقدر ذخیرہ کتب کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت کچھ بھی زیادہ نہیں۔

شہباز لاہور

یہ ایک جامع فرہنگ ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی زبان کے چالیس ہزار الفاظ کا صحیح تلفظ اور معنی درج ہیں۔

اردو زبان میں ایسی فرہنگ قریباً کمیا ہے جس میں الفاظ کے صحیح تلفظ کو پورے اعراب کے ساتھ اور لفظ کے ٹکڑے کر کے دکھایا گیا ہو۔ عربی اور فارسی الفاظ کے اعراب میں تغیر ہونے پر ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کی پہلی صورت اور آخری صورت میں معنی لحاظ سے کوئی علاقہ تک باقی نہیں رہتا۔ ان زبانوں کے الفاظ کے متعلق دوسری شکل یہ ہے۔ بعض الفاظ کے ساتھ کچھ ایسے زائد حروف نشان ہوتے ہیں کہ ان کے اطلاق اور تلفظ میں کامل ہم آہنگی نہیں ہوتی۔

فرہنگ عامرہ میں ایسی تمام مشکلات حل کر دی گئی ہیں اور ہر لفظ کی ماہیت واضح کر دی گئی ہے۔

یہ کتاب سید مفید ہے اور اہل قلم کے پاس ضرور موجود ہونی چاہیے۔

ساقی دہلی

فرنگ عامرہ :- محمد عبدالرشید خاں صاحب نوشکی نے یہ نئی لغت ساری عمر کی کاوش و تحقیق کے بعد پیش کی ہے۔ یہ تقریباً چالیس ہزار عربی، فارسی، ترکی وغیرہ الفاظ کی جامع فرنگ ہے۔ الفاظ کے علاوہ مصطلحات کی بھی اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے۔

سب سے بڑی خوبی اس لغت کی یہ ہے کہ ہر لفظ کا صحیح تلفظ حروف کے جوڑا لگ لگ بنا کر اور اعراب کے ذریعے بتایا ہے۔ یہ اس دشواری کا بہت اچھا حل ہے جو ہمیں اکثر عربی میں پیش آتی ہے کہ لفظ کو اطلاق کے مطابق (جیسا کہ فارسی اور اردو کا قاعدہ ہے) نہیں پڑھا جاتا مثلاً رب النوع میں بلحاظ لفظ "ا" اور "ل" کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ صاحب فرنگ عامرہ نے اس کا تلفظ اس طرح بتایا ہے۔ (رَب - بُن - فَوْع)

اسی طرح کی بے شمار تلفظی دشواریوں سے آئے دن سابقہ پڑتا رہتا ہے جن کے لئے فرنگ عامرہ سے بہتر اردو لغت ملنی ناممکن ہے۔

خیام لاہور

فرنگ عامرہ :- یہ لغت جو عربی، فارسی، اور ترکی کے قریب چالیس ہزار الفاظ پر مشتمل ہے۔ اردو زبان طبقہ کی ایک دیرینہ ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ مرتب نے انتہائی محنت و کاوش سے کام لیا ہے۔ لغت میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اردو کے کسی اور لغت میں موجود نہیں ہیں۔

یہ فرنگ اخبار نویسوں، مترجموں، شاعروں اور طالب علموں کے لئے علی الخصوص مفید رہے گی۔

ہم مصنف کو اس متم بانشان کا نامہ — پر مبارکباد دیتے ہیں۔

اولاد پواتے علی گڑھ

فرہنگ عامرہ:۔ قمری جلد کی ایک نہایت خوشنما لغات اس وقت ہمارے پیش نظر ہے جس کو محمد عبداللہ خاں نوشکی نے ساہا سال تک شہانہ روز کی موقری اور کاوش کے بعد مرتب کیا ہے۔

یہ بہت سی اچھوتی اور مستثنیٰ خوبیوں کی حامل ہے جو کسی دوسری متداول لغت میں نہیں پائی جاتی ہیں۔

ہماری رائے میں اس قابل قدر لغت کو صوبجات سرحد، سندھ، بہنگال اور مملکت آصفیہ میں علی الخصوص رواج دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں آجکل اردو اشاعت پزیر ہے، تاکہ وہاں کے نو آموز لوگوں کو زبان کے سمجھنے، بولنے اور کتاب میں و اختیارات کے پڑھنے میں فوہنگارے سے پوری مدد حاصل ہو۔

ہمیں امید ہے کہ شولف کی ہر طریقہ پر حوصلہ افزائی کی جاوے گی۔

زمانہ کان پور

فرہنگ عامرہ:۔ اس نام سے محمد عبد اللہ خاں صاحب نوشکی نے عربی، فارسی، ترکی کی لغات کا ایک کارآمد فرہنگ تیار کیا ہے۔ جس میں کئی ہزار الفاظ و اصطلاحات کے معنی درج ہیں اور ہر لفظ کے سامنے پریکٹ میں اس کا تلفظ بھی دیدیا گیا ہے۔ جس سے لفظ کا صحیح تلفظ معلوم ہو جاتا ہے۔

حرم لکھنؤ

زبان اردو کو ایک ایسی فرہنگ کی ضرورت تھی جو موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرے اور اس میں آجکل کے مروج اور جدید الفاظ ہوں۔ فرہنگ عامرہ نے اس کی کو پورا کر دیا ہے

یہ اردو کی پہلی فرہنگ کہی جاسکتی ہے جو بجاظاً ترتیب، کتابت، طباعت اور قیمت، اردو لٹریچر میں ایک قابل قدر امناذ ہے۔

ہم و توفیق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں اب تک استقدر جامع اور کارآمد لغت نہیں شائع ہوئی ہے۔ ہر اردو دان کو اپنے پاس اس کی ایک جلد رکھنا چاہیے۔
محمد عبداللہ خاں صاحب نولٹنگی نے ایسی مفید کتاب کو پیش کر کے صحیح معنوں میں ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔

پر کتاب لاہور

وہ سے ایک ایسے لغت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ جس میں فارسی، عربی اور ترکی کے ان الفاظ کا جو عام استعمال میں آتے ہیں انہیں اردو کا جامہ پہنایا جائے۔
مولوی عبداللہ خاں نولٹنگی نے فرہنگ عامہ تالیف کر کے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے اور ایسا محمد علی پوری کا دیش اور محنت سے مرتب کیا ہے۔
اس لغت سے پہلے کئی لغت شائع ہو چکی ہیں مگر ان میں وہ ترتیب اور ضبط نہیں جو فرہنگ عامہ میں ہے۔ یہ لغت بالکل انگریزی طرز پر بنیاد کی گئی ہے۔

انجام غازی آباد

اس وقت ۵۹۶ صفحات کی ایک ضخیم لغت "فرہنگ عامہ" ہمارے سامنے ہے۔ جس کی ترتیب کا سہرا جناب محمد عبداللہ خاں صاحب نولٹنگی کے سر ہے۔
ہمیں اچھی طرح معلوم ہوا ہے کہ جناب نولٹنگی صاحب اس کتاب کی تالیف میں لگانا چار پانچ سال تک مشق و روز محنت کرتے رہے۔
کتاب کے مطالعہ سے اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جہاں تک ہماری معلومت کا تعلق ہے اب تک ہمارے یہاں کوئی ایسی عمدہ و بہترین لغت موجود نہیں تھی۔

کا ایک نسخہ برائے روپیہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ یہ کتاب خاں صاحب نے بچوں کے لئے تالیف کی ہے، جو موجودہ زمانہ کی علمی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر لکھی ہے۔ اورینٹل اور اویب عالم وغیرہ کے امتحانوں کی تیاری کے لئے یہ لغات بڑی مفید ہے۔ یہ فرہنگ اپنی ظاہری اور معنوی خوبیوں کے اعتبار سے بہت معتد ہے۔

اداکار لاہور

ہماری رائے میں یہ لغت، ماہرین زبان اور معمولی لکھے پڑھوں کے واسطے حد درجہ مفید ہے۔ خصوصیت سے کالجوں اور اسکولوں کے طلباء کے لئے یہ لغت ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔

غرضکہ یہ لغت اپنی ظاہری و معنوی خوبیوں کے امتیاز سے بہت ہی مفید و دلکش ہے جس کے لئے اس کتاب کے قابل تالیف کنندہ جناب محمد عبداللہ خاں صاحب کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔

شیخ انور شمس حضرت مولانا حسین احمد صاحب دہلی

صدر مدرس دارالعلوم دیوبند

یہ کتاب اپنے نئے اسلوب پر نہایت عرق ریزی سے تیار کی گئی ہے اور ہندوستان کے اردو خوان طلبہ کے لئے بہت زیادہ نافع اور مفید ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف اسکول اور کالج کے طلبہ بلکہ ان کے مدرّسین بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ان کے لئے تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں یہ کتاب اب حیات کا کام دے گی۔ نیز ارباب علم اور شائقین اردو فارسی کے لئے بھی نہایت کارآمد ہے۔

میں علم و معرفت طبقہ سے پروردگار پرستوں کو کہتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی اشاعت میں بیش از بیش حصّہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولف موصوف کو

اس علمی خدمت کی جڑ اُسے خیر عطا فرمائے اور عام و خاص اہل ہند کو اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

عصمت دہلی

ہر ترقی یافتہ زبان میں ایسی لغات موجود ہوتی ہیں جو لسانی ضروریات کو پورا کریں۔ اردو میں چند لغات ایسی تو ضرور ہیں جنہیں عمدہ کہا جاسکتا ہے، مگر ایسی کوئی نہیں تھی جس میں زبان کے تمام متعلقات موجود ہوں

شکر ہے عبداللہ خاں صاحب نوشکی نے، سا لہا سال کی محنت، عرق ریزی کے بعد، فرہنگ عامہ کو ترتیب دے کر اس کمی کو بڑی حد تک پورا کر دیا۔ اس میں ایسی خصوصیات ہیں جو اُسے تمام دوسری لغات سے ممتاز کرتی ہیں۔

جناب ڈاکٹر شہید صاحب لفظی صدر شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

فرہنگ عامہ میں ان تمام الفاظ کے معنی اور تلفظ نہایت واضح اور جامع طریقے سے دئے گئے ہیں جو اردو میں عام طور سے مروج ہیں۔

قابل ملاحظہ بڑی محنت اور تحقیق سے کام لیا ہے۔ اور یہ دیکھ کر اور تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک خالص علمی اور تحقیقی کام کو ایسے مقام و ماحول میں رہ کر انجام دیا جو ایسے کام کے لئے موزوں نہ تھے۔

فرہنگ عامہ کی تالیف بڑی عرق ریزی، قابلیت اور ذمہ داری کا کام ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ خان صاحب مدد و روح اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے میں پورے طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔

مجھے امید ہے کہ اس فرہنگ کی پذیرائی اردو داں طبقہ میں نہایت فراخ و صغلی سے ہوگی۔

سوراجیہ دہلی

اردو زبان میں اب تک کوئی مستند اور مکمل لغت نہ تھی جو جملہ ضروریات پر حاوی ہو سکتی۔ حالانکہ ویسے کئی لغت تھیں مگر وہ ناکافی خیال کی جاتی تھیں۔ اس کمی کو جناب عبداللہ خاں صاحب نوشہری نے ”فرہنگ عامرہ“ تصنیف کر کے پورا کر دیا۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خان صاحب موصوف نے اپنے اس کارنامے سے اردو زبان میں نئے نئے سرے سے جان ڈال دی ہے۔
فرہنگ عامرہ ایک جامع اور مکمل لغت ہے جس کا مطالعہ خاص کر طلباء کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

میں جناب عبداللہ خاں صاحب کو خصوصاً ایک عظیم الشان کارنامے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ امید کمال ہے کہ اردو دان طبقہ اس جانفشانی کا اعتراف کرے گا۔

حضرت مولانا طیب حنا قاسمی ناظم دارالعلوم دیوبند

ذخیرہ لغت پر زبان کا، اور زبان پر تمدنی شائستگی کا بہت حد تک دارو مدار ہے۔ اجتماعی زندگی میں تعارف و تعاون باہمی کے لئے پہلا سابقہ زبان ہی سے پڑتا ہے، عمل دوسرے درجہ کی چیز ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ دو زبان و لغت ”متمین انسان کی پوری زندگی کا پل حصہ ہے، جس پر اس کی عملی زندگی کی، جو زندگی کا نصف ثانی ہے، خوبی و خرابی موقوف ہے اور اس لئے پوری زندگی کو شائستہ بنانے کے لئے ناگزیر ہو گا کہ زبان اور تعمیر کو درست اور با محاورہ کیا جائے اور ذخیرہ لغت کی فراہمی اور اس کے صحیح تلفظ کی ترہانی

میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا جائے۔

میرے محترم دوست عبداللہ خالص صاحب خونیگی خورجوی مبارک باد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لئے ”فرہنگ عامرہ“ کے نام سے چالیس ہزار لغات کا ذخیرہ جمع فرمایا اور ساتھ ہی ہر ہر لغت کے صحیح تلفظ اور ہجاء کے لئے ایسی مقبول صورت اختیار کی کہ یہ مقصد بغیر کسی عبارت و عنوان کے محض اعراب اور نشست کلمات سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کتاب بحیثیت مجموعی اردو ادب کی ایک بے نظیر خدمت ہے، خدا تعالیٰ قبول فرمائے اور اردو نواں طبقہ کے لئے اُسے مشعل راہ بنائے۔

امید ہے کہ اہل زبان اسے قدر کے ہاتھوں لیں گے اور مصنف کو دعا خیر سے فراموش نہ کریں گے۔

ہنگارستان دہلی

جہاں تک ہمیں تحقیق ہے اردو زبان میں یہ فرہنگ اپنی قسم کی واحد فرہنگ ہے جو انگریزی و کشمیری کے اصول پر تالیف کی گئی ہے۔

فوریہ جیسی غیر ادبی سرزمین میں بیٹھ کر الفاظ کے اتنے بڑے ذخیرہ کو یکجا کرنے میں مولوی عبداللہ خاں صاحب خونیگی نے جو کوشش کی ہے وہ اس کے لئے مستحق تبریک و تحسین ہیں۔

ہماری رائے میں اس قابل قدر لغات کو اردو کی ترویج کے لئے ہر جگہ رواج دینے کی ضرورت ہے، تاکہ نوآموز طالبان اردو زبان کے سمجھنے بولنے اور کتابیں و اخبارات کے پڑھنے میں اس فرہنگ سے استفادہ کر سکیں۔

امید ہے کہ حامیان ترقی اردو اسے قدر کے ہاتھوں لیں گے۔

بھولی دہلی

اردو زبان و ادب کے شہداء یوں کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ فرہنگ عامرہ کے نام سے لغت کی ایک نہایت مفید کتاب شائع ہو گئی ہے، یہ لغت جناب عبداللہ خاں صاحب ٹولیشکی خوجوی کی محنت اور ادبی ذوق کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اس فرہنگ میں ایسے چالیس ہزار الفاظ جمع کر دیے ہیں جو اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کی ضروریات کی بہت بڑی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔

فرہنگ عامرہ یقیناً لغت کی ایک مفید کتاب ہے اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ لغت کی کتاب خریدنے والے ہوں وہ فرہنگ عامرہ کو کم سے کم دیکھ مزور لیں۔ مگر غالب یہی ہے کہ وہ اسی کو خریدنا پسند کریں گے۔

حسان العصر حضرت حسن باہروی سابق پرفیسر دوم یونیورسٹی علیگند
اس وقت تک جتنی کتب لغت متداول ہیں، ان کی ضخامت، نیز ان کی عبارت طلباء کی برواقت اور قدرت فہم سے باہر ہے، اس صورت میں کسی جامع و مانع لغت کا شائع ہونا، پڑھنے، پڑھانے والوں کے لئے افادہ و استفادے کا بہترین ذریعہ ہے۔

مولوی محمد عبداللہ خاں صاحب ٹولیشکی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا مجموعہ لغت اپنی پوری محنت اور گہری کاوش سے مرتب کیا ہے۔ جس میں چالیس ہزار الفاظ ضروری تشریح اور مناسب تھریج کے ساتھ فراہم ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے لغات کشوری وغیرہ کی طرح اور کتب لغت بھی شائع ہو چکی ہیں، لیکن ان میں وہ شرح و بسط اور قید و ضبط نہیں جس سے فرہنگ عامرہ

معمو رہے۔ مرد و خیر انگریزی لغات کی ترتیب کے مطابق اسکو مرتب کیا ہے۔ بہر لغت کے تحت میں ضروری اور مفید معنی و مفہوم کے اندر لیں۔ سے کام لیا گیا ہے۔ فضولیات کو یکے کے سلم ترک کر دیا ہے اور تمام وہ لغات جو مرد و خیر کتب نصاب میں پائے جاتے ہیں۔ فرہنگ عامہ میں یکجا کر دئے گئے ہیں۔

ایک نمایاں اور مفید ترین خصوصیت، صحیح تلفظ کا اظہار و التزام ہے، جس کی وجہ سے طلبہ غلط تلفظ کی ابتلا سے بچے رہیں گے اور بغیر کسی کی مدد کے صحت الفاظ پر اعتماد حاصل کر سکیں گے۔

مولف موصوف نے یہ علمی فرض کفائی پوری کامیابی کے ساتھ پورا کیا ہے۔ طلبہ غلطی کریں گے۔ اگر ایسے کار آمد لغت سے کام نہ لیں گے۔ اس کا مطالعہ یقیناً ان کو دوسرے لغتوں سے مستغنی کر دے گا اور امتحان کے وقت باسانی کامیابی کا اطمینان دلا دے گا۔

جناب علامہ البیدین صاحب اذکر کثیرہ شریعت تعلیمات پاست کا مہم

آپ نے اس فرہنگ کو بہت محنت اور قابلیت سے مرتب کیا ہے اور اب سے پہلے جس مقصد کے لئے مخم نر کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوتا تھا وہ اب آپ کی اس فرہنگ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

خدا کرے آپ کی یہ ادبی اور لسانی کوشش مشکور ہو۔

جناب ضی تبدی محمد احمد صاحب کاظمی ایم۔ ایل۔ اے (سنٹرل)

ایڈووکیٹ الر آباد ہائی کورٹ

زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ زبان کی تبدیلی ایک فطری امر ہے۔ لیکن اردو بانوں کے مقابلہ میں اردو زبان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایسے وقت میں محمد اللہ خاں صاحب نوشکی نوری کی خدمت جہایت قابل قدر ہے۔

انہوں نے فرہنگ عامہ ترتیب دے کر ایک بڑی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تقریباً چالیس ہزار الفاظ کو یکجا کر کے اور ان کے صحیح تلفظ، معنی اور ماخذ تحقیق سے جمع کر کے انہوں نے پبلک کے سامنے ایک نثر انہ پیش کر دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی جامع کتاب کی تیاری کے لئے بحرِ علمی کے ساتھ صدرِ حیدر کی محنت و کاوش کی ضرورت ہے اور یہ کتاب برسوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ میں مولوی عبد اللہ خاں صاحب کو اس کی تکمیل مبارک باد دیتا ہوں، انہوں نے اردو زبان پر ایک بڑا احسان کیا ہے اور امید ہے کہ اس کی ہر طبقہ کے حضرات پوری قدر کریں گے۔

آنا ترک دہلی

اس لغت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کو اردو سے شوق ہو لیکن اردو کے تلفظ سے نا آشنا ہو، بغیر کسی دوسرے کی امداد کے اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔

اس کتاب کی جس قدر بھی تعریف کی جائے کم ہے، ضرورت ہے کہ ملک کا اردو زبان سے دلچسپی رکھنے والا طبقہ کتاب کی قدر کرے۔ ہمارے خیال میں اس کتاب کو ملک کی تمام یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل کرنا چاہیے۔

نگار خانہ دہلی

عبد اللہ خاں صاحب نویشکی نورجوی نے جس محنت و جانفشانی سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ وہ قابلِ مدد ستائش و داد ہے۔ قدیم و جدید اردو کے الفاظ میں کوئی ایسا لفظ نہیں معلوم ہوتا جو آپ نے چھوڑ دیا ہو۔

سزنج لکھنؤ

سزنج کے کالموں میں آپ سزنجی لغات و عرصہ تک ملاحظہ فرمائیے ہیں، اب آج ایک ایسی لغت پر تبصرہ کیا جا رہا ہے جو صحیح معنوں میں اردو کی پہلی مکمل ڈکشنری کہلانے کی مستحق ہے۔

دراصل فرہنگ عامرہ کی تالیف مولانا محمد عبداللہ خاں صاحب نوشہلی کا ایک کارنامہ

عظیم ہے۔

عالمگیر لاہور

مدت سے اردو میں ایک ایسے لغت کی ضرورت محسوس ہو جانے کے علاوہ اخبار نویس، مترجموں، شاعروں اور طالب علموں کی ضروریات کو پورا کرے۔ ہمیں مسرت ہے کہ جناب محمد عبداللہ خاں صاحب نوشہلی نے بے انتہا محنت و کاوش سے ایک ایسا لغت مرتب کیا ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کے تقریباً چالیس ہزار الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔

مرتب نے انتہائی عجز و ذمہ داری اور شبانہ روز کاوش سے کام لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عامیان اردو کے حلقہ میں اس لغت کا پرچوش خیر مقدم کیا جائے گا۔

مختر خیال دہلی

جناب محمد عبداللہ صاحب نوشہلی نے نہایت محنت اور کاوش کے بعد تقریباً چالیس ہزار الفاظ کو کتابی شکل میں جمع کر کے لغت کی کتاب تیار کی ہے۔ اس کا نام فرہنگ عامرہ رکھا گیا ہے۔

مولفین اور مصنفین اور شائقین ادب اردو کے لئے فرہنگ عامرہ ایک ضروری کتاب ہے۔

جناب سید سجاد حیدر صاحب دہلی کے سابق ریسرچر اسٹڈیوں کی ایک کتاب

یہ فرہنگ مغربی ڈکشنریوں کے طرز پر لکھی گئی ہے، جس سے الفاظ کے ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ الفاظ کے معانی مختصر مگر صحیح اور تشفی بخش دئے گئے ہیں۔

جناب فیض الیاس صاحب برنی ایم اے۔ ایل۔ ایل۔ بی

ناظم دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

ہمت سے اردو میں ایسے مختصر اور جامع فرہنگ کی ضرورت تھی، اس کتاب نے بڑی حد تک یہ ضرورت پوری کر دی۔ الفاظ کی ترتیب، معنی کی مختصر تفہیم اور خاکہ تلفظ کی توضیح، اس فرہنگ کی یہ خصوصیات بہت مفید ہیں۔

مصنفین اردو دہلی

اردو زبان کا بالکل جدید چالیس ہزار با تلفظ لغات کا خزائن ہے، فرہنگ کو دور حاضرہ کے قالب میں ڈھالنے کی ہر امکانی کوشش کی گئی ہے۔ نہایت جامع اور پرازمعلومات ہے۔

عزیز ہند جہانسی

فرہنگ کلچر جس میں تقریباً چالیس ہزار فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ جمع کئے گئے ہیں۔ ایک سادہ اور خوشترتی ہے۔

کوئی کئی ایسی نہیں ہے جو اس میں پوری نہ کی گئی ہو۔

فرہنگ خیال لاہور

اس لغت میں چالیس ہزار الفاظ ہیں جن کے تلفظ کا طریقہ بتلاتے ہوئے ان کے معانی بھی بتلائے گئے ہیں۔

یہ جدید طرز کا لغت نڈل اور ہائی کلاسوں کے لئے بیکار مفید ہو گا۔

مولوی محمد مظہر اللہ صاحب اسٹنٹ جسطرار

عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

یہ بڑی مفید کتاب ہے اور جدید طرز پر مرتب ہوئی ہے۔

مشورہ ملی

”فرہنگ عامہ“ محمد عبداللہ خاں نوشکی کی تالیف ہے۔ اس میں ایسے چالیس ہزار مرکب اور مفرد الفاظ جمع کئے گئے ہیں جو اردو زبان میں معمولاً بولے اور لکھے جاتے ہیں۔ ہر لفظ کے معنی تختیق کے ساتھ درج کئے گئے ہیں اور اعراب لگا کر اور الفاظ کا تجزیہ کر کے صحیح تلفظ بتائے گئے ہیں۔ الفاظ کی ترتیب حروف تہجی کے مطابق ہے اور بالکل دور حاضر کے دستور کے مطابق۔ اس لئے الفاظ کی تلاش میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔

یہ فرہنگ طلباء کے لئے اور ان سب لوگوں کے لئے مفید ہے جو مطالعہ سے کچھ رکھتے ہیں۔

نوائے وطن

فرہنگ عامہ عبداللہ خاں صاحب نوشکی کی دماغ سازی کا کامیاب نتیجہ ہے۔ مؤلف نے تقریباً چالیس ہزار عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔ انگریزی لغت کے مانند ہر لفظ کے ٹکڑے کر دئے گئے ہیں تاکہ تلفظ

ادا کرنے میں آسانی ہو۔
 عبداللہ صاحب کی یہ کوشش زبان اردو پر بڑا بھاری احسان ہے۔ کتاب
 نہایت مفید ہے اور قیمت بہت کم۔

پیغام وطن دہلی

اردو زبان میں ہندی، عربی، فارسی اور ترکی زبان کے بے انتہا
 الفاظ داخل ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں جو لغات پائی جاتی ہیں۔ اُن میں محض
 پرانی اصطلاحات ملتی ہیں۔ جدید اصطلاحی الفاظ اور ان کے معانی کا نام
 و نشان بھی نہیں۔

عوضہ سے ایک ایسی لغت کی ضرورت تھی، جس میں دورِ حاضرہ کے
 اصطلاحی معنی درج کئے گئے ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ مصنف ممدوح
 نے فرہنگ میں اس ضرورت کو پورا کر کے اردو پر احسان کیا ہے۔ اس میں فرہنگ
 قریب چالیس ہزار الفاظ کے معنی دئے گئے ہیں۔ جن کی زبان نہایت
 ہی آسان ہے۔

مصنف اردو کے حامیوں کے شکر کے مستحق ہیں۔

نیشنل گروٹ دہلی

فرہنگ عامہ ہی صرف ایک ایسی سنٹی لغت ہی جو زمانہ جدیدہ کے مطابق ہے اور اردو زبان
 کو ملک میں رواج دینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے اس لئے تلفظ کا طریقہ اس قدر مفید
 اور کارآمد ہے جس سے ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے۔ اس لئے حامیانِ اردو کو یہ کتاب خریدنا
 اور اس کو ملک میں رواج دینا چاہئے۔

زائٹ آنریبل ڈاکٹر سرتیج بہا اور سپرو

صدر آل انڈیا انجمن ترقی اردو

میں آپ کی عنایت کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایک جلد اپنی کتاب کی عطا فرمائی۔ اس حوصہ میں نیچے چند بار آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ ”ایسی فرہنگ“ اس وقت شائع ہوئی۔ میری رائے ناقص میں یہ نہایت مفید ثابت ہوگی اور ہم سب کو جنکو کہ اردو سے تعلق ہے آپ کا احسان ماننا پڑے گا کہ آپ نے اس قدر محنت کے ساتھ اس کتاب کو طیار کیا۔

یہ لغت نہایت قابل قدر ہے۔

حق لکھنؤ

فرہنگ عامرہ۔ عربی، فارسی اور ترکی لغات کا بالفاظ محزون مؤلفہ جناب محمد عبداللہ خان صاحب خوشیگی اس وقت ہمارے روبرو ہے۔ اس میں چالیس ہزار بالفاظ لغات کا خزانہ محفوظ ہے جو ترقی اردو کے سلسلہ میں ایک قابل قدر اور غیر فانی چیز ہے۔

کہنے کو تو یہ لغت طالب علموں کے لئے لکھا گیا ہے۔ لیکن ہمارے آزاد اور اسکے ہم عصر ہیں کہ یہ لغت بتدی اور تہی دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ مصنف نے اس کی ترتیب و تدوین میں انتہائی دقت نظر، محنت اور تلاش و تحقیق سے کام لیا ہے پورے لغت کو دیکھ جائیے، ایک جملہ، ایک لفظ یا ایک حرف بچھ خلاف تہذیب نہ ملے گا۔ ورنہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اعضا و اعضاء کا ترجمہ نہایت غلیظ الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ فرہنگ عامرہ اس قسم کی تمام لغویات اور لسانی کردہات سے پاک و صاف ہے۔

عبداللہ خاں صاحب نولیشنگی کی یہ مایہ ناز پیشکش، اُن کی ادنیٰ و فنی جدوجہد اور علمی زندگی کا ایک ایسا کارنامہ ہے جسکو محفوظ رکھنے اور اس کے فوائد کو عام و وسیع کرنا ہر فرد قوم کا اولین فرض ہے۔

اردو طالب علموں اور ناٹھی ادبا و شعرا کے لئے عموماً یہ ایسی مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں ذہن و نگاہ کی مجبوریاں غبارِ کارواں بن سکتی ہیں۔ غرضِ جدت، ندرت اور بلاغت کی وہ تمام مثالیں جو کسی ذخیرہ لغت کے لئے ضروری ہو سکتی ہیں فرہنگ عامرہ میں ایک ایک لفظ کے ساتھ موجود ہیں۔

محمد عبداللہ خاں صاحب نولیشنگی کی یہ خلوص بھری پیشکش قابل قبول اور لائق تائش ہے۔ خدا کرے ملک کے طول و عرض میں اس کا طوطی بولے اور ملک کے ہر چھوٹے بڑے تعلیمی اداروں، انجمنوں، مجلسوں میں اسکو ممتاز جگہ ملے۔

جناب آصف علی صاحب پیر سٹروپلی۔ ایم۔ ایل۔ رائے (منزل)

آپ نے ایک بڑی بھرپور کامیابی اور جس محنت سے آپ نے یہ کام انجام دیا ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہر ایک شخص مزاج اور قابوس اور بڑی بڑی ضخیم لغت کہتا ہے ہر وقت پاس نہیں رکھ سکتا مگر مختصر ضرورت فرہنگ عامرہ سے قطعی پوری ہوجاتی ہے۔

عصر جدید کلکتہ

خورجہ ضلع بلن شہر کے جناب محمد عبداللہ خاں صاحب نولیشنگی نے ایک جدید نفاست "فرہنگ عامرہ" کے نام سے تصنیف کی ہے جس کی ایک جلد بہار سے پاس تبصرہ کے لئے آئی ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کے چالیس ہزار الفاظ کے معنی بیان کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کا تلفظ بھی دے دیا گیا ہے اور ہر جہت سے قابل تحسین ہے۔ ہم نے جابجا اس کو دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ اردو

زبان کے طلبہ ہی کے لئے نہیں بلکہ اساتذہ کے لئے بھی یہ مجموعہ سید مفید ہے۔ ہندوستان کے تمام الفاظ اس میں موجود ہیں۔ جہاں تک ہم نے اندازہ کیا ہے عربی کے جدید الفاظ بھی اس میں لے لئے گئے ہیں۔

ہم کو معلوم ہے کہ اسکول اور مدارس کے طلبہ اس قسم کی جامع لغات کی تلاش میں رہتے ہیں بنا بریں اسکولوں اور مدارس کے تمام طلبہ سے ہم سفارش کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی کتاب منگو کر اپنے پاس رکھیں۔ اتنی جامع لغت کی کتاب ایسی خوبصورت قطع پر شایاں تک ہمارے نظروں سے نہیں گذری ہے۔

مصنف صاحب یقیناً ملک کے اہل علم کی طرف سے ہمت افزائی کے مستحق ہیں۔

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت العلماء ہند

یہ کتاب عربی، فارسی، ترکی کے چالیس ہزار الفاظ کا بیش بہا خزانہ ہے۔ فاضل لغت نے الفاظ کے صحیح تلفظ کو اعاب کے ذریعہ واضح کرنے کی سعی مشکور فرمائی ہے جو لغت کی تالیفات میں ایک مفید اضافہ ہے۔

میرزا خیال ہے کہ اس قسم کی سہل الماخذ مفید اور کوئی کتاب موجود نہیں ہے، جو اہل علم تحریر و انشاء سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کیلئے یہ کتاب سید کارآمد ہے۔
حق تعالیٰ مولف کو جزا اے خیر سے اور اس تالیف کو مقبولیت عامہ کے خلعت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

شاہکار لاہور

یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اکثر ہندوستانی تعلیمات و ادبیات سے اب خاص دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کی یہ کوششیں بڑی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں کہ رفتار زمانہ کے ساتھ تعلیم و تعلم میں جو بہتر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ان کے مطابق پڑھنے

مشرقی انداز کو بھی نیا رنگ دیا جائے۔

اسی سلسلہ میں مولوی محمد عبداللہ خاں خوشیگی نے ایک ایسا مجموعہ لغت مرتب کیا ہے۔ جسے ہر لحاظ سے جامع کہا جاسکتا ہے۔ کتاب انگریزی ترتیب کے مطابق ہے اور اس کی تکمیل اس خوبی سے کی گئی ہے کہ اس میں موجودہ زمانہ کی ہر علمی ضرورت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔

کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر لفظ کے سامنے اس کا صحیح تلفظ درج ہے اور الفاظ کے معنی جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ ہر مصلحت کے ساتھ اس کا مضارع بھی موجود ہے اور ہر حرف کی تقطیع کے شروع میں ان حروف کو نشانوں کے ساتھ دیا گیا ہے جن سے اس کا بدل ہے۔

دیباچے نے کتاب کی خوبیوں میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ نئے نئے الفاظ کے لئے اس میں جہاں الفساک الصدور اور قواعد کی فہرست دی گئی ہے وہاں عام فارسی اسماء کی جمع بنانے کا قاعدہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ معنوں میں روزمرہ کی مشتملی، مجلسی رواداری، تہذیب اور سنجیدگی کا لحاظ رکھا گیا ہے اور بے رواج چیزوں کی جگہ ہزاروں نئے اقتصادی، تمدنی اور سیاسی الفاظ داخل کئے گئے ہیں۔ مولوی محمد عبداللہ خاں صاحب نے یہ قابل قدر فرہنگ مرتب کر کے زبان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ملک کے علمی و ادبی حلقوں میں اس کی بہت قدر ہوگی۔

دیش سماچاروہلی

فرہنگ عامرہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک لغت ہے جس میں عربی، فارسی اور ترکی کو تقریباً پالیسی ہزار الفاظ یکجا کر دئے گئے ہیں۔ عبداللہ خاں خوشیگی نے درحقیقت یہ ایک ایسی لغت تالیف کی ہے جو موجودہ دور تعلیم کے لئے بے حد مفید ہے۔

تو لنگی صاحب نے زبان کی بڑی خدمت کی ہے۔ اہل علم کو اسکی پوری قدر کرنی چاہیے۔

دین دنیا دہلی

فرنگ عامہ عربی اور فارسی الفاظ کی (جن میں مستعملہ ترکی الفاظ بھی شامل ہیں) ایک مختصر اور جامع فرہنگ ہے۔ ترتیب و تالیف فرہنگ میں زیادہ تر انگریزی سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طالب علموں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے فرہنگ عامہ مذکور طالب علموں کے لئے ایک جامع، مختصر، سستی اور مفید لغت ہے جس سے فائدہ اٹھانا بڑی ہفتوں کے مقابلہ میں ان کے لئے زیادہ آسان ہے۔

امید ہے کہ قابل مؤلف کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اسکولوں اور کالجوں میں فرہنگ عامہ بہت جلد کافی مقبولیت حاصل کر لے گی۔

نواب ابوالعظیم سراج الدین احمد خان صاحب سائل جانشین استاد و آراغ

مؤلف موصوف نے جس خوبی و انتظام سے اتنا ضخیم لغت فراہم کیا قابل ستائش ہے الفاظ کے تلفظ کی صورت کی عرض سے جو اہتمام حروف مقطعات کی صورت میں کیا ہے یہ ان کی اختراع ہے، جو کم یا یہ استعداد کے لوگوں کو صحیح تلفظ لغات میں مشتمل راہ ہے۔ یہ مجموعہ خط نسخی میں اس غرض سے مدون کیا گیا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ کم استعدادت کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔ جہاں تک میں دیکھ سکا، اسکی خوبوں کا مجموعہ انتہائی مؤلف کے متعلق میرے ہاتھ دعا کیلئے اٹھتے ہیں۔ خدائے توانا و تقدیر میں اس کی عمر میں برکت دے۔ ذوق مطالعہ میں اضافہ فرمے اور مبارک باد دیتا ہوں اس کو جسے میں اپنا قوت بازو جانتا ہوں اور فیروز بھائی کہہ کر خطاب کرتا ہوں۔

مجھے امید ہے کہ یونیورسٹیوں کے کتب خانے جتنے ہندوستان میں ہیں اور پرائیویٹ کالج

دو اداس وغیرہ کے کتب خانوں کے لئے اس فرہنگ عامرہ کو موجب ذریت سمجھیں گے۔ اور
شایقین ادب اردو سے نعمت غیر مرتبہ جائیں گے اور اس کے مطالعہ سے عام دماغ
فوائد کثیر حاصل کریں گے۔

انوکھی دنیا لاہور

فرہنگ عامرہ میدی نظر میں :-

فاضل مولف نے چالیس ہزار عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کو اس خوبی و قابلیت سے
مرتب کیا ہے کہ ایک بڑے سے بڑے دارالعلوم کو فرہنگ عامرہ کی موجودگی میں کسی دوسری
لغت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مولف نے طالب علموں اور عالموں پر کیسا احسان کیا ہے
اس ثابت کے لئے وہ مستحق مبارک باد ہیں۔ میں ضرور تمہارا صاحب سے اس
کے خریدنے کی سفارش کرتا ہوں۔ (اڈیٹر)

کامیاب دہلی

زبان اردو کے شاداب چین میں ایک اور پھول کھلا۔ اس نئے پھول کا نام فرہنگ کامیاب
دہلی ہے۔ ایک ایسی فرہنگ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو اردو کی جملہ ضروریات پر
حادی کہی جاسکے۔ اب یہ دیکھ کر ہیں بیجا مسرت ہوں کہ خود جس کے مولوی عبداللہ صاحب
فونٹنگ نے نہایت فمرداری اور ہوشمندی کے ساتھ فرہنگ عامرہ مرتب کر کے ضرور تمہارا
کے سامنے پیش کر دی۔

فرہنگ عامرہ کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مغربی ڈکشنریوں کے طریقہ
مرتب ہونی ہے اور الفاظ کا تلفظ سمجھانے کا بہت ہی آسان طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔
ہمارا خیال ہے کہ ”فرہنگ عامرہ“ اخبار نویسوں اور مترجموں اور طالب علموں
کے لئے خصوصیت سے کا در آمد ثابت ہوگی۔

خوشنگی صاحب اس شاندار خدمت زبان کے لئے یقیناً مبارک باد کے مستحق ہیں۔ امید ہے کہ جامیان اردو خوشنگی صاحب کی حوصلہ افزائی میں امرکانی اہل ادویشنگے اور ان کے اس اتمہائی مفید کا نامہ کی قدر کریں گے۔

کہکشاں دہلی

یو۔ پی کے مشہور اہل قلم مولوی محمد عبداللہ خان صاحب خوشنگی نے ہمیں فرہنگ عامہ تبصرہ کے لئے روانہ فرمائی ہے۔ یہ چالیس ہزار عربی، فارسی اور ترکی کے ایسے الفاظ کا لغت ہے جو اردو میں مستعمل ہیں اور جو ہم تقریر و تحریر میں روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مبتدیوں کے علاوہ خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اعرابی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس فرہنگ نے یہ مشکل خوبصورتی کے ساتھ ختم کر دی ہے۔ حقیقت میں فرہنگ عامہ، مفید، دلکش اور آسان لغت ہے جس کی ایک ایک جلد ادیٹر، واعظ، لیڈر اور اردو داں حضرات کے پاس ضرور رہنی چاہیے۔

خضر راہ لاہور

مولوی عبداللہ خان صاحب نے اردو زبان کے چالیس ہزار الفاظ ان کے صحیح لفظ، معانی و ماخذ کو تحقیق سے جمع کر کے اردو زبان کی گرانقدر خدمت کی ہے۔ حقیقت میں کسی زبان کی ترقی کے لئے اچھی لغات کی موجودگی نہایت ضروری امر ہے چنانچہ مولوی صاحب موصوف نے اس طرف توجہ کر کے ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ فرہنگ عامہ ترتیب حروف تہجی، صحت تلفظ اور معانی کے اعتبار سے عام لغات سے امتیاز رکھتی ہے۔

جدت مراد آباد

اردو ہندوستان کی ”لنگو فرنگا“ (مشترک زبان) ہے، جس کو دوس کو دوسے زائد بات ہے۔

بولتے اور لکھتے ہیں اور جب کو تقریباً تمام ملک سمجھتا ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کوئی کتاب کی اتنی بڑی زبان میں کوئی ایک بھی ایسی لغات کی کتاب نہیں ہے جو عصر حاضر کے مہیا پر پوری اثر ہے۔ میں سرت ہے کہ مولوی محمد عبدالرشید خان صاحب نوشہری نے ایک فرہنگ ”فرہنگ عامرہ“ شکرہ امیر علی تالیف فرما کر اردو زبان کی نہایت ہی قابل قدر خدمت انجام دی ہے جس کے لئے وہ اپنا مکے لکھنے شکر یہ کہ سخی ہیں۔ یوں تو یہ کتاب ہر شخص کیلئے مفید و کارآمد ہے لیکن طلباء کے لئے مخصوص ہے۔ یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔

ہم سفارش کرتے ہیں کہ ”فرہنگ عامرہ“ کو سردار المطالعہ، کتب خانہ اور ادارہ تعلیمی کی نیت بنایا جائے اور کسی اردو خواں شخص کا گھر اس کتاب سے خالی نہ رہے۔

ماہ نیم ماہ دہلی


فرہنگ عامرہ اردو زبان کی ایک لغت ہے جو فارسی، عربی اور مرد و ترک کی الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کے مرتب ہمارے محترم خان محمد عبدالرشید صاحب نوشہری ہیں۔ فرہنگ کم و بیش چالیس ہزار الفاظ اور ان کے ضروری معانی و مطالب کا جامع ذخیرہ ہے۔ جس میں الفاظ کے لکڑے کر کے اور غراب لگا کر ہر لفظ کے تلفظ کو اس طرح نمایاں کیا گیا ہے۔ کہ ایک بستی ہی آسانی کے ساتھ صحیح تلفظ معلوم کر سکتا ہے۔

ہم پروردگان میں درخواست کریں گے کہ وہ تمام حضرات جو اردو زبان سے کچھ ہی رکتے ہوں اس فرہنگ سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔

ہندوستان ریویو پبلسٹری عظیم آباد

فرہنگ عامرہ :- ایک اردو لغات

یہ کتاب ایک فرہنگ ہی نہیں عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے معنی اردو میں لکھے گئے ہیں اور جو شاہدہ مولف کی گہری کاوش اور دقیق کاغذ ہے۔ ایک بک دستہ مگر جامع لغات کی ضرورت جو اردو کے طلبہ و عرصہ سے محسوس کر رہے تھے، یہ کتاب بالآخر وجہ پوری کر دے گی۔ (ترجمہ)



جس زبان کی خود اپنی مستقل فرہنگ نہیں وہ ناکمل ہے، اور جو فرہنگ تلفظ سے معرّے لایینی ہے، اس لیے کہ تلفظ ہی کے بطن سے معانی پیدا ہوتے ہیں پس جس طرح کہ لغات کے معنوں کو سمجھنا اور ان کو یاد کرنا طالب علم کے لیے ایک ضروری امر ہے، بالکل اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری صحیح تلفظ کو جاننا اور بولنا ہے۔ کسی زبان کو شستہ لب و لہجہ میں ادا کرنے کی مہارت کا فقدان کمال زباندانی میں ایک نقص ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر مہیوب یہ ہے کہ ہم غلط اور بے جوڑ الفاظ بولنے کے باعث اپنا صحیح مافی الضمیر بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ عربی اور فارسی لغات میں ایک ہی اے کے متعدد تلفظ ہوتے ہیں اور بسا احوالات ہر تلفظ اپنی ایک جداگانہ حیثیت اور معنی رکھتا ہے، چنانچہ اس فرہنگ کے مطالعہ سے حقیقت واضح طور پر منکشف ہو جاوے گی کہ ایک ہی لغت کے اعراب میں تغیر ہونے پر کس طرح اُس کے معنی بدلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ان میں کوئی باہمی علاقہ تک باقی نہیں رہتا، لہذا تلفظ سے ناواقفیت کی بنا پر ایک ہم شکل مگر غیر معنی لفظ کا بے محل استعمال کو رد و قوی اور جہالت لسانی کا مضحکہ انگیز نمونہ ہے اور ایک مدعی علم کی عبائے

فضیلت پر ایسا بدناما دہبتہ ہے کہ جس کی تلافی کسی یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین سائنس بھی نہیں کر سکتی۔

عربی میں علی العموم مرکب الفاظ، فارسی اور ترکی میں بالخصوص مفرد لغات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے چہروں پر زائد حروف کے پڑے پڑے ہوئے ہیں جنہر کی وجہ سے ان کے اٹلے اور تلفظ میں کابل ہم آہنگی نہیں، یعنی جس نتیجے کے بموجب لکھے جاتے ہیں اُس کے ماتحت پڑھے نہیں جاتے، اور یہ تفہیم تلفظ میں ایک ایسی سنگین دشواری ہے کہ جس کا ازالہ اعراب بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جب تک ہر لغت کے پہلو پہ پہلو اُس کا براہ راست تلفظ مُست درج نہ ہو اسی شکل بے نقاب نہیں ہو سکتی۔

آج سے تقریباً ایک صدی ماقبل جب کہ فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان تھی اور گھر گھر اُس کا چرچا تھا، جب کہ یہاں کا طبقہ اعلیٰ اُردو کی نوشت و خواند سے بھی ابا کرتا تھا اور فارسی انشا پر دازی کا رسکہ جما ہوا تھا، ممکن ہے کہ یہ کسی حد تک کتابی تلفظ سے بے نیاز ہو، اور کیا عجب ہے کہ اس زمانہ کی فرہنگوں میں ہر لغت کے ہمدوش کمال تلفظ کا التزام نہ ہونے کی یہی علت غائی ہو، مگر آج جب کہ فارسی کے سر سے بادشاہت کا تاج اُتر چکا ہے اور خود اُسی کے متوسلین نے یرینہ کی ایک جماعت موقع پاکر بیخ کنی پرتلی ہوئی بیٹھی ہے، آج جب کہ فارسی سمجھنے والوں کی تعداد بندرتیچ محدود اور بولنے والوں کی منقود ہوتی چلی جاتی ہے، ناممکن ہے کہ کتشنہ کامان

دوب با تلفظ فرہنگوں کی امداد کے بغیر پورے طور پر سیراب ہو سکیں۔
 اب تک ہماری زبان اردو میں فارسی کی جتنی فرہنگیں لکھی جا چکی ہیں وہ
 لفظ سے بیگانہ ہیں اور ان کا نصب العین طلباء کو صرف لغات کے معانی رٹا کر
 تحریر کی امتحانات میں کامیاب کر دینا ہے، یہ ایک ایسا صریح نقص ہے جو ان کی
 قدر و قیمت کو بہت کم کر دیتا ہے، کیونکہ شعراء، خطباء اور صحیح الذوق جو بیان علم و ادب
 جو ایک زبان کو بحیثیت زبان سیکھنا چاہتے ہیں ایسی نا تمام کتابوں سے کوئی معتد
 فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کہ جن میں لغات کا تلفظ محض قیاس اور حبدان پر
 یاد کرنا پڑتا ہے۔

فرہنگ ہذا میں حتی الوسع پوری تحقیق و تدقیق کے بعد تلفظ لکھے گئے ہیں مگر بڑی
 مصیبت یہ ہے کہ جہاں ہماری اجتماعی زندگی کا شیرازہ ہر معاملہ میں بکھرا ہوا ہے
 وہاں ہماری زبان بھی اس پر لگندگی اور انتشار سے مستثنیٰ نہیں کیونکہ ہمارے یہاں
 کوئی ایسی فارسی فرہنگ موجود نہیں جو ایک مسلم حاکمانہ سند تصور ہو، پس کتہ چینیوں
 کو ہر جدید فرہنگ کی تردید کے لیے کوئی نہ کوئی موافق مطلب کتاب ہاتھ لگ جاتی ہے،
 یہی وجہ ہے کہ ایک غریب مؤلف سا اہا سال خون جگر لکھا کہ لغات مرتب کرتا ہے مگر
 اپنی مساعی شائقہ کا کوئی خوشگوار صلہ پانے کے بجائے اس کو اٹا معترضین کا ہدف
 لامت بنا پڑتا ہے۔

ڈاکٹر سیموئل جانسن نے ۱۷۵۵ء میں جب اپنی ڈکشنری لندن کی

پبلک کے سامنے پیش کی تو مشہور مرینی علوم ارنل آف چیسٹر فیلڈ نے مح
 ”ورلڈ“ کی دو مسلسل اشاعتوں میں نہایت فرائضی سے دادِ تحسین دی، جس پر
 تمام قوم نے ہنسا ہو کر لبیک کہا اور اس کے سچے تلفظ اور معنوں کو قولِ فصیح
 کیا۔ بڑھیک اسی زمانہ میں جب کہ علامہ سراج الدین خاں آرزو نے اپنی فا
 فرسنگ ”دلی والوں“ کی نذر کی تو وہ خود ہیں اور خود پسند طبائع کے غبار میں
 رہ گئی، حالانکہ جانسن کا جو پایہ انگریزی لٹریچر میں تسلیم کیا گیا ہے خان آرزو
 کہ جن کی وایہ قابلیت نے تیر، سودا، درد اور منظر جیسے فخر روزگار با کمال پر
 چڑھائے، ہمارے علمِ ادب میں اس سے بھی بڑھ کر ارفع و اعلى ہے۔

لغات کا تلفظ بیان کرنے کا پُرانا طریقہ اس قدر طولانی اور دیر عمل ہے کہ لکنا
 کی ضخامت میں بیجا طوالت اور قیمت میں نا واجب اضافہ کے ماسو ہے
 طالب علم کے قیمتی وقت کا ایک حصہ تلفظِ طویل کرنا لے میں صرف ہونا
 اس کے علی الرغم فرسنگ ہذا کے ادائے تلفظ کا طریقہ انگریزی کتب لغات
 استخراج کیا گیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط فارسی کتب قواعد سے ماخوذ
 ہیں، جو اس قدر جامع اور حاوی ہیں کہ تمام کتاب میں ایک لغت بھی اُن کے
 حدود سے باہر نہیں پایا جاسکتا۔ بجز اللہ اب تلفظ اتنا سلیس اور عام فہم نہ
 ہے کہ ایک نو آموز بھی بیک نظر صحیح طور پر معلوم کر سکتا ہے۔

ملک میں قدیم فارسی فرہت گوں کی کمی نہیں، مگر قریح عالم کے جس

سینکین ورق پر یہ نقوش ثبت کیے گئے تھے بادِ حوادث کے تھپیڑوں نے اس کو
 ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ دور منقلب ہو گیا، البتہ یہ مجموعہ ادراکِ تقاویم پارینہ بن کر یادگار
 باقی رہ گئے ہیں جن میں آج سے صد ہا سال پہلے کی مجلسی زندگی اور سائنس کا
 انعکاس جلوہ نما ہے اور جو بے شمار ایسے فرسودہ اسماء سے مملو ہیں کہ جن کے مسٹے
 تک بھی زمانہ کی دستبرد سے معدوم ہو چکے ہیں۔ جب ہم ان لغاتِ قدیمہ کی
 سیر کرتے ہیں تو عالمِ تصور میں وہ تمام جیتا جاگتا سماں پیش نظر ہو جاتا ہے
 کہ جس کو زمانہ اپنی انہی بے پڑاہی سے پیچھے چھوڑتا ہوا آج سیکڑوں برس آگے
 بڑھ آیا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ ارتقاءِ علوم و فنون کے دوش بدوش ہماری فرہنگوں
 کی تہذیب و تجدید نہیں کی گئی، اور اس کوتاہی کے بہت سے اسباب تھ جو اس وقت
 ہمارے موضوعِ بحث سے خارج ہیں، مگر جن پر بجائے خود ایک مستقل کتاب
 تصنیف کی جاسکتی ہے۔ ان ہی میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ قدیم الایام سے
 پُرانی فارسی کتابیں نصابِ تعلیم میں داخل تھیں، اور ان کے اندر جو متروک لغات
 دُور از کارِ کلیجات اور فرضی اسماء، مرقوم تھے وہ سب بلا تحقیق و امتیاز طالبِ علموں کے
 فہمِ مطالب کی خاطر عام فرہنگوں میں بھی بھر دیئے جاتے تھے۔

متاخرین نے جو فارسی فرہنگیں ہماری زبان میں تدوین کیں ان میں اکثر
 قسمتی سے تجارتی اغراض پر مبنی تھیں جن میں کسی اصلاح کی جانب توجہ

نہیں کی گئی جو یا تو فرہنگ ماہی کے قدیمہ کے تحت اللفظ تراجم تھے یا ان کی محض کورانہ تقلید۔

فرہنگ ہذا کو عصر جدید کے قالب میں ڈھالنے کے لیے حتیٰ الامکان جانفشانی کی گئی ہے جس کے خاص خاص اصلاحی امور علی الترتیب مندرجہ ذیل ہیں (۱) لغات کے حروف تہجی کی ترتیب جدید لائٹوں پر نہایت صحت کے ساتھ قائم رکھی گئی ہے جس کے باعث کسی لفظ کی جستجو میں اصراف وقت اور پریشانی خاطر کا اب کوئی احتمال باقی نہیں رہا ہے۔

(۲) ادائے تلفظ کا التزام اعراب اور علائم ترکیبی سے مکمل طور پر کر دیا گیا ہے۔ (۳) فارسی کی خلاف قیاس اور عربی کی مستعمل جمع اپنے صیغہ مفرد کے ذیل میں بتامہ درج کر دی گئی ہیں اور کثیر الاستعمال صیغہ ہائے جمع کو مستقل لغت کی حیثیت میں اپنی مناسبت جگہ پر پھر دو بارہ دیدیا گیا ہے۔ جمع فراہم کرنے میں سب سے بڑی صعوبت یہ پیش آئی کہ پرانی لغاتوں میں جمع کے معنے صرف جمع میں دیدیئے گئے ہیں الا ان کا مفرد بیان نہیں کیا۔ برعکس ازیں فرہنگ ہذا میں جمع کے معنے میں اس کا صیغہ مفرد بتا دیا گیا ہے جس کے معنے آسانی سے تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

(۴) کثیر الاستعمال فارسی مصادر کے مضارعات نیز ان کے سماعی اور قیاسی مشتقات خاص اہتمام سے درج کئے گئے ہیں اور افادہ طلباء کی غرض سوا ایک

بڑی تعداد قلیل الاستعمال مصداق کی بھی شامل کر دی گئی ہے۔

(۵) فارسی میں ایسے الفاظ بیشتر پائے جاتے ہیں کہ جو فی الواقع ایک ہی لغت کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ فارسی کے اکثر حروف میں باہمی بدل ہے جس سے معنی اور طریقہ ادا کے تلفظ میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا مگر املا تبدیل ہو جاتا ہے اس ضروری امر کی وضاحت ہماری فرہنگوں میں نہیں پائی جاتی جس کے باعث بہت سے طلباء ان لفظوں کو اپنی اپنی جگہ جدا گانہ لغات سمجھتے رہتے ہیں کہ جو فی الاصل ایک ہی ماں کے بچے ہیں۔ کونسے حرف کا کس کے ساتھ بدل ہے اس کی پوری تصریح فرہنگ ہذا کے اندر ہر حرف کی تقطیع کے شروع میں معلوم کی جاسکتی ہے۔ معہذا یہ امر فراموش نہ ہونا چاہیے کہ اس تبادلہ کرنے کا بشرخص مجاز نہیں، بلکہ جس لفظ میں جس طرح پرانے اساتذہ تصدیف کر گئے ہیں ان ہی کا نتیجہ ہم کو بھی کرنا پڑتا ہے، چنانچہ یہ پہلو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہمسک لغات کے معنی صرف ایک جگہ پر لکھ دیئے گئے ہیں اور باقی میں اُس کو دیکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔

(۶) عہد مظلمہ کی مُردہ اور بے رواج چیزوں کے نام احتیاط سے الگ کر کے اُن کی جگہ زمانہ حاضرہ کے ہزار ہا مفید اور زندہ معنیات اور مقترحات راج کر دیئے گئے ہیں۔

(۷) مخرب اخلاق استعارات اور محرک جذبات شوخ تشبیہات و جہز و مال

حکومت کے بعد ہمارے مجلسی عیش پرستانہ زندگی کا لازمہ اور اس عہد کے لٹریچر کا مایہ افتخار بن چکی تھیں تاہم دورِ اجتناب کیا گیا ہے، البتہ اعضاء نے جسمانی کے نام، نیز طبی اصطلاحات یا بعض دیگر لغات ضروریہ کا مفہوم متانت اور ہندسہ کے ساتھ ادا کر دیا گیا ہے۔

(۸) اشیاء کی ماہیت اور معانی میں جو ترمیم تحقیقاتیں علوم جدیدہ اور تازہ انکشاف سے غلط ثابت ہو چکی ہیں ان کے بجائے نئی تحقیقاتیں انگریزی کتب لغات کے توسل سے داخل کر دی گئی ہیں۔

(۹) فرہنگہائے قدیمہ نے افسانوی افراد اور تاریخی شخصیتوں سے متعارف کرنے میں کذب و صدق کے مابین کوئی حد فاصل قائم نہیں کی، ان کے اندر حاتم طائی اور رستم و ستاں پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں، حالانکہ ایک ان میں تاریخی حقیقت ہے اور دوسرا حکیم فردوسی کی قوتِ تخیل کی شاعرانہ تخلیق۔ اس کو تاہی کی وجہ سے لسان و ادب کے طالب علم کا ذہن تاریخی حقائق کے ادراک سے عاری رہتا تھا۔ فرہنگ ہذا میں اسماء الرجال کی ترتیب اور تبویب سے یہ غلط فہمی بھی رفع کر دی گئی ہے۔

(۱۰) لغات کے معانی بیان کرنے میں مجلسی رواداری کا احترام حتی الامکان ملحوظ رکھا گیا ہے۔

صرف مندرجہ بالا اصلاحات ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ادب بہت سے ضمنی

اور جزوی معاملات میں بھی اصلاح و درستی کی گئی ہے جن کا اعادہ موجب طبع الت ہوگا۔ غرض کتاب کو مفید بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا گیا، مگر بہر کیف ایک محض منفردہ اور اپنی نوعیت کی اولین اصلاحی کوشش ہے، جس میں قدم قدم پر بے شمار شکلات حال تھیں اور کوئی مددگار مشورے، اور نمونہ رہنمائی کے لڑ موجود نہ تھا، لہذا قارئین کرام کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر کوئی لغزش پائیں تو نگاہ عفو فرمائیں۔ آئندہ اشاعت میں مزید تصحیح کی سعی کی جاوے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اتنی بات شہرخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو نے فارسی کی آغوش تربیت میں پرورش پائی ہے، سو یہ فرہنگ اُن الفاظ کے بھی ایک قیمتی خزانہ سے معمور ہے جو ہماری زبان کی زینت ہیں، لہذا اردو اور فارسی طالب علموں کے لیے یکساں مفید ہے۔ ماسوے اس کے علوم و تمدن کے ارتقاء کے ساتھ روز افزوں اختیاری لٹریچر، مختلف العنوان تازہ تراجم، روزانہ جدید انکشافات و اکتشافات اور نئی ایجادات نے بے شمار نئے نئے الفاظ کی ضرورت ہماری زبان میں آئے دن پیدا کر رکھی ہے، جن کے لیے فرہنگ ہذا ہر طرح معین ثابت ہوگی جو اکثر کتب متداولہ سے زیادہ لغات کا ذخیرہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اُن زندہ جاوید الفاظ سے لبریز ہے کہ جو ایک علم پرور اور ثریافت تمہذیب کے امانت دار ہیں اور جو ہزار سال سے ہندستان ایشیا، مشرقی یورپ اور شمالی و مشرقی افریقہ کے کڑوڑوں اشرف مذاہنوں کا

نسلاً بعد نسل روزمرہ بنے ہوئے ہیں اور ایک ہمہ گیر بین الاقوامی وسعت اپنا اندر رکھتے ہیں
 فرہنگ اور وہ بھی ایک ایسی فرہنگ جس کے اندر آن گنت اعراب و علائم
 ہوں لیتھو کی صحت طباعت کے لیے کس قدر جانفشانی اور عرق ریز مساعی کی
 محتاج ہے، اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی
 اس نشت کی سیاحی کی ہے۔

میں اپنے اُن تمام اعزاء اور احباب کا بدلہ ممنون ہوں کہ جنہوں نے کسی نوع
 سے اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا ہے۔ علی الخصوص میرے لائق دوست پروفیسر
 لکشمی نرائن ٹنڈن ایم۔ اے۔ ایل۔ ٹی۔ نے جن کو اُردو اور فارسی ادبیات سے ایک
 شغف ہے بعض قابل قدر کتابیں بہم پہنچائیں۔

بہر کیف پبلک کی خدمت میں یہ ایک اصلاحی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، ملک
 و قوم کا جو مفاد اس خدمت سے متصور ہے اُس کو تجربہ خود ثابت کر دیگا۔ اَللّٰهُمَّ
 مِنِّيْ وَ اٰلَاتِمْ سَامِعِيْنَ اللّٰهُ ۞

محمد عبد اللہ خان خولیتگی

فیروز منزل۔ خوجہ

دوشنبہ ۱۵ فروری ۱۹۳۷ء

اصناف کلمات

انسلاک الصدور و توابعات ترکیبی

سار، مشابہت مثلاً فاکسار، سنجسار۔
 سار، ظرفیت یا کثرت مثلاً شاخسار، نمکسار۔
 سیال، مشابہت مثلاً شیرسیال، تیرسیال۔
 ستیال، ظرفیت مثلاً گلستان، نیستان۔
 سس، حاصل مصدر مثلاً آرزوش، گردوش۔
 فام، رنگ مثلاً گلخام، سیاه فام۔
 فرا، ازینیت کلام مثلاً فرارفت۔
 فرو، زینیت کلام مثلاً فروگذاشت، فروخواند۔
 فشن، مشابہت مثلاً شاه فشن، ماه فشن۔
 ک، تصغیر مثلاً موک، اسپک۔
 کده، ظرفیت مثلاً تنگده، همیکده۔
 گار، صاحب، خداوند مثلاً پروردگار، گنہگار۔
 گال، لیاقت مثلاً شایگان، رایگان۔
 گر، فاعلیت مثلاً شیشگر، فستگر۔
 گول، رنگ مثلاً گلگون، شفقگون۔
 گونہ، رنگ مثلاً زردگونہ، گلگونہ۔
 گیس، پیوستگی مثلاً اندوگین، سہمگین۔
 لارخ، کثرت مثلاً سنگلارخ، رودلارخ۔
 ما، زینیت کلام مثلاً ماورسے، ماسوسے۔
 مشکہ، صاحب، خداوند مثلاً زورمند، مستمند۔
 ن، نسبت مثلاً امین، چوشت۔
 ناک، پیوستگی مثلاً غمناک، نمناک۔
 و، تصغیر مثلاً لیسو، بچہ سقو۔
 وا، زینیت کلام مثلاً آنگذاشت، واخنگاف۔

آسا، مانند مثلاً شیرآسا، مروآسا۔
 ار، زینیت کلام مثلاً گفتار، دیدار۔
 ار، فاعلیت مثلاً خریدار، فروختار۔
 ار، حاصل مصدر مثلاً گفتار، رفتار۔
 اک، نسبت مثلاً ففاک، مفاک۔
 ان، نسبت مثلاً مغان، ایران۔
 ان، فاعلیت مثلاً خندان، گریبان۔
 اش، نسبت مثلاً سالانہ، ماہانہ۔
 اتہ، لیاقت مثلاً شاہانہ، مردانہ۔
 اوند، مشابہت مثلاً خوبش اوند۔
 ب، زینیت کلام مثلاً بجز، بگو۔
 بار، کثرت مثلاً دریا بار، رود بار۔
 بام، رنگ مثلاً سبز بام، سرخ بام۔
 بان، محافظت مثلاً دربان، قیدبان۔
 بر، زینیت کلام مثلاً برجمید، برسبت۔
 پیش، مشابہت مثلاً شیر پیش۔
 جرتم، چرودہ، رنگ مثلاً سیاه چرتم، سیاه چرودہ۔
 چہ، تصغیر مثلاً باغچہ، طاغچہ۔
 ڈار، محافظت مثلاً بردہ دار، رازدار۔
 دان، ظرفیت مثلاً نمکدان، چاندان۔
 در، زینیت کلام مثلاً درخاست، در ساخت۔
 وس، مشابہت مثلاً حوروس۔
 ویس، مشابہت مثلاً حورویس۔
 زار، ظرفیت یا کثرت مثلاً گلزار، صدق زار۔

وار، مشابہت مثلاً بزگوار، بستہ وار۔	وند، مشابہت مثلاً خداوند، پولاوند۔
وار، لیاقت مثلاً شاہوار، گوشوار۔	ویم، نسبت مثلاً راہویہ، سیدیہ۔
وام، رنگ مثلاً سزوام، زردوام۔	ہ، نسبت مثلاً کبسالہ، بیکروزہ۔
وال، محافظت مثلاً پہلوان، بستہ پوان۔	ہم، شرکت مثلاً ہمدرد، ہمکار۔
وان، مشابہت مثلاً پلوان۔	می، حاصل مصدر مثلاً شمشندگی، بخشندگی۔
ور، صاحب خداوند مثلاً تاجور، ہنرور۔	می، لیاقت مثلاً گفتنی، خوردنی۔
وسن، مشابہت مثلاً ماہوش، پری ریش۔	می، نسبت مثلاً قریشی، برنی۔
ون، مشابہت مثلاً سیلون، استرون۔	ین، زمین کلام مثلاً کشتین، شستین۔
وند، ظرفیت مثلاً آوند۔	ین، نسبت مثلاً سیدین، نگارین۔

تشریح التلظ

اعراب کا عمل حروف پر	علامات قرائت
محرور، مکسور، جس کے نیچے زیر ہو مثلاً دل (دون) کی وال۔	زبر، کسرہ، جر، یعنی علامت (ر)
منفوق، منصوب، جس کے اوپر زبر ہو مثلاً سن (سن) کی ہم۔	زیر، فتح، نصب، " " (ر)
مضموم، مرفوع، جس پر پیش ہو مثلاً گل (گل) کا کاف۔	پیش، ضمہ، رفوعہ، " " (و)
مجزوم، جس پر کوئی جزم ہو مثلاً بدگو (بدگو) کے وال اور او۔	جزم مطلق، " " (و)
مشدد، جس پر تشدید ہو اور دو وقفہ پڑھا جائے مثلاً ملت (ملکت) کا لام۔	جزم مجہول، " " (و)
ممدودہ، جس الف کے اوپر مد ہو۔	تشدید، " " (س)
مستحکم، جس پر کوئی حرکت ہو مثلاً غلامی (غلامی) کا غین یا لام یا ہم۔	حرکت، یعنی زبر، زیر یا پیش (ر، و، ہ)
مستقل، جس پر تنوین ہو اور جس کے آخر میں نون پڑھا جائے مثلاً قرأ (قروا)۔	تنوین، یعنی دو زبر، زیر یا پیش (ر، و، ہ)
	وقف، یعنی کوئی علامت نہ ہو نا
	یعنی علامت (و)
	" " (-)
	" " (ا)
	" " ()

سکتے،
بیت کامل،
بیت ناقص،
قوسین،

موقوف، جس کا ماقبل محبوز ہو مگر وہ اس پر کوئی اعراب نہ ہو مثلاً **آسپ** (آس، پ) کی پ۔
 عہ جس حرف علت کی حرکت ماقبل موافق ہو مثلاً نور، بارغ، حین، نور، بارغ، حین)۔
لین جس حرف علت کی حرکت ماقبل موافق نہ ہو مثلاً قول، بیت، قول، بیت)۔

اقسامِ حروف باعتبار تلفظ
الف مقصورہ، جو اپنی کیلی آواز دے مثلاً اگر (اگر) کا الف۔
الف مکملہ، جو دوسرے الف سے مل کر آواز دے مثلاً آ (آ)۔
نون مخلوط، جو درمیان کلمہ میں حرف ماقبل سے مل کر آواز دے مثلاً سنک، رنگ (سنگ، رنگ)۔
نون غنم، جو درمیان کلمہ میں الف کے ساتھ ناک میں بولا جائے مثلاً خوان، ناند (خوان، ناند)۔

نون غنمہ، جو آخر کلمہ میں حرف علت کے ساتھ ناک میں بولا جائے مثلاً جہاں، بریں، چوں (جہاں، بریں، چوں)۔
واو معرروف، جس کے ماقبل ضمہ ہو مثلاً فضول، مشہور (فضول، مشہور)۔
واو مجهول، جس کے ماقبل ضمہ غیر خالص ہو مثلاً ہوش، شور (ہوش، شور)۔
واو معدولہ، جو پڑھنے میں نہ آئے مثلاً خوش، تو (خوش، ت)۔
واو اشہام، جس کے پہلے خائے مفتوحہ اور بالعد الف ہو اور جس کے تلفظ میں رخ کواد کرتے ہی ہونٹھوں کو بغیر بلائے ضمہ کی طرف اشارہ کیا جاوے مثلاً خواہ، خواں (خواہ، خواں)۔
یا کے معرروف، جس کے ماقبل کسر خالص ہو مثلاً اکبر، فقیر (اکبر، فقیر)۔
یا کے مجهول، جس کے ماقبل کسرہ غیر خالص ہو مثلاً بیشی، شیر (بیشی، شیر)۔

جس لغت کے معانی سلسلہ وارد کئے گئے ہیں مثلاً یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر معنوں اور پرلا مفہوم کے ساتھ ان سے مختلفہ علی الترتیب متصل ہے جن سے ہماری زبان اردو نے تشکیل پائی ہے۔

مخفف

حج یعنی جمع
 حج حج = جمع الجمع
 مضارع = مضارع

فارسی جمع

(۳) جس اسم مفرد کے آخر میں حرف 'ہ' ہو اس کی جمع بنانے وقت یہ حرف 'ہ' حرف نگ سے بدل دینا چاہیے مثلاً بچے سے بچگان، خفتہ سے خفتگان۔

بے جان اشیاء

(۱) اسم مفرد غیر ذی روح کے آخر میں غواہ وہ اردو کے اندر مذکور ہوا جاتا ہے یا موش حرف 'ہ' یعنی کلمہ 'ہا' بڑھانے سے اس کی جمع بن جاتی ہے مثلاً اول سے دلہا۔ سنگ سے سنگھا۔

(۲) اگر یہ اسم مفرد حرف 'ہ' پر ختم ہو تو یہ 'ہ' جمع کی 'ہ' سے ملکر ساقط ہو جاوے گی مثلاً افسانہ سے افسانہا۔

بعض اسماء کی جمع بطور تقيہ سعی ہی فارسی میں بنائی جاتی ہے مثلاً بیکم سے بیکات، وہ سودا ہات کارخانہ سے کارخانجات وغیرہ۔


کبھی کبھی متذکرہ بالا فارسی قواعد کے عکس بھی جمع استعمال کی گئی ہیں اس قسم کی خلاف قیاس جمع کو اپنے مفرد کے ماتحت حتی الامکان درج کر دیا گیا ہے۔

اکثر الفاظ کی جمع فارسی قاعدے کے بموجب ہماری زبان اردو کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جن کے بنانے کے قاعدے بہت آسان مگر حادی اصولوں پر مبنی ہیں۔ لہذا بظاہر اختصاصاً ان کو عربی جمع کے ہمدوش اپنے مفردات کو ساتھ درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تاہم فارسی میں اردو کی سہولت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند عام فہم قاعدے بیان کیے جاتے ہیں۔

جاندار اسماء

(۱) اسم مفرد ذی روح کے آخر میں غواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث حروف 'ان' بڑھانے سے اس کی جمع بن جاتی ہے۔ مثلاً مرد سے مردان، زن سے زنان، مرغ سے مرغان۔

(۲) جو اسم مفرد حروف 'او' ہیں سے کسی پر ختم ہوتا ہو اس کی جمع بنانے میں حروف 'ان' علاوہ جمع سے پہلے حرف 'ی' اور زائد ملا لینا چاہیے مثلاً دام سے دانا یا ان، غوبر سے غوبریان۔



(مسطح و بیضی برقی پریں میا ران ہلی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فرنگ عامرہ

آب خاصہ

آب انار (آب انار) سرخ شراب۔	ارلیٹ (قائم مقام عدد ۱) حرف ترقی، حرف علت،
آب انگور (آب انگور) انگور کی شراب۔	فارسی میں چند حرفوں سے بدل ہے۔ ۱- و کے
آبانی (آبانی) منسوب بہ آبہ نشینی۔	ساتھ مثلاً بایں، بدیں۔ ۲- گ کے ساتھ مثلاً
آب باران (آب باران) باران، پینے کا پانی۔	استراخ، گسٹاخ۔ ۳- ہ کے ساتھ مثلاً ایچ،
آب باز (آب باز) تیرک۔	بیچ۔ ۴- سی کے ساتھ مثلاً ایلات، بیلات۔
آب برزخہ (آب برزخہ) برزخہ، ہلکا اور ہاضم پانی۔	آ (آ) حرف نذر، حرف تشبیہ، آؤ، نقل آواز،
آب بستہ (آب بستہ) تھکے، شیشہ۔	آب (آب) پانی، رونق، چمک، خوبی، عزت،
آب بقا (آب بقا) آب حیات۔	قدر، جوہر، خالص شراب۔
آب پاشی (آب پاشی) سینچانی، چھڑکاؤ۔	آبا (آبا) اب کی جمع، پرکھے، باپ دادا (آبا) نکلی
آب تباب (آب تباب) تھک دیک، رونق۔	نیتیاں، بوستان۔
آب تھن (آب تھن) تھن، پیشاب کرنا۔	آب آگشیں (آب آگشیں) تیز شراب۔
آب جاری (آب جاری) جاری، بہتا ہوا پانی۔	آباد (آباد) اسرینز، بسا ہوا۔ ۲- ابدی جمع
آب جھو (آب جھو) ندی، نالہ۔	آبادان (آبادان) آباد کا مزید علیہ، اسرینز
آب جوش (آب جوش) شور، باریخی، سوڈا وارٹ۔	آبادانی (آبادانی) اسرینزی، چہل پہل۔
آب چشم (آب چشم) چشم، آنسو۔	آبادی (آبادی) بستی، بسا پت۔
آب چک (آب چک) پانی ٹپکنے کی جگہ۔	آبار (آبار) بیری جمع۔ ۲- جلا ہوا سیسہ۔
آب حیات (آب حیات) آب حیات، آب حیات،	آبار تھیدن (آبار تھیدن) تھن، تعریف کرنا۔
آب حنج (آب حنج) حنج، دان، امرت، وہ پانی جسکو پی کر	آبارہ (آبارہ) زہ، حساب۔
کبھی موت نہیں آتی۔	آبال (آبال) ابل کی جمع۔
آب خاصہ (آب خاصہ) خاصہ، امیوں کے پینے کا پانی	آبان (آبان) فارسی کا آٹھواں شمس ہندہ۔

آگاہیدن در آ- گج- ہی- دن، خبردار ہوتا
 جنانا مضمع آگاہید۔
 آگاہیدن در آ- گج- دن، بھرنامض آگاہید۔
 آگاہیدہ در آ- گج- دہ، گھرا ہوا۔
 آگاہش در آ- گج- دہ، دیکھو آگوش۔
 آگوشیدن در آ- گج- دن، دیکھو آغوشیدن۔
 آگوشی در آ- گج- دیکھو آگاہی۔
 آگاہیدن در آ- گج- دن، پاشنا، ڈھیر کرنا۔
 آگاہیدہ در آ- گج- دہ، آگ کے آٹھنے والی چیز۔
 آگاہیں در آ- گج- دن، بھرا ہوا، پرا، بالباب۔
 آل در آن، کتبہ، ارادہ، اہل خانہ سے آوازی
 آلا در آ- لا، اٹل کی جگہ، ابو کی جگہ۔
 آلا ف در آکاٹ، الف کی جگہ۔
 آلام در آ- لام، الم کی جگہ۔
 آلا سیدن در آ- لا- ای- دن، اتھرنام، تعمیر نام
 مضمع آلا پید۔
 آلا سیدہ در آ- لا- ای- دہ، اتھرا ہوا، تعمیر ہوا۔
 آلا پش در آ- لا- پش، آلودگی۔
 آلا سیدہ در آلا- پش- دہ، اتھرنے والا، ٹھہرنے والا
 آلا سیدہ در آ- لا- ای- دن، آواز، ہتھیار، آل، آلاٹ
 آل تمخاڈان۔ تمخاڈان شاہی، تہرا دشاہی، سازگارا
 ایک موصول۔
 آلف در آ- لف، جہت کرنے والا۔
 آلفتہ در آ- لف، تیز، زبرد شرب، بے باک۔
 آلود در آ- لود، آلودخارا، چیری، آلود۔
 آلود در آ- لود، ٹھہرنے والا، آلودہ ہونے والا
 آلودی در آ- لود، گج، ناماکی، آلا پش۔ پرورد
 آلودن در آ- لود، دن، اتھرنام، اتھرنے والا، مضمع آلا پد
 آلودہ در آ- لود، دہ، اتھرا ہوا، ملوث۔
 آلوں در آ- لود، ہماز، غصہ میں گلہوں سے دیکھتا
 آلہ در آ- لود، دیکھو آل تہم آلاٹ

آفاتی در آ- فاتی، حرم سے باہر کا باشندہ، دنیا والا
 آفت در آ- فٹ، مصیبت سے آفات
 آفتاب در آ- فٹ، تاج، سورج۔
 آفتاب پرست در آ- فٹ، تاج۔ پرست
 آفتاب کا بیماری مد سورج مکی، گرگٹ۔
 آفتاب گھیر در آ- فٹ، تاج، گھیر، چھو،
 سامان، بھتری۔
 آفتابہ در آ- فٹ، تاج پہننے والی کالوا۔
 آفتابی در آ- فٹ، تاج، ڈھوپ دی ہوئی چیز،
 سورج مکی، گرگٹ، لنگٹ۔
 آفریدگار در آ- فرید- گار، خدا، کونوالا، خدا
 آفریدن در آ- فری- دن، آفرینا، مضمع آفریند
 آفریدہ در آ- فری- دہ، پیدا کیا ہوا،
 مخلوق سے آفریندگار۔
 آفرین در آ- فری- دن، بھری، تھین، پاشنا، پیدا کرنا
 آفرینش در آ- فری- دن، پیدائش، جنم
 آفرینندہ در آ- فری- دن، دہ، پیدا کرنا، خدا
 آفریدن در آ- فری- دن، دیکھو آفریدن۔
 آفریدی در آ- فری- دن، دچی، ترک زبان، صاحب کاروان
 آفریدن در آ- فری- دن، دخی، دخی اور
 برائی ٹھاننا۔
 آفریدن در آ- فری- دن، تعب کرنا۔
 آفتاد آفتا، مالک، آفا۔
 آکا در آ- کا، بڑا، صافی۔
 آکاٹ در آکاٹ، اٹل کی جگہ۔
 آکل در آ- کل، کھانے والا، بادشاہ،
 کھانا کھانا ہوا، روٹی۔
 آکود در آ- کود، کڑے، الو۔
 آکوفت در آ- کوفت، دیکھو کوفت۔
 آگاہ در آ- گاہ، خبردار، مطلع، واقف۔
 آگاہی در آ- گاہ، ہی، خبرداری۔

د آں وده شخص آ نامل محزن اشارہ بیدادہ
 آتارو آ۔ تاخر دیکھو نامہ
 آنا فانا (آ۔ بن۔ فنا۔ بن۔) کیا کچی، بکلیت۔
 آنام (آ۔ نام۔) دیکھو نام۔
 آچھ (آ۔ چھ۔) جو کچھ۔
 آخرا (آ۔ خ۔) اس کے لئے، اس کو۔
 آانس (آ۔ انس۔) محبت کرنے والا (آ۔ انس۔) عادی۔
 آانسہ (آ۔ انسہ۔) محبت کرنے والی، کنواری لڑکی۔
 آانسٹہ (آ۔ انسٹ۔) کدہ، موٹھ، گھاس، سدر۔
 آانف (آ۔ انف۔) اول وقت، آہستہ، سائیں۔
 آانگ (آ۔ انگ۔) بھالا، ددر کی چیز کیلئے اشارہ
 (انگ۔) سیسہ۔
 آانگس، آانگس و آان۔ کس، آان۔ گری۔ ہتھی
 بان کا ہانگے کا آلہ۔
 آانہاد (آ۔ ہا۔) وہ لوگ۔
 آانید (آ۔ نیہ۔) انار کی بیج۔
 آاو (آ۔ و۔) دیکھو آبا۔
 آاو (آ۔ و۔) آواز۔
 آاواری (آ۔ آ۔) رچی، اوباشی، خاک پھاننا۔
 آوارہ (آ۔ آ۔) رزے، ٹھکانے، اوباش، جدا۔
 آوارہ گردی (آ۔ آ۔) رزہ، گز و بی، خاک پھاننا، پھرا
 آواز (آ۔ آ۔) آواز، نوا، صوت، بول۔
 آوارہ (آ۔ آ۔) رزہ، شہر، ناموسری۔
 آواک (آ۔ آ۔) آواک، ٹاپو، جزیرہ۔
 آوال (آ۔ آ۔) آل کی بیج۔
 آوان (آ۔ آ۔) آان کی بیج۔
 آوای (آ۔ آ۔) دیکھو آواز۔
 آاور (آ۔ آ۔) زمین، تحقیق، درست لکھادنا،
 صاحب، مالک، لانے والا
 آاورو (آ۔ آ۔) لایا ہوا، پیدا کیا ہوا جال۔
 آاورو (آ۔ آ۔) ڈن، لانا، منہ آورو

آوردنی (آ۔ آ۔) ڈن، لانے کے قابل۔
 آوردہ (آ۔ آ۔) ڈن، لایا ہوا، مستوسل
 آوردین (آ۔ آ۔) ڈن، ہلکے کرنا منہ آورو
 آورندہ (آ۔ آ۔) ڈن، لانے والا، حملہ آور
 آوند، آونک (آ۔ آ۔) ڈن، ڈنک، برتن،
 کرا، لکھی۔
 آویج (آ۔ آ۔) وچ، دیکھو آویز۔
 آوینتن (آ۔ آ۔) وچ، پٹنا، ٹھکانا، ٹھکانا
 آوینٹے (آ۔ آ۔) وچ۔
 آویٹی (آ۔ آ۔) وچ، ٹھکانے کے قابل۔
 آویخہ (آ۔ آ۔) وچ، پٹنا ہوا، ٹھکانا، ٹھکانا ہوا۔
 آویزا (آ۔ آ۔) وچ، لانے والا، ٹھکانے والا۔
 آویزٹس (آ۔ آ۔) وچ، چیش، الاک، ٹوٹ۔
 آویزندہ (آ۔ آ۔) وچ، ڈن، لانے والا، ٹھکانا والا
 آویزہ (آ۔ آ۔) وچ، بند، چھری، ٹھکان کا لب
 آو (آ۔ آ۔) کلمہ، اسوس، ددر، لگے۔
 آباد (آ۔ آ۔) کلمہ، ظہار، خوشنوی۔
 آبار (آ۔ آ۔) ماڈی، لیبی، کلف۔
 آآخین (آ۔ آ۔) وچ، دیکھو آآخین۔
 آآسکی (آ۔ آ۔) وچ، دھماکن۔
 آآستہ (آ۔ آ۔) وچ، دھماکندا۔
 آآک (آ۔ آ۔) وچ، جونا۔
 آآل (آ۔ آ۔) وچ، جالی کے بیوی لپے ہوں۔
 آآسن (آ۔ آ۔) وچ، لوہا۔
 آآنچ (آ۔ آ۔) وچ، دیکھو آآنگ۔
 آآنجید (آ۔ آ۔) وچ، ٹھکانا، تصد کرنا۔
 آآنر (آ۔ آ۔) وچ، ٹھکانا، تصد کرنا۔
 آآنگ (آ۔ آ۔) وچ، تصد وقت، آواز، راک۔
 آآنگر (آ۔ آ۔) وچ، لوہار۔
 آآنگین (آ۔ آ۔) وچ، ڈن، دیکھو آآنجید۔
 آآسے (آ۔ آ۔) وچ، آآنجی، آآنجی، لوہے کی چیز۔

اجبال در آج - کمال آج - میں اپنل کی جج -
 اجبلا در آج - چنار پلسد کرنا، اجبلا نشا -
 اجبرام در آج - تراقم (جرم لگا، گندگار ہونا -
 اجبلا در آج - تخاص، بھیر، اگھا ہونا، سمننا -
 اجتماع صدین در آج - تخاص - ضلادین (در بر خلاف چہرہ کی کجائی -
 اجتماعی در آج - جتا - جتی، فسوب - اجتماع -
 اجلانا در آج - بیکار، پھیل بھنا، بیوہ جینا -
 اجغلاب در آج - تخاص، برسیز، کجا، گورنہ کرنا -
 اجتہا در آج - سہناؤ، کوشش کرنا، ٹھیک راہ دھوننا -
 اجہاد در آج - ذاب، کال پڑنا -
 اجلا در آج - ذاتی راہ راستہ چلنا در آج - داد (جہ کی جج
 اجدرج در آج - رخ، بویا، ہاتھ کتا ہوا،
 ہونٹھ کتا -
 اجدرل در آج - دل، شکاری جانور جج اجا درل
 اجلام در آج - ذم، ہاتھ کتا ہوا -
 اجدر در آج - ر، انعام، عزت، ثواب جج اجدر -
 اجرا در آج - کار، جاری کرنا -
 اجرام در آج - راتم، جرم کرنا در آج - راتم، جرم کی جج
 اجرام الفکی در آج - راتم - کلکی، سورج پاند سنا سے
 اجرت در آج - رتج، مزدوری -
 اجرد در آج - رج، صفا چٹا جکل، بے مال کا آدمی
 اجرتج منون در آج - رتج - تم، تون، ثواب بے نقصان
 اجزا در آج - زای، حکوے، حکوے کرنا، لا پر دا ہونا،
 جزا در آج - رتا، جزو کی جج -
 اجزاخانہ در آج - رتا - خانہ، سزہ بخاری کی دوکان
 اجزاد در آج - رتا، کھیت لسانی آتا -
 اجزائے ترکیبی در آج - ترا - بے - ترکیبی - جج
 جج سے ملکر چیز بنی ہو -
 اجزہم در آج - ذم، کتا ہوا -
 اجسا در آج - سادی، جسد کی جج -

اجساس در آج - کاس، خردوں کی جو کرنا -
 اجسام در آج - سام، جسم کی جج -
 اجسور در آج - ستر، جس کی جج -
 اجفان، اجفن در آج - فان، آج - فن، اجوان در آج - دان، جوف کی جج -
 اجن کی جج -
 اجل در آج - موت، تقدیر، وقت، مقررہ، اہلت اور نام اجورا اجورہ در آج - رتج، مزدوری، امتنان، کالیہ
 جج اجال در آج - ہایت، ترا (آج ل) کے، راکل، اجوف در آج - دن، گھوکھا، خالی پیٹ -
 اجلا در آج - ناؤ، جلد کی جج -
 اجلاس در آج - لاس، نشست، اجھانا -
 اجلاف در آج - لاف، جلف کی جج کہنے -
 اجلال در آج - لال، زندگی، شگورہ، مندبتا در آج - لال، لال
 اجلع در آج - جج جس کے ہونٹھ برابر نہ ہونے ہوں
 اجلہ در آج - لال، پھیل، جھیل کی جج در آج - لال، نام پٹھ
 اجلی در آج - لال، بہت روشن -
 اجم در آج - جم، ایک غذا سے لکھا مانا، منڈا -
 اجماع در آج - راج، اتفاق کرنا، متفق ہونا -
 اجبال در آج - مان، اختصار، کھول کر نہ لکھا
 آج - مال، ہم کی جج -
 اجھون، اجھوبن در آج - منون، آج - منون
 تمام، کل، سب -
 اجل در آج - کن، نہایت خوب صورت -
 اجسہم در آج - ستر، بہتر، جکل جج آجام
 اجسام، آج -
 اجساب در آج - سب، بے فصل ہونا، جوب کتا
 راج - سب کی جج -
 اجسا در آج - نام، جذب کی جج -
 اجناس در آج - ساس، جس کی جج -
 اجنان در آج - نان، دیوانہ کرنا -
 اجنبی در آج - جج، اگان، بیگانہ جج اجاب
 اجلی در آج - ججی، اغان، بیگانہ -
 اجنبیت در آج - ججی، سب، بیگانگی -

اجنہ در آج - جج، چنار کی جج -
 اجنہ در آج - جج، جین کی جج -
 اجواد در آج - واؤ، جواد کی جج -
 اجوار در آج - وار، جار کی جج -
 اجوان در آج - دان، جوف کی جج -
 اجوبہ در آج - رتج، جواب کی جج -
 اجورا اجورہ در آج - رتج، مزدوری، امتنان، کالیہ
 جج اجال در آج - ہایت، ترا (آج ل) کے، راکل، اجوف در آج - دن، گھوکھا، خالی پیٹ -
 اجورہ در آج - ستر، جس کو دن میں نظر نہ آئے -
 اجورہ در آج - ستر، جس کو دن میں نظر نہ آئے -
 اجیل در آج - لال، جج کی جج -
 اجیٹ در آج - جج، جج کی جج -
 اجیٹ در آج - جج، جج کی جج -
 اجید در آج - جج، بہت عمدہ، اجھا -
 اجیر در آج - جج، مزدور، جھنتی -
 اجار در آج - جج، ڈیکو آچار -
 اجی در آج - جج، ٹرا مٹائی -
 آج در آج - کھا نشا -
 احاد در آج - احد کی جج -
 احادیت در آج - احد، حدتہ، حدیث کی جج -
 احاطہ در آج - کلا، گھیر، احصار، چار دیواری -
 احب در آج - بہت پیارا -
 احباب در آج - بہت پیارا، جج کی جج -
 اجباب در آج - کتا، دل، پڑنا در آج - کتا، کتا، جج کی جج
 اجبار در آج - بار، جس کی جج -
 اجباس در آج - ساس، چیز دق کرنا -
 احنا در آج - کتا، مضبوط باندھنا -
 احتباس در آج - جج، راکوٹ، جک مانا -
 احتیان در آج - تیان، جلت کاروف ہونا -
 احتیاج در آج - تخاص، جنت کرنا -
 احتیاج در آج - تخاص، جج کرنا، کتا، کتا -
 احتیاج در آج - تخاص، جج کرنا، کتا، کتا -
 احتیاج در آج - تخاص، جج کرنا، کتا، کتا -

احناف داغ - ناٹ (حنفی کی تہ)۔
 احناک داغ - ناٹ، حناک کی تہ۔
 اجواض داغ - واغ، اجواض کی تہ۔
 احوال داغ - ذال، احوال کی تہ۔
 اجورد داغ - درج، جسکی آہنگہ میں گہری سفیدی سیاہی
 اجواض داغ - دغ، کنوس۔
 اجول داغ - دل، بھیننگا، جسکو ایک کے دو نظر آئیں
 اجساد داغ - بار، زندہ کرنا داغ - یا، حنی کی تہ۔
 اجیان داغ - یان، حنین کی تہ۔
 اجیان داغ - یا، فن، انفاقا، شاید - جو
 اج داغ - بھائی، جہ، اجوان، اجوت
 کلہ، تھین، کلہ، بزم، دتا سف۔
 اخبار داغ - کسی کیساتھ بیٹھا جا کر ناٹ داغ، کلہ تہ
 اخبار داغ - بار، خبریں دینا داغ - بار، خبر کی تہ
 ۲ - سوقت پر چہ جو خبریں دینا جو اخبارات
 اخبار نویس (بار - نویس، اخبار میں لکھنے والا۔
 اخبار نویس (بار - نویس) جو صحافت، اخبار میں لکھنا
 اخباری داغ - بار، برسی، اخبار سے سوب، اخبار کا
 اجیش داغ - پش، پراغیش۔
 اجخ داغ - پخ، چیرائی، برائشندی۔
 اجرت داغ - پین، ج، اجواغ۔
 اجستان داغ - تان، ہفتن کی تہ۔
 اجتبار داغ - تبار، خبریانی، آزمانا۔
 اجتناس داغ - تانس، چھین لینا۔
 اجتنام داغ - تنام، خاتمہ، پورا کرنا۔
 اجنتان داغ - تنان، خستہ کرنا۔
 اجتر داغ - تڑ، ستارہ، تارہ۔
 اجتر داغ - تراغ، ایجا، نئی چیز نکالنی۔
 اجتر داغ - تراغ، لکھنا، بھانٹنا۔
 اجتر اکم داغ - تراغ، کاٹنا، چرٹنے، لکھنا۔
 اجتر شماسی داغ - تڑ، پش، برسی، ارات کو

جاگنا، تار سے گننا۔
 اجتر شماس داغ - تڑ، شماس، بومی، ستارہ کا
 علم جاننے والا۔
 اجتصار داغ - تصار، کی، چھوٹا کرنا۔
 اجتصاص داغ - تصاص، خصوصیت، خاص کرنا۔
 اجتھام داغ - تصام، دھمی کرنا۔
 اجتضاب داغ - تصاب، خضاب، لگانا۔
 اجتلاف داغ - تصلاف، ایک لینا۔
 اجتلف داغ - تصاف، چھاننا۔
 اجتلاج داغ - تصلاج، جھوٹا کھیلنا۔
 اجتلاس داغ - تصلاس، ایک لینا۔
 اجتلاط داغ - تصلاط، سبیل چول، لٹنا، لہجنا۔
 اجتلاف داغ - تصلاف، نامورانقت، فرق
 ابھی ہونا۔
 اجتلال داغ - تصلال، رخت، گل پڑنا۔
 اجتلاز داغ - تصلاز، غمیر، اٹھنا۔
 اجتلاق داغ - تصلاق، بزرگ کرنا، گھونٹنا
 اجتصہ داغ - تصہ، دیکھو آختہ۔
 اجتصار داغ - تصار، پسندیدگی، کام کرنے کی توت
 جج، جج، پڑھا۔
 اجتبیال داغ - تصبیال، خیال کرنا، سوچنا۔
 اجتبیان داغ - تصبیان، خیانت کرنا۔
 اجدار داغ - تصدار، خدر کی تہ۔
 اجدام داغ - تصدام، خام رکھنا داغ - دام، تمام کی تہ
 اجدران داغ - تصدران، خدر کی تہ۔
 اجدہ داغ - تصدہ، خد کی تہ۔
 اجدر داغ - تصدر، پکڑنا، لینا، خدر کرنا داغ
 جسکی آنکھ میں درد ہو اور جھڑکے کا درد۔
 اجشرب داغ - تصشرب، کراچ، بھران کرنا
 اجخراج داغ - تصخراج، ٹھکانا، ٹھکانا داغ - تراغ
 خرج کی تہ۔

ادناس (آؤ-ناس) دلس کی جج۔
 ادناس (دندان) سوج کا قریب زوب ہونا۔
 ادنی (آؤ-نا) دیکھ ادنا۔
 ادوار (آؤ-وار) نوار کی جج۔
 ادوات (آؤ-وات) آلات کی جج۔
 ادوار (آؤ-وار) در کی جج۔
 ادولن (آؤ-ولن) بہت کینہ۔
 ادویہ (آؤ-ویہ) سودا کی جج۔
 ادہام (آؤ-ہام) سپاہ ہونا۔
 ادیان (آؤ-یان) خفا کرنا، تعلق کرنا اور دیکھنا۔
 ادھی (آؤ-ھی) آہنی پیری، شکی گھڑا۔
 ادھیہ (آؤ-ھیہ) راہیہ کی جج۔
 ادیار (آؤ-یار) دیر کی جج۔
 ادیان (آؤ-یان) زمین کی جج۔
 ادیب (آؤ-یب) بلند فصیح اور فصیح اور بار۔
 ادیم (آؤ-یم) آگیا اور جھڑا، سطح زمین۔
 ادیمہ (آؤ-یمہ) دیکھو اورینہ۔
 ادی (آؤ-ی) جب اچکھ، جسوت۔
 ادرا (آؤ-را) دیکھو اور آؤ (دیکھو ازی۔
 اداسہ (آؤ-اسہ) نہ بچھانا۔
 ادافہ (آؤ-افہ) فرق اور آؤ (تہ منہ بچھانا۔
 ادالہ (آؤ-الہ) کہہ، خوار کرنا۔
 ادان (آؤ-ان) بانگ، آواز، نماز کو بلا سکی پکار۔
 ادبہ (آؤ-بہ) ذیاب کی جج۔
 ادرا (آؤ-را) جی، کھلنا اور ایک نہ ہر ہے۔
 ادس (آؤ-س) ذراغ کی جج۔
 ادعان (آؤ-عان) کج، طاعت، حکم ماننا۔
 ادفس (آؤ-فس) تیز بودالی چیز۔
 ادقان (آؤ-قان) ذوق کی جج۔
 ادکار (آؤ-کار) مذکورہ ذکر کرنا اور آؤ (مکار، مذکور کی جج۔

اذکی (آؤ-کی) بہت روشن۔
 اذکیا (آؤ-کیا) اذکی کی جج۔
 اذل (آؤ-ذل) بہت ذلیل۔
 اذلق (آؤ-ذل) تیز زبان جج ذلق۔
 اذولہ (آؤ-ولہ) ذلیل کی جج۔
 اذومہ (آؤ-ومہ) ذمام کی جج۔
 اذن (آؤ-ذن) کان، گوش جج اذن۔
 اذون (آؤ-ون) اجازت۔
 اذواب (آؤ-واب) نگاہ کرنا اور آؤ (ذواب، ذنب کی جج۔
 اذیاب (آؤ-یاب) سونے کا جھول چڑھانا۔
 اذی (آؤ-ی) ذہب کی جج۔
 اذیل (آؤ-یل) غافل کرنا۔
 اذیان (آؤ-یان) ذہن کی جج۔
 اذی (آؤ-ی) دیکھ، اذیا۔
 اذیال (آؤ-یال) ذیل کی جج۔
 اذیت (آؤ-یت) دیکھ، صیبت۔
 اذ (آؤ) گرا کر۔
 اراست (آؤ-است) شک کرنا۔
 اراپچی (آؤ-اپچی) کھڑی مان۔
 ارانہ (آؤ-رانہ) کھڑی اور آؤ (بہ دیکھو اورینہ۔
 اراجل (آؤ-راجل) راجل کی جج۔
 ارادت (آؤ-رادت) عقیدت، گردہ گی، چاہنا۔
 ارادہ (آؤ-رادہ) خواہش، وقت جیسے افعال اور جج۔
 ارادی (آؤ-ادی) مشوب بہ ارادہ۔
 ارادل (آؤ-ادل) ارذل کی جج۔
 اراضی (آؤ-اضی) ارض کی جج زمین۔
 اراجی (آؤ-راجی)۔
 اراعت (آؤ-راع) ارغہ اور آؤ (اعت، طلب کرنا۔
 اراقدر (آؤ-راقدر) تہ پائی کھیننا۔
 اراکب (آؤ-اکب) ایدو کا پیر۔
 ارامل (آؤ-امل) آؤ (مل) کی جج۔

ارائک د آرائک (ایکے کی جمع -	ارائک د آرائک (ایکے کی جمع -
ارباب د ارباب (عاجت و ضرورت آرابہ، آرابہ دارتہ، بھگتہ -	ارباب د ارباب (عاجت و ضرورت آرابہ، آرابہ دارتہ، بھگتہ -
ارباب د ارباب (بجب) رب کی جمع -	ارباب د ارباب (بجب) رب کی جمع -
ارباب ظلم د ارباب باطمانظم (ظلم قلم والے لوگ -	ارباب ظلم د ارباب باطمانظم (ظلم قلم والے لوگ -
ارباب فدا (آرہ) بادیہ و تنکا، پارنا لوگ -	ارباب فدا (آرہ) بادیہ و تنکا، پارنا لوگ -
ارباب و ارباب (آرہ) باغ، رہا کی جمع -	ارباب و ارباب (آرہ) باغ، رہا کی جمع -
ارباب و ارباب (جمع) پارنا کا سنہ، چارہ آرہ، بچ، بچ کی جمع -	ارباب و ارباب (جمع) پارنا کا سنہ، چارہ آرہ، بچ، بچ کی جمع -
ارباب و ارباب (نہا، پنہ، چہا) شنبہ -	ارباب و ارباب (نہا، پنہ، چہا) شنبہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -
ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -	ارباب و ارباب (آرہ) پنہ، چارہ -

اردوئے معلیٰ (آز۔ جوڑ۔ رنے۔ مطلق۔ کا) بادشاہی
 شکر، دلی، اصلا اردو زبان۔
 اردوی، اردوی ہشت د آڑ۔ وچی، آڑ۔ دخی۔
 ہشت۔ ت، ناسی کا دسرا سسی ہیند۔
 ار ذوال دراز۔ ذال، خرمایہ کرنا د آڑ۔ ذال
 رذل کی بج۔
 ار ذل د آڑ۔ ذل، مجرا ذل جی آرا ذل۔
 ار زد آڑ۔ قیمت (آڑت) چا دل۔
 ار زاق د آڑ۔ زاق، رزق کی بج۔
 ار ذال د آڑ۔ ذال، ہست، ہندا۔
 ار زانی د آڑ۔ زانی، بخشش، مستاپن۔
 ار زل د آڑ۔ زل، چینا۔
 ار زلمہ د آڑ۔ زلم، ذمہ، قیمت پانے مانا۔
 ار زلمین د آڑ۔ زلمی، ذمہ، قیمت پانے مانع آڑ۔
 ار زلمینی د آڑ۔ زلمی، ذمہ، قیمت پانے کے لائق۔
 ار زیدہ (آڑ۔ زیدی، ذمہ، قیمت پانیا ہوا۔
 ار زیز د آڑ۔ زیز، زمین، رانگ۔
 ار زلمک د آڑ۔ زلمک، مھو برد کی کتاب۔
 ار سا د آڑ۔ سا، لشکر ڈالنا۔
 ار ساغ د آڑ۔ ساغ، ریش، ریشہ کی بج۔
 ار سال د آڑ۔ سال، ردائی، بھینا، پھوڑنا۔
 ار سان د آڑ۔ سان، رسن کی بج۔
 ار سلا د آڑ۔ سلا، شہ، غلام۔
 ار شین د آڑ۔ شین، ہاتھ د آڑ۔ شین، مقلد، نہیں۔
 ار شاد د آڑ۔ شاد، علم، سمت، راد راست دکھانا۔
 ار شہ د آڑ۔ شہ، بہت دوستی آڑ۔ شہ۔
 ار شاد د آڑ۔ شاد، ہنگامی کرنا، آڑ۔ شاد، رعد کی بج۔
 ار ض د آڑ۔ ض، زمین جی آڑ۔ ضی، جی آڑ۔ ضی، شاد۔
 ار ضا د آڑ۔ ضا، منانا۔
 ار ضاع د آڑ۔ ضاع، ددھ پانا۔
 ار ضہ د آڑ۔ ضہ، دیک

ارضی د آڑ۔ ضی، زمین کا، زمین کی، منو باب زمین۔
 ار ضیہ د آڑ۔ ضی، مال گو دام کا کر ایہ۔
 ار طال د آڑ۔ طال، رطل کی بج۔
 ار عا د آڑ۔ عا، خزانہ۔
 ار طل د آڑ۔ طل، جس کی قیمت نہ ہوتی ہو۔
 ار عین، ار غول د آڑ۔ عین، آڑ۔ عین، ہم باب اول
 ار غول د آڑ۔ غول، سب، نارنجی۔
 ار غوانی د آڑ۔ غوانی، سرسہ یا نارنجی رنگ والا۔
 ار غول د آڑ۔ غول، ارغن۔
 ار فاد د آڑ۔ فاد، تمام دان تیل ملنا۔
 ارغ د آڑ۔ ریح، بہت بلند۔
 ار قان د آڑ۔ قان، تمام، ہم کلمہ، ڈالنا۔
 ار قان د آڑ۔ قان، دیکھو، قان۔
 ار قتم د آڑ۔ قتم، کالا سائب۔
 ار ک د آڑ۔ ک، شاپی، مل، گڑھی۔
 ار کاک د آڑ۔ کاک، بھو بار۔
 ار کان د آڑ۔ کان، گون کی بج۔
 ار کان دولتہ د آڑ۔ کان، دولتہ، افراد حکومت
 ار کم د آڑ۔ کم، جنت شاد، نشان فرنگ۔
 ار کاج د آڑ۔ کاج، ریح کی بج۔
 ار مان د آڑ۔ مان، گھ بھرنہ۔
 ار ماق د آڑ۔ ماق، ریش کی بج۔
 ار مان د آڑ۔ مان، حسرت، آرزو۔
 ار مد د آڑ۔ مد، جلی اکھ درد کرے جی آکار۔
 ار ممال د آڑ۔ ممال، آڑ۔ ممال، نفع، سوغات۔
 ار مل د آڑ۔ مل، بے ہوی والا، سکین، بے لوش
 شک سال جی آڑ۔ مل۔
 ار ملہ د آڑ۔ ملہ، شہ، رانی جی آڑ۔ مل۔
 ار من، ار مستان د آڑ۔ من، آڑ۔ من، ساق
 ایک ملک (مغربی ایشیا)
 آرمینی د آڑ۔ مینی، ملک، ارمن کا باشندہ۔

<p>اسپاہیہ (اس - یا - بیٹھ) دیکھو سپاہیہ - اسبق (اس - بچ) اس سے اول چھ اسباق - اسپوہ (اس - پوزہ) بڑھ گالی اسلوچ (اس - بوج) ہفتہ سات مرتبہ اسٹالچ - اسپا (اس - پھوڑا) اسپاہیہ (اس - یا - بیٹھ) دیکھو سپاہیہ - اسپوزال (اس - بچوان) برہنہ کی بیٹی، بچوال اسپدوانی (اس - پ) ذرا - بڑی گھوڑ دوڑ - اسپر (اس - پڑ) دیکھو سپر - اسپر (اس - پڑ) دن اردن، انام کو پوکھا اسپر (اس - پڑ) نماں، قلی اسپر (اس - پڑ) نما، تر شیا - اسپش (اس - پش) پش اسپش (اس - پش) پش اسپک (اس - پک) اسپ کی تصویر، چھوٹا اسپناخ (اس - پناخ) پاک، پتھوا - اسپنچ (اس - پنچ) دیکھو اسپنچ - اسپند (اس - پن) دیکھو اسپند - اسرت (اس - رت) بہت ہے (اس ۵) باخانہ کی جگہ مقصد - استا (اس - ت) نام کتاب، کوپین، گامیان استا (اس - ت) تعریف - استا (اس - ت) تاج، اٹرن، جنگوک - استا (اس - ت) تاج، دیکھو گستاخ - استا (اس - ت) تاج، مدرس، مدرسہ، ہوشیار - استادی (اس - تادی) تاج، دیکھو گستاخ - استاد (اس - تاد) تاج، دیکھو گستاخ - استاد (اس - تاد) تاج، دیکھو گستاخ - استاد (اس - تاد) تاج، دیکھو گستاخ - استاد (اس - تاد) تاج، دیکھو گستاخ - استادی (اس - تادی) تاج، دیکھو گستاخ -</p>	<p>اثر دور، اثر دور، اثر دور، اثر دور، اثر دور - اثر دور، بہت بڑا سنا - اثر دور (اس - تادی) تاج، دیکھو گستاخ - اس (اس - اس) تاج، دیکھو گستاخ - اساتذہ (اس - تاذ) تاج، دیکھو گستاخ - اساتین (اس - تین) تاج، دیکھو گستاخ - اسامیج (اس - مین) تاج، دیکھو گستاخ - اسادہ (اس - ادہ) تاج، دیکھو گستاخ - اسار (اس - ار) تاج، دیکھو گستاخ - اساری (اس - ریا) تاج، دیکھو گستاخ - اسار (اس - ار) تاج، دیکھو گستاخ - اساس (اس - اس) تاج، دیکھو گستاخ - اساسہ (اس - ساسہ) تاج، دیکھو گستاخ - اساسی (اس - ساسی) تاج، دیکھو گستاخ - اساطیر (اس - طیر) تاج، دیکھو گستاخ - اساطین (اس - طین) تاج، دیکھو گستاخ - اساعہ (اس - اعہ) تاج، دیکھو گستاخ - اساطیل (اس - طیل) تاج، دیکھو گستاخ - اسائی (اس - سائی) تاج، دیکھو گستاخ - اسالہ (اس - سالہ) تاج، دیکھو گستاخ - اسالیب (اس - لیب) تاج، دیکھو گستاخ - اسامہ (اس - سامہ) تاج، دیکھو گستاخ - اسامی (اس - سامی) تاج، دیکھو گستاخ - اسادوہ (اس - ادوہ) تاج، دیکھو گستاخ - اسادوق (اس - ادوق) تاج، دیکھو گستاخ - اسپ (اس - پ) تاج، دیکھو گستاخ - اسپان (اس - پان) تاج، دیکھو گستاخ - اسپاہا (اس - پاہا) تاج، دیکھو گستاخ - اسپاٹی (اس - پاٹی) تاج، دیکھو گستاخ - اسپال (اس - پال) تاج، دیکھو گستاخ -</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استرخا در این - بز - خار، و عیلا پن، کسی عهد کا
 چھوٹا پچھ جانا -
 استرخا خاص در این - بز - خاص، رفعت جانتا -
 استرخا در این - بز - داد، و این لینا، دایسی جاننا
 استرخا در این - بز - دن، مرنڈنا، حاش
 کرنا، صغ استرخا
 استرخا در این - بز - کوئی، موندنے کے لاین -
 استرخا در این - بز - دہ، موندنا ہوا -
 استرخا در این - بز - خار، پوزنودی، وضاحتی پچھنا
 استرخا در این - بز - موندنے والا -
 استرخا در این - بز - دن، عظیم، با بچھ عورت -
 استرخا در این - بز - موندنے کا دزار -
 استرخا در این - بز - لاق، پھیلانا -
 استرخا در این - بز - کا، طلبیات، پکی جاننا -
 استرخا در این - بز - قاس، ملندھ -
 استرخا در این - بز - لاق، طلب سلامتی،
 سہلیم خم کرنا -
 استرخا در این - بز - شورہ، طینا، ملاح پوچھنا
 استرخا در این - بز - کار، پچھیکے دل میں ڈرنا -
 استرخا در این - بز - کار، ہنفا حاصل کرنا، ہنفا جاننا -
 استرخا در این - بز - ناع، نفاعت جاننا -
 استرخا در این - بز - نام، سوکھنا جاننا -
 استرخا در این - بز - ہاؤ، طلب بہادرت، گوہی جاننا
 استرخا در این - بز - ہاؤ، نمہ، پوچھہ، سندنہ -
 استرخا در این - بز - نفا، پچھیک جاننا -
 استرخا در این - بز - لاق، علاج پوچھنا -
 استرخا در این - بز - کرنا، درست جاننا، دریا
 پانے، شورہ، اشوری -
 استرخا در این - بز - قضا، پت یا کی خوشبوئی
 استرخا در این - بز - نفا، عت، ناعت، قدرت، طاقت
 استرخا در این - بز - لاق، آگاہی جاننا -

استغراق در این - بز - لاق، قید سے چھڑانا -
 استغراق در این - بز - لاق، چھڑانا لینا -
 استغراق در این - بز - ہاؤ، انداز، مدد جاننا
 پٹھی ڈھونڈنا -
 استغراق در این - بز - نفا، دست، مہربان کہنا -
 استغراق در این - بز - نفا، نفا، پناہ لینا -
 استغراق در این - بز - نفا، نفا، عاریت لینا -
 استغراق در این - بز - نفا، نفا، مدد، مدد جاننا -
 استغراق در این - بز - نفا، نفا، غلامی، غلامی
 میں لینا -
 استغراق در این - بز - جاب، توب کرنا -
 استغراق در این - بز - تیج، بیان، میدی جاننا
 سبکی کرنا -
 استغراق در این - بز - راج، دستکار، علمی
 آمادگی، آمادہ ہونا -
 استغراق در این - بز - لاق، لاق، مہربانی،
 دل منھی میں لینا -
 استغراق در این - بز - قاس، برطرفی، طاقت
 کی درخواست، سمائی جاننا -
 استغراق در این - بز - لاق، طلب، بندی، برتری جاننا
 استغراق در این - بز - لاق، علاج، علاج جاننا -
 استغراق در این - بز - لاق، درمانت جان، آگاہی جاننا
 استغراق در این - بز - لاق، آشکار کرنا -
 استغراق در این - بز - نفا، نوآبادی، نوآبادی جاننا
 استغراق در این - بز - نفا، نظر کرنا -
 استغراق در این - بز - نفا، امرتیا، کام کی طلب کرنا
 استغراق در این - بز - نفا، نفا، خواہی، فریاد جاننا -
 استغراق در این - بز - نفا، نفا، بے حد، نفا کرنا
 حیرت، انکھلی بات کہنا -
 استغراق در این - بز - راق، محبت، کھو جاننا،
 غرق ہو جانا -

اسرار در آتش - کارش مجید کسی کو باتا پیر بنیاد پوشیده
 کرنا در آتش - کارش میر کی حج -
 اسراف در آتش - زان بخشور لایبی ای اندازہ فرج کرنا
 اسراف فیل در آتش - سرا - لیکن اردو نظر میں ہونے چاہئے
 والا فرشتہ -
 اسرافیل در آتش - زار سوزن ہندہ خدا نام حضرت پیغمبر -
 سربابی در آتش - کابھی بلی فرزند بن اسرافیل سے ، یہودی -
 اسراف در آتش - رنہ ، بہت جلد -
 اسراف در آتش - رنہ حج ، بظہر سے کاسرخ رنگ -
 اسرفی در آتش - کرا ، اسیر کی حج -
 اسس اسس ، بنا در حج آسائش -
 اسرارہ اسرافیل - طاہرہ ، دیکھو اسطورہ جہ اسرافیل -
 اسطر در آتش - طر ، ترارز -
 اسطرلاب در آتش - طر ، لاج ، اجرام کی ہمایش کا آلہ -
 اسطفتس در آتش - فطس ، عصر حج اسطفتس -
 اسطوانہ در آتش - نوانہ ، ستوانہ حج آسافیلورج -
 اسطورہ در آتش - طورہ ، انانہ ، کمانی حج آسافیلورج -
 اسطول در آتش - طول ، جنگی جہاز -
 اسعد در آتش - عاذ ، مدد دینا ، یکتی کرنا -
 اسعار در آتش - عاڑ ، بھاگو بھگانا در آتش - عاڑ ہر کی حج
 اسعاط در آتش - عاٹ ، طعن ، بھالانا کرنا -
 اسعاف در آتش - عاف ، حاجت ، روائی کرنا -
 اسعد در آتش - عذ ، نہایت نیک ، سعیدتر -
 اسعد (اسعد) بطارح واسعد ، غصیلہ ، غصیلناک -
 اسعد در آتش - عاڑ ، روشن ہونا در آتش - عاڑ ہر ہر اسعد کی حج -
 اسحاق در آتش - عاٹ ، نزدیک ہونا ، گھورنا ، ٹھکانا ، ٹھکانا -
 اسفاناج در آتش - عاٹ ، نایح ، اسفنج -
 اسفاناج در آتش - عاٹ ، نایح ، بھو اسفنج -
 اسفل در آتش - فن ، نہایت نجا حج آسافیلورج
 اسفل اسافلین در آتش - فن ، نیش ، نیش ، نیش ، ہادیہ ،
 در زخ کارا کوان لیتہ -

اسفنج در آتش - فن ، نیش ، نیش ، نیش ، ہادیہ ،
 اسفند ، اسفندار (اسفند) - فن ، در ہر اسفند
 فن - زائر ہمار کی کا ہارواں قسمی ہیں -
 اسفند یا در آتش - فن - دیوار ، ندرت حق ،
 لطف بڑواں -
 اسقاد اسفند - قار ، پلانہ -
 اسقاط در آتش - قاط ، گرانا در آتش - قاط ، مقل کی حج
 اسقام در آتش - قاتم ، قسم کی حج -
 اسقف در آتش - قفا ، اباد در آتش -
 اسقیل در آتش - قیل ، جنگی سپاہ -
 اسقیبہ در آتش - قیبہ ، سقاہ کی حج -
 اسکات در آتش - کات ، خاوسی ، جیکا کرنا -
 اسکاف در آتش - کاف ، موجی ، کاٹنے -
 اسکان در آتش - کان ، آرام دینا ، آرام کرنا -
 اسکدار در آتش - کدار ، چون کی داس ، ایلی
 اسکند در آتش - کند ، کڈنا ، چھٹے -
 اسکندر در آتش - کندر ، بڑا آرام پایا ہوا -
 اسکندہ در آتش - کندہ ، چھیدنے کا ہرما -
 اسلاج در آتش - لاج ، کھال کھیننا ، کھال انارنا -
 اسلاف در آتش - لاف ، سلف کی حج -
 اسلاک در آتش - لاک ، سلک کی حج -
 اسلال در آتش - لال ، رشوت دینا ، چوری کرنا -
 اسلام در آتش - لام ، مسلمان ہونا ، امانت میں
 گردن رکھنا در آتش - لام ، سلم کی حج -
 اسلحہ در آتش - لحد ، سلاح کی حج -
 اسلحہ خانہ در آتش - لحد ، خانہ ، ہتھیار خانہ -
 اسلمہ در آتش - کم ، نہایت سالم ، مارگزیدہ -
 اسلوب در آتش - لوب ، افس توجہ ، افس لوب
 طرز ، در آتش - طرز ، آسائش -
 اسم در آتش - ام ، نام حج آسافیلورج اسامی -
 اسماء در آتش - مار ، سر کی حج -

اصطلاح در ارض - بیابان صبر کرنا۔	اصطلاح در ارض - بیابان صبر کرنا۔
اصطلاح در ارض - بیابان، ڈوبا دینا، رنگنا۔	اصطلاح در ارض - بیابان، ڈوبا دینا، رنگنا۔
اصطلاح در ارض - بیابان، طویل، طویل، آخڑ۔	اصطلاح در ارض - بیابان، طویل، طویل، آخڑ۔
اصطلاح در ارض - طراخ، فریاد، دشمن کرنا۔	اصطلاح در ارض - طراخ، فریاد، دشمن کرنا۔
اصطلاح در ارض - طرد، کاج، دیکھو، اسطلاب۔	اصطلاح در ارض - طرد، کاج، دیکھو، اسطلاب۔
اصطلاح در ارض - طغاء، برگزیدگی۔	اصطلاح در ارض - طغاء، برگزیدگی۔
اصطلاح در ارض - طغاف، مصنفی، اعتبار، باد، بضا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، مصنفی، اعتبار، باد، بضا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، برگزیدگی، چھانٹنا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، برگزیدگی، چھانٹنا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، دوسری، سنی، مقرر۔	اصطلاح در ارض - طغاف، دوسری، سنی، مقرر۔
اصطلاح در ارض - طغاف، حاکمات۔	اصطلاح در ارض - طغاف، حاکمات۔
اصطلاح در ارض - طغاف، بی، شوبہ بہ، اصطلاح۔	اصطلاح در ارض - طغاف، بی، شوبہ بہ، اصطلاح۔
اصطلاح در ارض - طغاف، کام، برحق، جانا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، کام، برحق، جانا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، جیسے، آخڑ، جانا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، جیسے، آخڑ، جانا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، بھلائی، کرنا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، بھلائی، کرنا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، شکار، کرنا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، شکار، کرنا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، سنے، کوکان، چھکانا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، سنے، کوکان، چھکانا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، نہایت، چھوٹا، چھوٹا، چھوٹا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، نہایت، چھوٹا، چھوٹا، چھوٹا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، ایش کرنا، سوال، رد کرنا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، ایش کرنا، سوال، رد کرنا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، صدق، حج۔	اصطلاح در ارض - طغاف، صدق، حج۔
اصطلاح در ارض - طغاف، مفسس، ہونا، ارض، خاز، مفسس، حج۔	اصطلاح در ارض - طغاف، مفسس، ہونا، ارض، خاز، مفسس، حج۔
اصطلاح در ارض - طغاف، پیلا، زرد۔	اصطلاح در ارض - طغاف، پیلا، زرد۔
اصطلاح در ارض - طغاف، بہت، صاف۔	اصطلاح در ارض - طغاف، بہت، صاف۔
اصطلاح در ارض - طغاف، صافی کی حج۔	اصطلاح در ارض - طغاف، صافی کی حج۔
اصطلاح در ارض - طغاف، بنیاد، بنیاد، اصول، اصل۔	اصطلاح در ارض - طغاف، بنیاد، بنیاد، اصول، اصل۔
اصطلاح در ارض - طغاف، ہرگز، در ارض، لہ، جانا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، ہرگز، در ارض، لہ، جانا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، از، در، اصل۔	اصطلاح در ارض - طغاف، از، در، اصل۔
اصطلاح در ارض - طغاف، صلب، کی حج۔	اصطلاح در ارض - طغاف، صلب، کی حج۔
اصطلاح در ارض - طغاف، درستی، سد، سارنا۔	اصطلاح در ارض - طغاف، درستی، سد، سارنا۔
اصطلاح در ارض - طغاف، سوس، لہجی۔	اصطلاح در ارض - طغاف، سوس، لہجی۔
اصطلاح در ارض - طغاف، بہت، درست۔	اصطلاح در ارض - طغاف، بہت، درست۔
اصطلاح در ارض - طغاف، بہرہ، بیٹ۔	اصطلاح در ارض - طغاف، بہرہ، بیٹ۔

اصطلاح در ارض - سج، تمام چہ۔
اصطلاح در ارض - سج، بوجا۔
اصطلاح در ارض - سج، شوبہ بہ، اصل، بنیادی، بے بنیاد۔
اصطلاح در ارض - سج، واقعیت، حقیقت۔
اصطلاح در ارض - سج، ہمت، حمت، ہمتان۔
اصطلاح در ارض - سج، ہر ہونا۔
اصطلاح در ارض - سج، جوئے، کان، دلا، تیز نظر، اہل دل۔
اصطلاح در ارض - سج، صنف کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، نام، صتم کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، گندہ، بھلا، چھند کرنا۔
اصطلاح در ارض - سج، ذات، صحت کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، صانع کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، بہت، صلب۔
اصطلاح در ارض - سج، اصل کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، شوبہ بہ، اصول۔
اصطلاح در ارض - سج، سبب، سفیدی، اصل، سرخ۔
اصطلاح در ارض - سج، دہلیں، کبھی، خواہا، خاموش، ہونا۔
اصطلاح در ارض - سج، صنف کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، صنف، نسل، والا، مضبوط، جمع، ضابط، آھیال۔
اصطلاح در ارض - سج، بناہ کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، ضلع، کرنا، کھ دینا۔
اصطلاح در ارض - سج، نسبت، دینا، زیادہ کرنا۔
اصطلاح در ارض - سج، زیادہ، بڑھوتری۔
اصطلاح در ارض - سج، نسبت، زائد۔
اصطلاح در ارض - سج، ردش، کرنا، ہونا۔
اصطلاح در ارض - سج، صنف کی حج۔
اصطلاح در ارض - سج، گردش، کل، لانا، لٹانا۔
اصطلاح در ارض - سج، چھکانا، چھاس چھانا۔
اصطلاح در ارض - سج، کجا، جس سے، سہی، آدے۔

<p>اطاحت (راخا، سخت) پاک کرنا، ڈالنا۔</p> <p>اطارت (راخا، رت) آٹھانا۔</p> <p>اطاعت (راخا، غٹ) تابعداری کرنا، حکم ماننا۔</p> <p>اطاق (دَاخَاتِق) کمرہ</p> <p>اطالت (راخا، کتج) مبارکنا۔</p> <p>اطالس (دَاخَا، یین) اطلس کی جمع۔</p> <p>اطالوسی، اطالیائی، آخا۔ بوجی، آٹا۔ بیا۔</p> <p>راچی، شوبہ بہ اطالیہ۔</p> <p>اطالیہ (دَاخَا، لیو) ملک اطلی۔</p> <p>اطالہ (دَاخَا، کوم) دیکھو اطالت۔</p> <p>اطام (دَاخَاتِم) شیش بند ہو جانا۔</p> <p>اطہاد (دَاخَبَّ، کاو) طبیب کی جمع۔</p> <p>اطہارخ (دَاخَا، باخ) کبانگنا، بھوننا۔</p> <p>اطہاس (دَاخَا، کاع) طبیب کی جمع (کتنے، کبے)۔</p> <p>اطہاسق (دَاخَا، کاتی) دروازہ بھیسٹنا</p> <p>دَاخَا، کاتی) طین کی جمع۔</p> <p>اطہسال (دَاخَا، پان) طین کی جمع۔</p> <p>اطہسج (دَاخَا، بئج) بہت بکانے والا۔</p> <p>اطہسجہ (دَاخَا، بقہ) طین کی جمع۔</p> <p>اطہراد (دَاخَا، ران) تریف میں سناؤ کرنا۔</p> <p>اطہراب (دَاخَا، رانج) خوشی کرنا۔</p> <p>اطہراسخ (دَاخَا، رانج) ڈالنا۔ پھینکنا۔</p> <p>اطہراد (دَاخَا، ران) ہانکنا، چلانا (دَاخَا، ران)</p> <p>کام ٹھیک ہونا، آئے پیچھے جانا۔</p> <p>اطہرار (دَاخَا، ران) ناز کرنا، بے سوچہ غصہ کرنا</p> <p>(دَاخَا، ران) طرہ کی جمع۔</p> <p>اطہراز (دَاخَا، ران) رات، رات کی طرح بکنا۔</p> <p>اطہران (دَاخَا، ران) طرف کی جمع، اعصابے جھانسی</p> <p>اطریق (دَاخَا، ران) اٹرن، اٹرن کی جمع</p> <p>اطروہ (دَاخَا، ران) زہن بخش، نغمہ اٹرمیر۔</p> <p>اطروش (دَاخَا، روش) بہرا۔</p>	<p>اصحی (دَاخَا، تراپی) صحیح کلام کرنا۔</p> <p>اصحیہ (دَاخَا، جید) ترمیمی کی بوی صح اصحی۔</p> <p>اضداد (دَاخَا، کاد) ضد کی جمع۔</p> <p>اضراب (دَاخَا، ران) ہتھ پھیر لینا، مہم ہونا، سر</p> <p>بچنے ڈال لینا (دَاخَا، ران) ضرب کی جمع۔</p> <p>اضرار (دَاخَا، ران) ضرر پہنچانا، دوڑانا</p> <p>(دَاخَا، ران) ضرر کی جمع۔</p> <p>اضراس (دَاخَا، ران) طہرس کی جمع۔</p> <p>اظرام (دَاخَا، ران) آگ جلانا۔</p> <p>اضطباع (دَاخَا، ران) طرح، کردہ سے سونا۔</p> <p>اضطراب (دَاخَا، ران) گھبراہٹ، ہڑٹنا۔</p> <p>اضطرار (دَاخَا، ران) بے اختیار، ناچار، عاجزی</p> <p>اضطراسی (دَاخَا، ران) طرا۔ برنج، شوبہ بہ اضطرار</p> <p>اضطرام (دَاخَا، ران) طرام، شعلہ مارنا۔</p> <p>اضطلاج (دَاخَا، ران) طلاج، بچہ نگاری، کام کو مضبوط ہونا</p> <p>اضطلاف (دَاخَا، ران) غاٹ، ڈونا کرنا، ضعیف کرنا۔</p> <p>(دَاخَا، ران) نماز، ضعف کی جمع۔</p> <p>اضعیف (دَاخَا، ران) غنہ، بہت ضعیف۔</p> <p>اضعیفات (دَاخَا، ران) غنہ، ضعیف کی جمع۔</p> <p>اضعیفا (دَاخَا، ران) غنہ، خام، خواب پریشاں</p> <p>اضیل (دَاخَا، ران) ٹرا، گمراہ۔</p> <p>اضیلاج (دَاخَا، ران) کاع، صلح کی جمع۔</p> <p>اضیلال (دَاخَا، ران) کال، راہ بھلانا، گمراہ کرنا۔</p> <p>اضیلاج (دَاخَا، ران) ٹو، صلح کی جمع۔</p> <p>اضیم (دَاخَا، ران) غصہ کرنا۔</p> <p>اضیمار (دَاخَا، ران) نماز، ضمیر لانا، دل میں رکھنا۔</p> <p>اضیصال (دَاخَا، ران) کال، مضمحل ہونا، نیت ہونا۔</p> <p>اضیضان (دَاخَا، ران) کاف، ضعیف کی جمع۔</p> <p>اضییغ (دَاخَا، ران) بچنے، نہایت ضلح کرنے والا۔</p> <p>اضییق (دَاخَا، ران) کاف، بہت تنگ۔</p> <p>اطاہن (دَاخَا، ران) بچنے، خوشبو کرنا، مستحکان، خوش کرنا۔</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعشہ و اعش، کتہ، عنان کی جسج -
 اعشی (کری، عنی کا صیغہ واحد منکلم میں زیاد
 رکھتا ہوں، قصد کرتا ہوں۔
 اعواود (ارغ، واژ) عود کی جسج -
 اعواز (ارغ، واژ) فقیر ہونا، کام شکل ہونا۔
 اعواص (ارغ، کاص) دشمن پر کام شکل ڈرانا۔
 اعواض (ارغ، وااض) عوف کی جسج۔
 اعوام (ارغ، وادم) عام کی جسج۔
 اعوان (ارغ، وان) عوف کی جسج۔
 اعوج (ارغ، ووج) طویل عاجب عوج۔
 اعوجاج (ارغ، ووجاج) ٹھہرا ہونا۔
 اعور (ارغ، وور) سوتیل پھانی، گانا، نام آت
 - حرمان نصیب، بے فرہم عخوران و غیرہ
 اعوشہ (ارغ، ووشہ) عائن کی جسج۔
 اعیاد (ارغ، یاز) عید کی جسج۔
 اعینان (ارغ، یان) عین کی جسج۔
 اعینانی (ارغ، یانہ) سگا۔
 اعیظ (ارغ، یظ) دراز گردن۔
 اعین (ارغ، یین) شری آنگوں والا جم عین
 (ارغ، یین) عین کی جسج۔
 اعانت (ارغ، یانت) فریاد، داد دینا۔
 اعانت (ارغ، یانت) زمین مقصود۔
 اعانت (ارغ، یانت) دوڑنا، لوٹنا۔
 اعانت (ارغ، یانت) حرکت کرنا، بہت گزیرنا۔
 اعانت (ارغ، یانت) تیز کرنا یا ہونا،
 شو کرنا، بھڑکانا۔
 اعانت (ارغ، یانت) لیک، غلط، اغوط کی جسج۔
 اعانت (ارغ، یانت) غم کی جسج۔
 اعانت (ارغ، یانت) اجنبیہ کی جسج۔
 اعانت (ارغ، یانت) گرد آلود، خاک کی رنگ

اعیشاد (ارغ، ییشاد) بی کی جسج۔
 اعیشاب (ارغ، ییشاب) سافر ہونا۔
 اعیشاف (ارغ، ییشاف) اوک سے پینا۔
 اعیشاکل (ارغ، ییشاکل) کاتا۔
 اعیشاکل (ارغ، ییشاکل) غسل کرنا، دھونا۔
 اعیشاش (ارغ، ییشاش) اہل۔
 اعیشابہ (ارغ، ییشابہ) پھینا، نصب کرنا۔
 اعیشاب (ارغ، ییشاب) عیش میں لانا۔
 اعیشار (ارغ، ییشار) منفرت چاہنا۔
 اعیشم (ارغ، ییشم) سردی نصح۔
 اعیشاس (ارغ، ییشاس) کوئی کھانا۔
 اعیشام (ارغ، ییشام) غم کھانا۔
 اعیشالم (ارغ، ییشالم) غنبت سمجھنا۔
 اعیشاب (ارغ، ییشاب) پھینے پھینے کرنا۔
 اعیشا (ارغ، ییشا) پھینا، غصہ کرنا۔
 اعیشال (ارغ، ییشال) کوچ کا فریب ہونا۔
 اعیشہ (ارغ، ییشہ) غذا کی جسج۔
 اعیش (ارغ، ییش) شریف، مشہور، ہم عمر۔
 اعشاد (ارغ، ییشاد) بھارنا، لیکنا۔
 اعشاب (ارغ، ییشاب) کوئی چیز لانا، سافر ہونا۔
 اعشاف (ارغ، ییشاف) تنگ کرنا، راضی ہونا۔
 اعشاق (ارغ، ییشاق) شہد مساند، فرق کرنا۔
 اعشام (ارغ، ییشام) بلاگ کرنا، لاپچ کرنا،
 تاوان لینا۔
 اعشاب (ارغ، ییشاب) عجیب تر۔
 اعشیرہ (ارغ، ییشیرہ) غراب کی جسج۔
 اعشاد (ارغ، ییشاد) جاد پر ہشیما، قرص دار
 بہت دینا۔
 اعشال (ارغ، ییشال) چھہ کاتا۔
 اعشاد (ارغ، ییشاد) رات بھر ہونا۔
 اعشاد (ارغ، ییشاد) بردہ ڈالنا، اندھا کرنا۔

اشتبہ (دُخ) - شبنم، فشاکی حج۔
 اغصان (دُخ) - جوان، غصن، غصن کی حج۔
 اغصا (دُخ) - طار، چشم پوشی۔
 اغصاب (دُخ) - طاج، غصہ میں لانا۔
 اغطاش (دُخ) - طاش، رات اندھیری جھلکا۔
 اغطش (دُخ) - کش، کزوریشانی دالا۔
 اغفا (دُخ) - فار، سونا۔
 اغفال (دُخ) - خال، نفلت، بجزیری۔
 اغفر (دُخ) - فر، بڑا چھانے والا۔
 اغلا (دُخ) - لار، بھارتی خردنا، منگلا خردنا۔
 اغلاط (دُخ) - لاط، غلط کرنا (دُخ) - لاط، غلط کی حج۔
 اغلاظ (دُخ) - لاط، سخت کرنا (دُخ) - لاط، غلطی کی حج۔
 اغلاظ ایمان (دُخ) - لاط، رچی، مان سخت نہیں۔
 اغلاق (دُخ) - لاق، ہنسل کرنا، بند کرنا۔
 اغلال (دُخ) - لان، خیانت کرنا، کسینہ رکھنا۔
 دُخ کی حج۔
 اغلام (دُخ) - لام، رطوں کیساتھ طمان وضع فطری۔
 اغلب (دُخ) - لب، گمان غالب۔
 اغلط (دُخ) - لظ، بڑا غلط۔
 اغلف (دُخ) - لظ، ہلاشتوں والا۔
 اغلمہ (دُخ) - لظ، غلام کی حج۔
 اغلوط (دُخ) - لوط، دھوکا کھلی میں ڈالنے والی چیز۔
 ہم اغلا لیرٹ۔
 اغم (دُخ) - گم، شنگیشانی، جنگ گدھی۔
 اغما (دُخ) - مار، بے ہوش کرنا۔
 اغمار (دُخ) - مار، غم کی حج۔
 اغماز (دُخ) - مار، عیب کرنا، کم ہمت کرنا۔
 اغماض (دُخ) - مار، تپیم پوشی، درگزر کرنا۔
 اغمام (دُخ) - مار، گھٹا بھجا جانا۔
 اغمن (دُخ) - مخفا، ہننا، جو لاک میں ہوسے۔
 اغما (دُخ) - مار، مالدار کرنا، بے پردا بنانا۔

اغمام (دُخ) - نام، غم کی حج۔
 اغشان (دُخ) - شان، بھینٹانا۔
 اغنیا (دُخ) - نیا، غمی کی حج۔
 اغنہ (دُخ) - نہ، ہاتھ کا باجہ، جم آٹھارنی۔
 اغوا (دُخ) - وار، ہلکا نا، ابھارا۔
 اغوار (دُخ) - وار، غم کی حج۔
 اغیار (دُخ) - یار، غیر کی حج۔
 اغیر (دُخ) - یر، منہ، نام، دکان۔
 اغی (دُخ) - یر، گلہ، انوس، رات بھونک۔
 اغادہ (دُخ) - فا، ڈو، فاکہ پہنچانا۔
 اغادھی (دُخ) - فا، جوئی، سوب بہ افادہ۔
 اغاصل (دُخ) - فا، حیل، انفل کی حج۔
 اغاصہ (دُخ) - فا، فہ، خبر پہنچانا، بہت کرنا،
 بات شروع کرنا۔
 اغاظہ (دُخ) - فا، لظ، چاک کرنا۔
 اغامی (دُخ) - فا، حمی، انھی کی حج۔
 اغامشہ (دُخ) - فا، شہ، افغان کی حج۔
 اغاقتہ (دُخ) - فا، فا، قتا، افانہ، فراقتا،
 تخفیف مرض، صحت پانا۔
 افاک (دُخ) - فاک، بڑا جھوٹا۔
 افامین (دُخ) - فام، غنن کی حج۔
 افتاد (دُخ) - فاد، فزا دینا۔
 افتاد (دُخ) - فاد، اتفاق، بصیرت، ڈھنگ۔
 افتادگی (دُخ) - فاد، دگی، عاجزی۔
 افتادین (دُخ) - فاد، دن، گر پڑنا، اتفاق،
 پڑنا صغیر۔
 افتادنی (دُخ) - فاد، فنی، گرنے کے لائق،
 اتفاق پڑنے کے لائق۔
 افتاد (دُخ) - فاد، فاد، درماہ، اگر پڑا ہوا،
 افتار، افتال، روف، تازہ، اف، خالی،
 بھر ہوا، بھر کا ہوا۔

افضال دان - شان، فضل کرنا، برعانا۔ دان - شان، فضل کی جگہ۔	افلا راق - کانچھ کی راہ لیستنا۔ افلاج دان - کانچھ، کانچھ کرنا، حضور پر چلنا۔
افضح دان - صبح، بڑا دنام، میورا، شیر درندہ۔ افضل دان - صلح، بست افزوں جی آفا صلح۔	افلاج دان - کانچھ، بھلائی، نیکی کرنا۔ افلاس دان - کاشت، عطسی، کنگال ہونا۔
افضلیت دان - بلی، بیچ، افضل بن، افزونی۔ افطار دان - کھانا، روزہ کھانا۔	افلاک دان - کاک، فلک کی جگہ۔ افلاق دان - کانچھ، کانچھ کرنا۔
افطاری دان - کھانا، برسی، جس سے روزہ کھلیں افطس دان - صلح، ہمیشہ ناک والا۔	افطیح دان - سرخ، ہونٹھہ بیٹھا ہوا۔ افلس دان - کس، کس کی جگہ، دان میں، ہونٹھہ ناک
افصال دان - حال، فصل کی جگہ۔ افعی دان - یعنی، ایک سانب جی آفا عی۔	افنا دان - نام، فنا کرنا۔ افنان دان - نمان، فتن کی جگہ۔
افغان دان - شان، بھان، آفا فغان دان، شان، بڑا دنام افح دان - یعنی، آسان کارہ جی آفا ح۔	افوات دان - راج، فوت کی جگہ۔ افواج دان - راج، فوت کی جگہ۔
افکار دان - فکر، بے کھانا دان ہونا۔ افقر دان - تر، ہنایت فقیر۔	افواہ دان - کات، کات، کات، شہرت اچھا افول (د آفول) - بڑا بار، غریب۔
افقم دان - تم، حلالہ، ستوان، کج دہن۔ افنقہ دان - کت، بست طرافقیہ۔	افسام دان - کام، سمھانا دان، کام، ہم کی جگہ افیاض دان - بیاض، فیض کی جگہ۔
افنی دان - یعنی، منسوب بہ افق۔ افک دان - کج، جھوٹ، ستان۔	افیال دان - یال، ذیل کی جگہ۔ افیل (د افسیل) - جوان آدمی۔
افکار دان - فکر، شکر کی جگہ۔ افکار عالیہ دان - کار، کار، لیبہ، بندھیالات۔	افیون دان - یون، تریاک، انیم۔ افیو جی، ایفو جی دان - یون، یون، یون، یون۔
افکل دان - کل، لڑھ، تھ، تھری۔ افکار دان - کات، زخمی، زخم۔	افنی، تریاک، تھری۔ افقار دان - کات، بوج، ارب کی جگہ۔
افگاندہ دان - گاندہ، ادھر ادھر۔ افگن دان - گن، گرائے دان، ڈالنے والا۔	افاسم دان - کات، سیم، نسیم کی جگہ۔ افالت دان - کات، کات، موت کرنا، ضح کرنا۔
افگندہ دان - گن، گن، ڈالنا، پھینکنا، گرائے دان، ڈالنے والا۔	افالہ دان - کات، کات، کام سے سیدھی۔ افالیم دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔
افگندی دان - گن، گن، گرائے کے قابل۔ افگندہ دان - گن، گن، گرائے، پھینکنا ہوا۔	افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔ افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔
افگندہ دان - گن، گن، گرائے کے قابل۔ افگندہ دان - گن، گن، گرائے، پھینکنا ہوا۔	افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔ افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔
افگندہ دان - گن، گن، گرائے کے قابل۔ افگندہ دان - گن، گن، گرائے، پھینکنا ہوا۔	افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔ افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔
افگندہ دان - گن، گن، گرائے کے قابل۔ افگندہ دان - گن، گن، گرائے، پھینکنا ہوا۔	افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔ افامت دان - کات، کات، کات، کات، کات، کات۔

اکول دانگ، بول، بڑھو، بلاؤش۔
 اکیاس دانگ۔ باس اکیس، اکیسہ کی جمع۔
 اکیبال رنگہ۔ یان، کیل کی جمع۔
 اکیڈر آگ۔ بڑے مہبوط، استوار۔
 اکیس دانگ۔ پتے، بڑا عقلمند۔
 اکیلیں (اکیس) ہم پالہ ہنوالہ۔
 اکیلیہ دانگ۔ اتم کھانے کی چیز۔
 اگرڈانگ، ایکھ شرط، جو ۲۔ جمع جو ایک دھونی ہے۔
 اگرچہ دانگ۔ چیر، گرج، آرج۔
 ال (دانگ) بیان، امان، سوگند۔
 الا دانگ، اکلہ، بقیہ، خبر دار دانگ، انہیں تو
 جہنم سے خوف، حرف استنظار، آل، حرف
 تشخیص، اولاد، بچو الی۔
 الا حق، آل۔ بچ، جو بیڑا۔
 الا چہ دانگ۔ چہ، درنگ، دھار یاد رکھو۔
 الا راجون، الا راجون، دانگ۔ آڈ۔ بچون،
 ان۔ آڈ۔ بچون، چالیسواں۔ بچوئی
 الارح، الاق، دانگ، آلق، بچوئی
 کستی، ڈاک، کاکھوٹا۔
 الاقی، آل۔ بقی، القیہ کی جمع۔
 الالف دانگ۔ ان، ہزار دان۔
 الامان دانگ۔ امان، کلمہ خون، پناہ بخدا
 دانگ۔ مان، جرس۔
 الامانی دانگ۔ ان، بخی، جبرستی۔
 الامان دانگ۔ ان، اجہ، رسیوقتہ۔
 الباد دانگ۔ باد، لیب کی جمع۔
 الباب دانگ۔ باب، پتھر بنا دانگ، باب، لب کی جمع
 الباس دانگ۔ باس، کپڑے بنتا۔
 البان دانگ۔ بان، دودھ، ترنا، آل، بان، ابن کی جمع
 البنتہ دانگ۔ بنت، کیم، میک، لاریب
 البسر دانگ۔ بزر، نام، بہار۔

الہسہ دانگ۔ ہسہ، لباس کی جمع۔
 التباس دانگ۔ تباس، مشابہت، شبہ پڑنا
 پوشیدہ ہونا۔
 التسام دانگ۔ تسام، جو صفت، بوسہ لینا،
 سفہ یا نہن۔
 التما دانگ۔ تما، آرزو کرنا۔
 التماح دانگ۔ تماح، لڑنا، جنگ کرنا۔
 التما دانگ۔ تما، چھیلنا۔
 التما دانگ۔ تما، میل کرنا، مذہب سے بھڑکانا
 التماح دانگ۔ تماح، سر سے کپڑا اڑھنا۔
 التمام دانگ۔ تمام، زخم بھرنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، لڑنا، اٹھانا، نہر لیسنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، چھنا، چکنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، لازم بھڑکانا۔
 التماز دانگ۔ تماز، بھون، اٹھنے دانگ
 التماز، التماز، التماز، دانگ۔ تسان
 ان۔ تسان، دیکھو التماز۔
 التماز دانگ۔ تماز، توجہ، ہرمانی کرنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، اٹھنا ہونا، باہم ہونا۔
 التماز دانگ۔ تماز، اٹھنا کرنا، چھنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، لڑنا کرنا، ٹھکانا۔
 التماز دانگ۔ تماز، بھون کرنا، بھون بھنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، چکنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، آگ کی فوج۔
 التماز دانگ۔ تماز، پٹنا، ملٹوی کرنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، ہتاج، بھڑکانا۔
 التماز دانگ۔ تماز، جوہر۔
 التماز دانگ۔ تماز، چکنا، ملانا۔
 التماز دانگ۔ تماز، زخم بھرنا، باہم ملنا۔
 التماز دانگ۔ تماز، خوش، شگفتہ۔
 الشکائون دانگ۔ شکا، ٹوٹ، تیسواں

امثلا درآم - بتلار، مئلی، اجبائی، بھرا ہونا، پھلک جانا۔

امتلاخ - درآم - تلخ، بھرا ہونا، پھینا، اگھاڑا۔

امت مرحومہ - درآم - متوفی، متوفی، رحمت کی ہونی امت اسلام۔

امتناسخ - درآم - بتلخ، روک، باز ہونا، منسوخ کرنا۔

امتنان - درآم - بتنان، احسان رکھنا، نعمت دینا۔

امتممان - درآم - بتنان، ذلیل وغور رکھنا۔

امتسار - درآم - بتنان، اخ، فرق کرنا، تمیز کرنا۔

امتنار یا مہ - درآم - بتنار یا مہ، لائیش۔

امثال - درآم - بتال، ناک کان کا شمار آدم - ثانی، مثل کی بج۔

امثل - درآم - بتل، بزرگ، بزرگیدہ، آکا ہل۔

امثلہ - درآم - بتلہ، مثال کی جج۔

امجد - درآم - بتج، نہایت بزرگ، آکا چلہ۔

امجاش - درآم - بتاش، آگ جلانا۔

امجالی - درآم - بتالی، غلط سالی ہونا، غلط میں پڑنا۔

امجاش - درآم - بتاش، جھلا ہونا۔

امخاص - درآم - بتخاص، خاص دودھ پینا۔

املاو - درآم - بتلاو، مدد کرنا۔

امرد - درآم - بتامرد، حکم جو آکا امر، کام، بات، ہم امور۔

امرد اور امیر - امیر کی جج درآم بکا، کھانا ہضم ہونا۔

امرد اور - درآم - بتامرد، عورت جو برسن اور نشوونما ہونے۔

امرد - درآم - بتامرد، گزارنا، عمد مضبوط کرنا۔

امراض - درآم - بتامرض، بیمار کرنا، درآم - بتامرض، مرض کی جج۔

امراض - درآم - بتامرض، منع کی ال کرنا، اول فل بکا۔

امرد بالمرحوف - درآم - بتامرد، رحمت کی، روڈن، اچھے کاروں کا حکم۔

امرت - درآم - بتامرت، امیری۔

امرد - درآم - بتامرد، جوان لڑکی کے ظلم یا ہرج مہرد، آمار کرنا۔

امرط - درآم - بتامرط، کھوسا، بچی داڑھی والا۔

امروت - درآم - بتامروت، سفری، امرود۔

امروز - درآم - بتامروز، آج۔

امرضہ - درآم - بتامرضہ، مزاج کی جج۔

امس - درآم - بتامس، کل گذشتہ، گذشتہ دن۔

اساو - درآم - بتاساو، رات کا وقت کر دینا۔

اساس - درآم - بتاساس، جھونا، سنا۔

اساک - درآم - بتاساک، کچھسی، رکاوٹ، قبض۔

امشب - درآم - بتامشب، آج کی رات۔

امصار - درآم - بتامصار، مصر کی جج۔

امضا - درآم - بتامضا، سرکاری ہیرا دستخط، نشان، حکم جاری کرنا۔

اسطر - درآم - بتاسطر، مینہ برسا، درآم - بتاسطر، سفر کی جج۔

امعا - درآم - بتامعا، معا کی جج۔

امصار - درآم - بتامصار، درویش ہونا۔

امعان - درآم - بتامعان، بکری نگر، داننا، گہرا موٹا۔

امعظ - درآم - بتامعظ، کھوسا بچی، حلاصی والا۔

امغیلان - درآم - بتامغیلان، بول، بیکر۔

امسکان - درآم - بتامسکان، ہو سکان۔

امکنہ - درآم - بتامکنہ، مکان کی جج۔

امل - درآم - بتامل، اسید، آس، ہم آسانی۔

املا - درآم - بتاملا، رسم، غلطی، کھفت، یاد سے کھلا، چکرنا، کھوٹا، درآم - بتاملا، ملاکی جج۔

املاح - درآم - بتاملاح، گلین کرنا، درآم - بتاملاح، گلین کرنا۔

املاص - درآم - بتاملاص، لاف، پٹ کرنا۔

املاق - درآم - بتاملاق، کدھی، فقیر ہوا۔

املاک - درآم - بتاملاک، مالک کرنا، درآم - بتاملاک، ملک کی جج۔

اطلا درآم (لال) رنجیدہ کرنا۔
 ابلج (آم) بچ (آمد)۔
 اطلس (آم)۔ کتن (سادہ) مہوار رھاں،
 نرم بچنا۔
 امم (آم)۔ امت کی جمع۔
 امن (آم)۔ چین جان ہم آکان
 امنا (آم)۔ امین کی جمع۔
 امنیت (آم)۔ بی بیعت، آرزو، امید، آمدنی
 (آم)۔ بی بیعت، چین جان ہم آکان
 امنیہ (آم)۔ بی بیعت، دیکھو امنیت۔
 اموات (آم)۔ ذات، موت، میت کی جمع۔
 امواج (آم)۔ موج، موج کی جمع۔
 اموال (آم)۔ مال کی جمع۔
 امواہ (آم)۔ واہ، ماہ کی جمع۔
 امور (آم)۔ امر کی جمع۔
 امومیت (آم)۔ بی بیعت، امنا۔
 اموی (آم)۔ بی بیعت، امنا کی طرف منسوب
 امبات (آم)۔ امنا کی جمع۔
 انبال (آم)۔ بال، نرمی، آہستگی، ہلکت دینا۔
 انہق (آم)۔ حق، لے حد سفید۔
 انہی (آم)۔ بی بیعت، بلا بڑھا لکھا، میری ماں۔
 امیال (آم)۔ مال، سیل کی جمع۔
 امید (آم)۔ امید، آہستہ، آس، آرزو۔
 امیدوار (آم)۔ وارث، آرزو مند۔
 امیدوارانہ (آم)۔ وارث، آرزو مند۔
 امیدواری (آم)۔ وارث، آرزو مند۔
 امیدوار، سردار، حاکم، بادشاہ، چم آواز۔
 امیر البحر (آم)۔ بحر، چم آواز، بحر بیڑے کا
 (آم)۔
 امیر لشکر (آم)۔ بحر، چم آواز، بحر بیڑے کا
 امیر (آم)۔ بحر، چم آواز، بحر بیڑے کا

امین (آم)۔ امانت، ارجح، امن، امن
 ان (آم)۔ اگر جو لان (آم)۔ تحقیق، ہونا۔
 اناء (آم)۔ ظرف، لمبائی کا برتن، ہم آرزو، ہم چم
 اواری (آم)۔ امانت، وقت (آم)۔
 انابت (آم)۔ بہن، امانت، پھرنا، برے کاموں
 سے پھرنا۔
 انابیب (آم)۔ انابیب، انبوہ کی جمع، اوٹروکس
 بانی کے نکلے۔
 انات (آم)۔ در، آہستگی۔
 اناث (آم)۔ انانسی کی جمع۔
 انابج (آم)۔ انابج، نسد۔
 انابیل (آم)۔ انابیل، انابیل کی جمع۔
 انارت (آم)۔ انارت، روشن کرنا۔
 اناس (آم)۔ اناس، امانت سے لوگ (آم)۔
 اناسی (آم)۔ اناسی، اناسی کی جمع۔
 انابجر (آم)۔ انابجر، انابجر کی جمع۔
 انالبرقی (آم)۔ انابجر، انابجر کی جمع۔
 انالخبی (آم)۔ انابجر، انابجر کی جمع۔
 انام (آم)۔ انام، انام کی جمع۔
 انامل (آم)۔ انامل، انامل کی جمع۔
 انان (آم)۔ انان، انان کی جمع۔
 انانیت (آم)۔ انانیت، خود ستائی، خود بینی، خودی۔
 انب (آم)۔ انب، انب کی جمع۔
 انبار (آم)۔ انبار، انبار کی جمع۔
 انبار (آم)۔ انبار، انبار کی جمع۔
 انباروں (آم)۔ انبار، انبار کی جمع۔
 انباروی (آم)۔ انبار، انبار کی جمع۔
 انبار (آم)۔ انبار، انبار کی جمع۔
 انبارش (آم)۔ انبار، انبار کی جمع۔

انتقاض در آن - انتقاض، پہاں توڑنا۔
 انتقاع در آن - انتقاع، اذرا ایک مکھ پھیر لینا۔
 انتقال در آن - انتقال، موت، مقام تبدیل کرنا۔
 انتقار فتنی در آن - انتقار، ڈوہ (دینی) ایک بات سے دوسری کو ذہن جانا۔
 انتقام در آن - انتقام، برائیدلہ، کینہ نکالنا۔
 انتقاما در آن - انتقام، انتقام کے طور پر۔
 انتکاش در آن - انتکاش، عجب توڑنا۔
 انتکاس در آن - انتکاس، ارنڈھا ہونا۔
 انتکاف در آن - انتکاف، لانج رکھنا۔
 انتقم در آن - انتقم، تم بہت سے مرد۔
 انتقاد در آن - انتقاد، بھونا، بھوننا، اُن (مخاک) تم ڈر۔
 انتقن در آن - انتقن، تم بہت سی عورتیں۔
 انتہا در آن - انتہا، اخیر حد، چھوڑ، سسر، سر سے نیک۔
 انتہاب در آن - انتہاب، اٹھ جانا۔
 انتہاپسند در آن - انتہا، پسند، کسی چیز کی انتہا پسند کرنے والا۔
 انتہاپسندی در آن - انتہا، پسند، دینی انتہا پسند کرنا۔
 انتہار در آن - انتہار، ہانپنا۔
 انتہار در آن - انتہار، فرصت پانا، قابو پانا، وقت تاکنا۔
 انتہاض در آن - انتہاض، کوچ کرنا، اٹھنا۔
 انتیاع در آن - انتیاع، صل ہونا، دریا ہونا۔
 فتنی در آن - فتنی، عورت، مادہ، جہرا نکاش، آشت، امانتی۔
 انقیال در آن - انقیال، ٹوٹ پڑنا۔
 انجاد در آن - انجاد، دروٹنا، بھاگنا، چھڑانا۔
 انجاح در آن - انجاح، حاجت ردا ہونا یا کرنا۔
 انجاردون - انجاردون، دعا کرنا، حاجت ردا کرنا۔

انجاس در آن - انجاس، گند کرنا (اُن - جاس) نجس کی منج۔
 انجام در آن - انجام، آخر، انتہا۔ ۲۔ نجم کی منج۔
 انجامندہ در آن - انجام، من۔ ڈوہ، آخر ہونے والا۔
 انجامیدن در آن - انجام، من۔ دن، آخر ہونا، تمام ہونا۔ منج انجما کر۔
 انجامیدہ در آن - انجام، منی۔ ڈوہ، تمام شدہ، آخردہ۔
 انجبب در آن - انجبب، بڑا شریف، مانندی بیجہ۔
 انجفیدن در آن - انجفی، کن، دکھو، بوجھیدن۔
 انجدان در آن - انجدان، کاپیگ کا پیڑ۔
 انجداب در آن - انجداب، جذب ہونا، کشید ہونا تیز چلنا۔
 انجدر در آن - انجدر، نگرا، انجر۔
 انجنس در آن - انجنس، بنایت، نایاب۔
 انجفیدن در آن - انجفی، دن، دکھو، بوجھیدن۔
 انجل در آن - انجل، نرا، چشم۔
 انجلاد در آن - انجلاد، روشن ہونا، دلن سے جانا۔
 انجلاب در آن - انجلاب، جلب ہونا، کشیدہ ہونا۔
 انجم در آن - انجم، نجم کی منج۔
 انجما کو در آن - انجماد، جانا، بستہ ہونا۔
 انجسون در آن - انجسون، انجس، منجفل۔
 انجوخیدن، انجوخیدن در آن - جو، منجی۔
 دن، ان۔ جو، منجی۔ دن، بھری پڑنا، سرور پڑنا۔
 انجیدن در آن - انجی۔ دن، چرنگ کرنا۔
 ریزہ ریزہ کرنا۔
 انجیدہ در آن - انجی۔ ڈوہ، زخمی، چورنگ۔
 انجیل در آن - انجیل، خردہ، خوش خبری، عیسا یوحنا کی آسانی کتاب جم انا انجیل۔
 انجدان - انجدان، جاری کرنا، پھرانا، دن، انجدان۔
 انجھتات در آن - انجھتات، پت جھڑ۔

اوجاغ (اُذ-جاغ) دج کی حج۔
 اوجاغ (اُذ-جاغ) چولھا، دیکھان۔
 اوجاگ (اُذ-جاگ) دجل کی حج۔
 اوجب (اُذ-جیب) دایب تڑ۔
 اوجس (اُذ-جس) تھوڑی سی چیز (اُذ-جس)۔
 روزگار، ہیشہ، ہرگز۔
 اوجاغ، اوجاق (اُذ-جاغ، اُذ-جاق) دیکھو اوجاغ۔
 اوجاد (اُذ-جہ) پگانہ۔
 او داد (اُذ-داد) دروید کی حج۔
 اوداج (اُذ-واج) دواج کی حج۔
 اوور (اُذ-ور) چھا۔
 اوورون (اُذ-ورون) دینا سے کوچ کرنا۔
 اوو (اُذ-وو) دروید کی حج۔
 اوراشتن (اُذ-وراشتن) چن، اٹھانا، بلند کرنا۔
 اوراق (اُذ-وراق) درق کی حج۔
 اورام (اُذ-ورام) درم کی حج۔
 اورده (اُذ-ورده) درید کی حج۔
 اورویدن (اُذ-ورویدن) دن، ملکرنا، جنگ کرنا۔
 اورک (اُذ-ورک) جھولا۔
 اورمزور (اُذ-ورمزور) ستارہ مشتری۔
 اورند (اُذ-ورند) شاہی تخت، فریب، دنا، زینائی، قسمت، سیاہی۔
 اورویدن (اُذ-ورویدن) دن، جھانسا دینا، جھلکنا۔
 اورناب (اُذ-ورناب) شاہی تخت، عقلمندی، ذہنی، فریب، دیکھ۔
 اوروختن (اُذ-وروختن) دیکھو اوزقن۔
 اورہ (اُذ-ورہ) دیکھو برہ یعنی خداستر۔
 اورڈ (اُذ-ورڈ) اورتے راج ہنس۔
 اورار (اُذ-ورار) دروید کی حج۔

اوزان (اُذ-وزان) وزن کی حج۔
 اوزم (اُذ-وزم) انگور۔
 اوزون (اُذ-وزون) دیکھو افسون۔
 اوژندین، اوژندین (اُذ-وزن، اُذ-وزنی)۔
 دن، اُذ-وزن، دن، دان۔
 اوژرون (اُذ-وزرون) دیکھو اوزرون۔
 اوژولیدن (اُذ-وزولیدن) دیکھو اوزولیدن۔
 اوس (اُذ-وس) عوف، عطا، بھیڑنا۔
 اوساخ (اُذ-وساخ) دسج کی حج۔
 اوسان (اُذ-وسان) دیکھو افسان۔
 اوستام (اُذ-وستام) تامل، پیر، مستند۔
 اوسط (اُذ-وسط) میانہ، اواسط۔
 اوسح (اُذ-وسح) نہایت فراخ۔
 اوسون (اُذ-وسون) دیکھو افسون۔
 اوشانی (اُذ-وشانی) بچہ، امرد۔
 اوشال (اُذ-وشال) دہ لوگ۔
 اوش (اُذ-وش) دم سورا۔
 اوشنگ (اُذ-وشنگ) انگلی، سلاق۔
 اوصاف (اُذ-وصاف) وصف کی حج۔
 اوصیا (اُذ-وصیا) دمی کی حج۔
 اوضاع (اُذ-وضاع) دسج کی حج۔
 اوضح (اُذ-وضح) نہایت واضح۔
 اوضہ (اُذ-وضہ) کمرہ۔
 اوطار (اُذ-وطار) دطر کی حج۔
 اوطان (اُذ-وظان) دطن کی حج۔
 اوچبہ (اُذ-وچبہ) دغا کی حج۔
 اوغل (اُذ-وغل) لڑکا، محبوب۔
 اوفنادنی (اُذ-وفنادنی) دگنی، دیکھو افنادنی۔
 اوفنادین (اُذ-وفنادین) دن، گنا، پڑنا، اتفاق۔
 اوفنادنی (اُذ-وفنادنی) دگنی، گنا، پڑنے کے لائق۔

اوقات دارؤں میں۔ تادمہ گر گیا ہوا۔
اوقات دارؤں میں، وقت کی صحت۔
اوقات دارؤں میں، وقت کی صحت۔
ایوقہ دارؤں میں، بہرہ۔
اوقہ دارؤں میں، کوئی گردن۔
اوقہ دارؤں میں، جہالتی درم وزن ہوا اورانی۔
اوقہ نوس دارؤں میں، نوس، بحر اطلانتک۔
اوقہ دارؤں میں، کنوس، احمی، تلوار۔
اول دارؤں میں، پہلا جنم اور اول۔
اول دارؤں میں، سب سے پہلے۔
اولاد دارؤں میں، دیکھو اولی (دارؤں میں) دیکھو اولی۔
اولاد دارؤں میں، اولاد کی صحت۔
اولاد دارؤں میں، اولاد کا گدھا۔
اولکہ دارؤں میں، کوئی دیکھو اولکہ۔
اولنگ دارؤں میں، سبزہ رار۔
اولو دارؤں میں، دیکھو اولی۔
اولوالالباب دارؤں میں، صاحب عقل۔
اولوالامر دارؤں میں، صاحب حکم، بادشاہ۔
اولوالعزم دارؤں میں، صاحب ہمت۔
اولوالعزمی دارؤں میں، بلند ہمتی، ارادے کی مضبوطی۔
اولنگ دارؤں میں، وہ سب۔
اولی دارؤں میں، ذوقی شیخ دارؤں میں، بہتر چہ دارؤں میں۔
اولی دارؤں میں، پہلی مرتبہ چیز چہ اولی۔
اولی تر دارؤں میں، تڑپ بہت بہتر۔
اولی ترین دارؤں میں، ترین، بہت زیادہ بہتر۔
اولیاد دارؤں میں، اولی کی صحت۔
اولی اجنبہ دارؤں میں، اجنبہ، بیرون دلس۔
بھارتی نشتہ۔
اولیانہ دولت دارؤں میں، دولت، امیر لوگ،
صاحبان دولت۔
اولیت دارؤں میں، اول بن، بہتری، فوقیت۔

اولین دارؤں میں، سب سے اول۔
اوہ دارؤں میں، ہائے، بگھی بگھی۔
اوپام دارؤں میں، وہم کی صحت۔
اوپاب دارؤں میں، پکا چٹا، نری چہ، اہمیت، آہستہ۔
اوپای دارؤں میں، اولی کی صحت۔
اوپانت دارؤں میں، نوس، کوہن، اذیل کرنا۔
اوپست دارؤں میں، بہت گھوڑے کا ساز۔
اوپتہ ادارہ۔ بنکار، راہ راست پانا۔
اوپتر از دارؤں میں، تیز تر، جھوٹا، ہٹا۔
اوپنظام دارؤں میں، نظام، ستم کرنا، کسی کا حق کھانا۔
اوپتکاک دارؤں میں، تھکان، تھک کرنا۔
اوپتظام دارؤں میں، ستم، کوشش کرنا، توجہ کرنا۔
اوپتیا دارؤں میں، تھیالی، ڈرنا۔
اوپتہ دارؤں میں، بجار، فحش بلنا۔
اوپتہ دارؤں میں، ڈار، تحفہ یا سوغات بھیجنا۔
اوپتہ دارؤں میں، ڈار، خون سباج کرنا۔
اوپتہ دارؤں میں، وہم، وہم کی صحت۔
اوپتہ دارؤں میں، وہم کی بیکس لہی سول۔
اوپتہ دارؤں میں، ڈار، بہت کہنا۔
اوپتہ دارؤں میں، ڈار، بہت ہٹنا۔
اوپتہ دارؤں میں، تادمہ بہت بڑھا ہونا دارؤں میں۔
اوپتہ دارؤں میں۔
اوپتہ دارؤں میں، ترم، اشعنان، سانپ کا پھن۔
اوپتہ دارؤں میں، ترم، ترم، پستو بخاری کا خا۔
اوپتہ دارؤں میں، حکم، جکی کر تلی ہو۔
اوپتہ دارؤں میں، تاک، سزاوار، لایین، سنگوہ۔
اوپتہ دارؤں میں، جاندار، تاج کی، آکا پال۔
اوپتہ دارؤں میں، سزا دار۔
اوپتہ دارؤں میں، کاس، بست ہونا۔
اوپتہ دارؤں میں، تاک، ہلاک ہونا۔
اوپتہ دارؤں میں، تاک، نیا چاند دیکھنا۔

اہل اللہ (آۃ) حق - لآۃ اللہ دے۔
 اہلکار (آۃ) دل - کار (آۃ) فرد و حکومت۔
 اہل مجار (آۃ) دل - مجار (آۃ) ملک بھری دے۔
 اہلہ (آۃ) لکھ، ہلال کی طرح۔
 اہلی (آۃ) دل، یا لکھ جاور، گھڑو جاور۔
 اہلیت (آۃ) دل، نیش، لیاقت، استعداد۔
 ایلچ (آۃ) سوو (آۃ) بری - گج - آس - ڈو (آۃ) زنگی ہڑ
 ہلیسیاہ۔
 اہلیہ (آۃ) ریشہ، گھر دالی، بیوی۔
 اہم (آۃ) بہت ضرورہ بہت شکل۔
 اہمال (آۃ) سالی، چوک، چوک، چھوڑ دینا۔
 اہمام (آۃ) نام، عقین کرنا، بے آرام کرنا۔
 اہوا (آۃ) ذہن، تعد کرنا، اشارہ کرنا (آۃ) ذہن
 ہوا کی طرح۔
 اہوال (آۃ) ذہن، ہول کی طرح۔
 اہوج (آۃ) ذہن، اہمت، نادان۔
 اہون (آۃ) ذہن، بنا سیت آسان، دوشنبہ، سووا
 اہویہ (آۃ) رویت، ہوا کی طرح۔
 اہمہ (آۃ) نام، امام کی طرح۔
 اہی (آۃ) حرف ندا، کلمہ، غلطی، یعنی۔
 ایا (آۃ) حرف ندا، حرف شک، کلمہ (آۃ) سوس،
 کلمہ استفہام۔
 ایاب (آۃ) بازگشت، واپسی
 ایادی (آۃ) دی، عید کی طرح۔
 ایار (آۃ) دینا، دیکھ، مسہل کی ایک مہجون جہ ایار ج
 جہ ایار جہات۔
 ایاس (آۃ) دیکھ، نامہ ہونا۔
 ایاع، ایاق (آۃ) آیت، پیلہ۔
 ایال (آۃ) جانور کی گردن کے بے بال گردن
 ایالت (آۃ) سلطنت، ولایت، سرداری، بھائی رکھنا۔
 ایام (آۃ) نام، یوم کی طرح۔

ایامی (آۃ) نام، ایم کی طرح۔
 ایان (آۃ) ایمان، ہنگام، وقت، ہر چیز کا اول۔
 ایبا (آۃ) ایمان، اشارہ، ایما۔
 ایباس (آۃ) نام، شکرانا۔
 ایپس (آۃ) نام، شکر، کھنکھ، خشکی۔
 ایپک (آۃ) نام، تاحہ، مستحق۔
 ایپت (آۃ) نام، آگ، گوشت۔
 ایپتالہ (آۃ) نام، نماز، تر پڑھنا۔
 ایپتار (آۃ) نام، پھیل کا پتلا۔
 ایپتام (آۃ) نام، شکر کی طرح۔
 ایپتان (آۃ) نام، آنا۔
 ایپتلاف (آۃ) نام، سیل جول، منا پلنا۔
 ایپتلاق (آۃ) نام، چھن، روشن ہونا۔
 ایپتان (آۃ) نام، امین بنانا۔
 ایپتلاف (آۃ) نام، از سر نو کرنا۔
 ایپتار (آۃ) نام، بزرگی، بزرگیدہ ہونا، اپنے
 سے دوسرے کا نانکہ مقدم جاننا۔
 ایپتاق (آۃ) نام، بولنا، مضبوط کرنا۔
 ایپجاب (آۃ) نام، لازم کرنا، مقرر
 کرنا، واجب کرنا۔
 ایپجا (آۃ) نام، وجود میں لانا، پیدا کرنا۔
 ایپجاو بندہ (آۃ) نام، جلاؤ - بن - ڈو (آۃ) ہن گھڑنا
 خود ایجاد۔
 ایپجار (آۃ) نام، گراہ سپرد بنا۔
 ایپجاؤ (آۃ) نام، مضمون چھوڑ کرنا۔
 ایپجاس (آۃ) نام، دل میں لانا۔
 ایپجال (آۃ) نام، ڈرانا۔
 ایپج (آۃ) نام، دیکھ بیج۔
 ایپکاش (آۃ) نام، خواب ہونا۔
 ایپراع (آۃ) نام، امانت رکھنا یا رکھنا۔
 ایپرا (آۃ) نام، اس جگہ، اب نادھر۔

ایدون (ای۔ دُون) اس وقت، اس طرح، اس جگہ (ای۔ دُون) اب۔

ایڈار (ای۔ ڈا) تکلیف، دکھ دینا۔ ایڈان (ای۔ ڈان) آگاہ کرنا۔

ایڈرا (ای۔ ڈرا) ہر دو کا عضو متاسل (ای۔ ڈرا) پتی کی بیماری۔ ایڈراٹ (ای۔ ڈراٹ) ترکہ ہو چکا، باقی چیز دینا۔

ایڈراو (ای۔ ڈراو) آمدنی، وارد کرنا، لانا۔ ایڈراس (ای۔ ڈراس) کراچی، پیر کے تھے بے پڑھیا۔

ایڈرائی (ای۔ ڈرائی) کو تیکس پھٹانا، چربانا۔ ایڈران (ای۔ ڈران) کان، ملک فارس، پرشیا۔

ایڈرائی (ای۔ ڈرائی) - زارتی، ایران سے منسوب، ایران کا باشندہ۔

ایڈرسا (ای۔ ڈرسا) دھنک، افس ترح، سوس کی جڑ۔ ایڈرمان (ای۔ ڈرمان) کسی کا طفیل، حسرت، نامت، عاریت۔

ایڈراو (ای۔ ڈراو) زیادہ کرنا۔ ایڈراوی (ای۔ ڈراوی) زیادہ کرنا، زیادہ سے منسوب۔

ایڈرو (ای۔ ڈرو) نام اللہ تعالیٰ۔ ایڈرومی (ای۔ ڈرومی) ایڑوں سے منسوب۔

ایڈس (ای۔ ڈس) نا امیدی۔ ایڈسار (ای۔ ڈسار) سار، امیر ہونا۔

ایڈتاوگی (ای۔ ڈتاوگی) دیکھو استادگی۔ ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔

ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔ ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔

ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔ ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔

ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔ ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔

ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔ ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔

ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔ ایڈتاوون (ای۔ ڈتاوون) دیکھو استادان۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔ ایصا (ای۔ صا) نصیحت کرنا، نصیحت کرنا۔

باد بیانی (باد بانی - ناکارہی) ہوا خوری ،
 سیاتی ، ہوا بندی ، جنگل کی ہوا کھانا ۔
 باد بیہودہ (باد بانی - نوحہ - دن) بے فائدہ کام کرا ۔
 باد خانیہ (باد - خا - بیہ) مرض فتن
 باد خوال (باد - خوال) لان زن ، خوشامدی ۔
 باد و بولور (باد - بولور) جنوبی و مغربی ہوا
 بچھوا ہوا ۔
 باد و دست (باد - دست) نفول فرخ ، کنکال ۔
 باد و دستی (باد - دست) نفول فرخی ،
 سفلی ، چترائی ۔
 باد و رہا - در ، درتے والا ، جلاک ۔
 باد و رنجوبہ (باد - رنج - رنجوبہ) پلی لوین ، نامور
 باد و رنگ (باد - رنگ) کھوسدی کی ایک قسم ۔
 باد و رہبہ (باد - رہی - سہ) دمرک ، فلک ۔
 باد و رہین (باد - رہین) خرد ، گھنڈ ۔
 باد و زن (باد - زن) پنکھا ۔
 باد و زفاہم (باد و زفاہم) باد - وز - فام ، باد - زن
 فام) دیکھو باد شکام ، باد شھام ، باد شھام ۔
 باد و سار (باد - سار) بے وفار ، بے کلین ۔
 باد و سہ (باد - سہ) سفر ، صاحب تخت ۔
 باد و سرخ (باد - سرخ) سرخ بادہ ۔
 باد و سنج (باد - سنج) لاپٹی ، فضول کام کرنے والا ۔
 باد و سوار (باد - سوار) جھت کا بیگھا ۔
 باد و شہا (باد - شہا) شہا ، بادشاہ کوئی لاج ۔
 باد و شھام (باد و شھام) باد شھام ، باد شھام ،
 باد و شوام (باد - شوام) فام ، باد - شوام ، کام ،
 باد - شوام ، فام ، باد - شوام ، فام ، بدن کی سیاہی
 ناکل سرخی جو کورہ کا مقدمہ ہے ۔
 باد و شطر (باد - شطر) موافق ہوا ، باد مراد ۔
 باد و صبار (باد - صبار) صبار ، باد مراد ۔
 باد و عیسیٰ (باد - عیسیٰ) عیسیٰ ، باد عیسیٰ ۔

باد جگر (باد جگر) حصول لینے والا ۔
 باد جی (باد - جی) آبا ، ہن - ۲ - باد جگر ۔
 باد حٹ (باد - حٹ) بٹھ کرنے والا ، کھودینے والا ۔
 باد حور (باد - حور) گرمیوں کے شباب کا ہفتہ ۔
 باد خیر (باد - خیر) خیر دار ، جانکار ۔
 باد خیری (باد - خیر) خیر دار سی ۔
 باد خیر (باد - خیر) خیر ، پور ، سورج ، علاقہ خراسان ۔
 باد خشن (باد - خشن) کھیلنا ، پارٹیاں ، بارش ، باد و ۔
 باد خشتی (باد - خشتی) کھیلنے کے قابل ۔
 باد خشم (باد - خشم) ہار ہوا ، کھیلا ہوا ۔
 باد خیر (باد - خیر) اسپر ، خانی جنازہ ۔
 باد باطل (باد - باطل) کجوس ، جہ ، جمل ۔
 باد باخ (باد - باخ) بچھوا ۔
 باد و راہ (باد - راہ) راہ ، دیکھو باد راہ ۔
 باد و ام (باد - ام) دام ، پوہ مشہور ، شبیہ ، نگہ ، حلقہ ۔
 باد و امی (باد - امی) شوبہ ، باد ام ۔
 باد و بان (باد - بان) جہاز کی پال ۔
 باد و بانی (باد - بانی) بادبان سے نسبت رکھو والا ۔
 باد و بروٹ (باد - بروٹ) منسو در آدمی
 (باد - بروٹ) مراد گھنڈ ۔
 باد و بریں (باد - بریں) شمائی ، مشرقی ہوا ،
 پردا ہوا ۔
 باد و بزم (باد - بزم) بے زن ، بیکھا ، نرشی پنکھا ۔
 باد و پاز (باد - پاز) تیز رفتار ، تیز چھوڑا ۔
 باد و پانی (باد - پانی) تیز رفتار سی ۔
 باد و پیر (باد - پیر) کراں ، ہوا باندھنے والا ۔
 باد و پروا (باد - پروا) ہوا دار کھڑکی یا کولھا ۔
 باد و پیچ (باد - پیچ) جھولا ، جھول ۔
 باد و پیچا (باد - پیچا) تیز رفتار ، سیاہ ،
 ہوا بندہ فضول کوئی ، جنگل کی ہوا کھانے والا ۔

بادعتر کا دے غصہ فرشی پھیکا۔
 بادعتر دباؤ۔ شتر، پھری، پھری کنی۔
 بادقراہ دباؤ۔ وقت۔ کراہ، گناہ کی منزاہدی کا بدلہ۔
 بادقربک دباؤ۔ روزگرمج، ایک سخت مرض، تشک۔
 بادفروشی دباؤ۔ فزولوش، خوشامدی، بھاٹ۔
 بادفروشی دباؤ۔ فزولوش، خوشامد، بھٹی۔
 بادکش دباؤ۔ کش، پیکھا، دھونکنی، سینگلی۔
 بادکوبہ دباؤ۔ کوبہ۔ سید، دیکھو یا کو۔
 بادگرد (دباؤ) گزود۔ بولا۔
 بادگیر دباؤ۔ گیر، جواد ادرکھو کی۔
 بادگیسو (دباؤ)۔ گیسو، زمانہ گزود۔
 بادچیچ دباؤ۔ چیچ، قوپ، مدہ۔
 بادحکائف (دباؤ)۔ حکائف، مخالف ہوا۔
 بادعراو دباؤ۔ عراو، موافق ہوا، بادشتر۔
 بادسرخ (دباؤ)۔ سرخ، حضرت عیسیٰ کا سانس جس سے مرے زندہ ہو جاتے تھے۔
 بادشتر (دباؤ)۔ شتر، برق، پیدا ہوا۔
 بادہبرہ (دباؤ)۔ برہ، زہرہبرہ، سانپ کا سن۔
 بادنجان (دباؤ)۔ دن، جان، بیگن۔
 بادہ دباؤ۔ دہ، شراب، مدہ۔
 بادہ پنکا دباؤ۔ پنکا، شراب بخوار۔
 بادہ پنی (دباؤ)۔ پنی، نامی، شراب بخاری۔
 بادہ کش دباؤ۔ کش، شراب بخار، شتابی۔
 بادہ کشی دباؤ۔ کشی، شراب بخاری۔
 بادھی دباؤ۔ دھی، شراب طرفہ با، ہوا، شتر۔
 بادھی دباؤ۔ طاهر، حد اٹ۔
 بادھی دباؤ۔ حیرت، نظر، نگاہ، ظاہر، پہلی نگر۔
 بادیان (دباؤ)۔ یان، سونف۔
 بادبیچ دباؤ۔ بیچ، پکان، انگور کی بی۔
 بادیدہ (دباؤ)۔ دیدہ، جنگل، صحرا، جم بوادھی۔
 بادیاہل۔

بادویہ پھا دباؤ۔ دیدہ۔ پنی۔ نام، جنگل میں پھرنے والا۔
 بادویہ پھاکی دباؤ۔ دیدہ۔ پنی۔ نام، جنگل میں پھرنے والا۔
 بادویہ نشین (دباؤ)۔ دیدہ۔ نشین، جنگل، جنگل میں
 نشینے والا۔
 بادویہ نشی دباؤ۔ دیدہ، نشی، جنگل میں رہنا۔
 باؤل دباؤ۔ بؤل، نشی، بخنی، والا، جم بؤل۔
 بار دباؤ۔ فلا کا نام، باری، دیر، بوجہ، دقت،
 بزرگی، گرائی، انبار، حضور کی، نصیب، رخصت
 وطن، جڑ، پھل، عمل، عورتوں کا، آئینہ، طولی،
 کلہز، کثرت، برتنے والا، برسانے والا (دباؤ) یا تریکو
 کارجم بکرہ، ابرار۔
 بارالہا دباؤ۔ بارا، کھا، خدائے بزرگ۔
 باران دباؤ۔ رانی، منیغہ، برسات، برستا ہوا،
 برساتا ہوا، برسنے والا۔
 باران بار دباؤ۔ ران، بارش کا ننگ۔
 بارانگل دباؤ۔ ران، آدن۔ دارم پشہ، فرخش
 ہونے والا۔
 باران گریز دباؤ۔ گریز، چھو، سائبان۔
 بارانی دباؤ۔ رانی، بارشی، برساتی، منیغہ
 محفوظ رکھنے والا لباس۔
 بار بار دباؤ۔ بار، نکا، متواتر۔
 بار بروار (دباؤ)۔ بروار، بوجھ اٹھانے والا۔
 بار بروار دباؤ۔ بروار، بروار، بوجھ اٹھانا،
 لادنے کا سرد سامان۔
 بار بگ (دباؤ)۔ بگ، مقرب، شاہی، عرض، بیگ۔
 بار جہ دباؤ۔ جہ، جنگل، جنگل، جہ بوکار، جہ۔
 بار جہ دباؤ۔ جہ، گذری ہوئی رات۔
 بار خاطر (دباؤ)۔ خاطر، طبیعت کا بوجھ۔
 بار خاندہ (دباؤ)۔ خاندہ، گودام، کر کسی خانہ۔
 بار خدا (دباؤ)۔ خدا، خدائے بزرگ، اللہ پاک۔
 بارو (دباؤ)۔ رو، ٹھنڈا، بے مزہ، م بوارد۔

باروان (بازار) دکان، برتن، خرچی، ظرف -
 بارزد (بازار) رزم، آشکارا، ظاہر -
 بارش (بازار) رش، عینہ، برسات -
 باروار (بازار) کار، حاملہ، لدا بھندا، بھلدار -
 بارعام (بازار) عام، دربار عام -
 بارفروش (بازار) کھڑواش، تھوک فروش -
 بارفروشی (بازار) کھڑواش، تھوک فروشی -
 بارق (بازار) برق، چمکے والا، روشن -
 بارقہ (بازار) بجلی، بجلی، توار، جو کو آرقی -
 بارک (بازار) رک، دیکھو بارک -
 بارکش (بازار) کش، بوجھ لینے والا، لٹو -
 بارکشی (بازار) کشی، بوجھ لینا -
 بارگاہ (بازار) گاہ، بازار، گاہ، بازار، گاہ، شاہی
 گل، محل، کھری -
 بارگی (بازار) گئی، گھوڑا -
 بارگہر (بازار) گہر، گھوڑے پر سواری کا نوکر -
 بارگہری (بازار) گہری، گھوڑے پر سواری
 کی نوکری -
 بارندہ (بازار) بار، دھڑ، برسنے والا، برساتی والا -
 بارو (بازار) رزم، قلعہ کی دیوار -
 باروت (بازار) رزم، بار، رزم، ایک تھی سونف، رزم
 بارو، رزم، رزم، بھولوں سے لدا بھندا -
 بارہ (بازار) رزم، ایک بار، سمنوں، بابت، حق،
 شان، قاعدہ، دست - ۲ - دیکھو بارو -
 (بازار) رزم، تھان
 بار (بازار) (بازار) اکثر، بہت سی بار -
 بارگی (بازار) (بازار) پیدا کرنے والا، خدا -
 ۲ - لذت، ایک لفظ -
 بارے (بازار) (بازار) ایک دفعہ، ایک بار -
 بار باب (بازار) (بازار) حضور ہی پانے والا -
 باریابی (بازار) (بازار) پیشی، حضور ہی پاتا -

باری تعالیٰ (بازار) باری، خدا، خدائے برتر -
 بار بچہ (بازار) بچہ، بچہ، بچہ -
 باریدن (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا
 بیخ بارو -
 باریدی (بازار) بار، بارش، بارش، بارش کے لائق -
 باریدہ (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 بارینڈ (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 باریک (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 باریک ہیں (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 سمجھنے والا -
 باریک پٹی (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 سوجنا، سمجھنا -
 باریک رو (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 باریک رومی (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 باریکہ (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 باریکی (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 بار (بازار) بار، بارش، بارش، برسنا، برسنا، برسنا
 رہیزان، خیرات، دمہزنا، خوار، پھر کھینچ
 والا، بارنے والا، کشادہ، جدا، گذر جا
 باج، خراج، شراب -
 باز پرس (بازار) باز پرس، تحقیقات، پوچھ گچھ
 بازخواست (بازار) بازخواست، طلب، تلاش
 مواخذہ، پھر، مانگنا -
 باز خواہ (بازار) بازخواست، پھر طلب کرنے والا -
 باز خواہی (بازار) بازخواست، پھر طلب کرنا -
 بازار (بازار) بازار، کاروبار، تجارت کی جگہ، جگہ
 میل، رونق، رواج، معاملہ -
 بازار عام (بازار) بازار، عمومی، بازار، عام
 بازار (بازار) بازار، عمومی، میل، پینٹھ -
 بازار گان (بازار) بازار، گان، سوداگر، بازار
 بازار گانی (بازار) بازار، گانی، سوداگر، بازار

بازاری (با - زاری) عایانہ و منسوب بہ بازار۔
 بازویدر دکا زونویر، جوانی ملاقات۔
 بازارگان (با - زار - گان) دکیبو بازارگان۔
 بازارگانی (با - زار - گانی) دکیبو بازارگانی۔
 بازارنگ (با - زار - نگ) انگیا، شامانچہ۔
 بازرس (با - زار - س) درجن، بیکتا ہوا، طلوع کرنیوالا۔
 بازردن (با - زار - دن) جدا کرنا، کھولنا۔
 بازردہ (با - زار - ردہ) جدا کیا ہوا، کھلا ہوا۔
 بازگشت (با - زار - گشت) واپسی، لوٹنا۔
 بازگو (با - زار - گو) دوبارہ بیان کرنے والا۔
 بازگونی (با - زار - گونی) دوبارہ بیان کرنا۔
 بازگوئے (با - زار - گوئے) دکیبو داڑگوئے۔
 بازگونی (با - زار - گونی) درگی، حیلہ سازی۔
 بازندہ (با - زار - ندہ) ڈوہ کھیلنے والا، کھلاڑی۔
 بازورد (با - زار - ورد) پختہ، پختہ قوت، استعداد۔
 بازوین (با - زار - وین) زور آور۔
 بازوینگی (با - زار - وینگی) زور، طاقت۔
 بازوی (با - زار - وی) زخمی، کھیل، فریب (با - زاری) بازو آواز۔
 بازویاں (با - زار - ویان) پھر پانے والا۔
 بازویانی (با - زار - ویانی) پھر پانا۔
 بازوین (با - زار - وین) ات خرید، واپسی۔
 بازوین (با - زار - وین) پھر پانا۔
 بازوین (با - زار - وین) پھر پانے جانے کے لائق۔
 بازوین (با - زار - وین) پھر پانا۔
 بازوی خوردن (با - زار - وی خوردن) فریب کھانا۔
 بازوین (با - زار - وین) دکیبو باعتن۔
 بازوین (با - زار - وین) گاہ کھیلنے کی جگہ۔
 بازوین (با - زار - وین) زخمی، کھلاڑ، شہریر۔
 بازوین (با - زار - وین) دکیبو داڑگوئے۔
 باس (با - زار - باس) دکھ، رنج، خوف۔

باستان (با - ستان) پیمانہ، گزشتہ، قدیم تواریخ۔
 باستانی (با - ستانی) پیمانہ، پیمانہ، قدیم، منسوب بہ باستان۔
 باسرم (با - سار - م) کریم، باس - زوہ کھینٹا کھینٹی کی زمین۔
 باسسط (با - سسط) فراخی دینے والا، بھانے والا۔
 باسٹ (با - سٹ) بسا، بھینٹنے والا۔
 باسک (با - سک) کشتہ، جاجی۔
 باسکوئے (با - سکوئے) گزشتہ، بخشش، داڑگوئے۔
 باسل (با - سل) دلیر، بہادر۔
 باسلین (با - سلین) ہاتھ کی ایک رنگ۔
 باسسم (با - سسم) سسٹ، مسکانے والا۔
 باسور (با - سور) گوشت جو مقعد یا ناک میں پھجانا ہے جو آواز سے۔
 باسٹ (با - سٹ) رہائش، سکونت، رہ، ٹھکانا، ٹھکانا، سنو، رہنے والا، جو نوالا۔ ۲۔ سردار، ہیڈ۔
 باشا (با - شا) دکیبو پاشا۔
 باشام (با - شام) شام، پردہ، اوڑھنا۔
 باشید (با - شید) ہودے، ہے، شاید۔
 باشیق (با - شیق) پاشہ۔
 باشکوئے (با - شکوئے) دکیبو داڑگوئے۔
 باشخندہ (با - شخندہ) ڈوہ رہنے والا۔
 باششہ (با - ششہ) ایک شکاری پرند۔
 باشی (با - شی) سردار، سردار۔
 باشیدن (با - شیدن) پش، دن، رہنا، کسنا۔
 باشیدہ (با - شیدہ) ڈوہ، رہا ہوا، ہوا ہوا۔
 باصر (با - صر) دیکھنے والا۔
 باصرہ (با - صرہ) حیرت، دیکھنے کی قوت۔
 باصلہ (با - صلہ) اپنی اصل کے ساتھ۔
 باطش (با - طش) پش، سختی کرنیوالا، علمہ کرنیوالا۔
 باطل (با - طل) ناجائز، ناجائز، مشیطان۔
 باطیل (با - طیل) جہاں باطیل۔

باطن دکا بطن (اندرون ، دل جو اطن)
 باطنی دکا - طینی ، اندرونی ، دلی ۔
 باطنیہ دکا - طینی ، سبب بہ باطن ، ایکہ تقدیم
 سیاسی فرقہ جس کا مالی حسن یہ صبح تھا ۔
 باعیش دکا - عیش ، وجہ ، سبب جو باعیش ۔
 باع دکا - باع ، بیڑوں کا بھرست ، چین ، گلشن
 جو پیشانی ، باکھاٹ ۔
 باع باع دکا - باع ، نہایت خوش دزم ۔
 باعخان دکا - باع ، بیان ، مالی ، پاپ ، مری ۔
 باعخانہ دکا - باع ، بیانی ، مالی کا کام ۔
 باعچہ دکا - باع ، چوہ ، بنیہ ، جو باع ۔
 باعہ دکا - باع ، عسکر ، اولیہ ، گلشن ، گوٹرا ۔
 باعستان دکا - باع ، عرس ، بیان ، باغوں کا بھرست ۔
 باعوش دکا - باع ، خوش ، چڑیا خانہ ۔
 باعندہ دکا - باع ، عین ، دہری کا کالہ ۔
 باغی دکا - باغی ، فرمان ، حکومت سے پہرا ہوا ۔
 جو پیشانی ۔
 بانہ دکا - بان ، بننے والا ۔
 بانست دکا - بان ، مینائی ، بناوٹ ۔
 بانٹن دکا - بان ، عین ، بننا ، ستم ، پافور ۔
 بانٹنی دکا - بان ، عین ، بننے کے لاین ۔
 بانٹہ دکا - بان ، کڑ ، مینا ہوا ۔
 بانکار دکا - بان ، کار ، اجلا ، مینے والا ۔
 بانکارسی دکا - بان ، کار ، عین ، بننے کا کام ۔
 بانڈکی دکا - بان ، کڑ ، مینائی ، کلام ، مینائی ۔
 بانڈہ دکا - بان ، کڑ ، مینے والا ۔
 بانڈلن دکا - بان ، کڑ ، عین ، کچھو ، بقتن ۔
 بانڈر کا - بان ، کڑ ، عالم ، بڑا ، لدار ، شیر ، زندہ ۔
 بانڈل دکا - بان ، کڑ ، سبزی فروش ، کچھو ۔
 بانڈہ دکا - بان ، کڑ ، مستہ ۔
 باقی دکا - باقی ، بیجا ہوا جو بڑا حق ۔

باقی ماندہ دکا - باقی ، کاس - کڑ ، باقی بچا ہوا ،
 باقی رہا ہوا ۔
 باقیات دکا - باقی ، قیانت ، باقی چیزیں ۔
 باک دکا - باک ، ڈر ، خوف ۔
 باکرہ دکا - باکرہ ، کڑ ، دوشیزہ ، کنواری ۔
 باکو دکا - باکو ، کڑ ، نام شہر (تھکان) ۔
 باکوہ دکا - باکو ، کڑ ، نیا پھل جو کچھو ۔
 باکی دکا - باکی ، کڑ ، رونے والا جو بگناٹ ۔
 باکی دکا - باکی ، کڑ ، بارونے انسان ، بارونے پرہ ۔
 ۳۔ دل ، جان ، عیش ، عظمت ۔ ۲۔ شہد ۔
 بالاد دکا - بالاد ، اوپر ، قدر ، ادب ، مینا ، لہا ۔
 بالادہ دکا - بالاد ، کڑ ، عین ، بیاس کا ایک حصہ ۔
 بالاپوش دکا - بالاد ، کڑ ، پوش ، اوپر پوشے کا کپڑا ۔
 بالالتفاق دکا - بالاد ، کڑ ، اتفاق ، اتفاق کے ساتھ ۔
 بالاجاق دکا - بالاد ، کڑ ، جاق ، غالب ، حاکم ، بالا ۔
 بالاحانہ دکا - بالاد ، کڑ ، خانہ ، کڑ ، کوٹھا ۔
 بالادست دکا - بالاد ، کڑ ، دست ، غالب ، مینائی ۔
 بالادستی دکا - بالاد ، کڑ ، دست ، غلبہ ۔
 بالارادہ دکا - بالاد ، کڑ ، رادہ ، ارادے کے ساتھ ۔
 بالازردن دکا - بالاد ، کڑ ، زردن ، دے پلکنا ۔
 بالاسنفلال دکا - بالاد ، کڑ ، سن ، کڑ ، سنفلال کیساٹ ۔
 بالانترام دکا - بالاد ، کڑ ، انترام ، انترام کے ساتھ ۔
 بالان دکا - بالاد ، کڑ ، کچھو ، دلان ۔
 بالانشین دکا - بالاد ، کڑ ، انشین ، بہتر ، میر ، جاس ۔
 بالانشینی دکا - بالاد ، کڑ ، انشین ، بہتر ، میر ، جاس ۔
 بالانیدن دکا - بالاد ، کڑ ، انیدن ، حرکت دینا ، ہلانا ۔
 بالاکوہست دکا - بالاد ، کڑ ، کوہست ، آؤ چٹا چٹا ۔
 بالائی دکا - بالاد ، کڑ ، پائی ، اوپری ، بلندی ، ڈالایا
 دلی ، دودھ کی ملائی ۔
 بال تدر و زبان - تدر ، کڑ ، بادل کا ٹکڑا ۔
 باجملگی (جن - کچھ - کڑ ، کڑ ، تھوک ، فردشی ۔

بالجملہ (ریح) - چم - آہ حاصل کلام، تھوک، فردوس۔
 بالخصوص (ریح) - چھوٹے خاصکر، خصوص کیا جانے
 بالست (تبا) - کسوت، کنواری۔
 بالمش (تبا) - رش، ہلکی۔
 بالمش (تبا) - لاش، کھلے ہاتھ کی چوڑائی، نیکی۔
 بالمشک (تبا) - لیش، بنگ، آہین، آسنے کا گڑا۔
 بالضرور (ریح) - ضرور، ناچار۔
 بالضرورت (ریح) - ضرورت، رت، ضرورت کے باعث
 بالکس (ریح) - کس، برطان، آلتا۔
 بالعموم (ریح) - عموم، عام طور پر۔
 بالسخ (تبا) - سخ، پورا جوان ہونے والا، کامل،
 اچھا، خوب ہم بکھڑا، کچھ، پہاڑ، شراب۔
 بالسخ (تبا) - لخت، کامل، پوری جوان۔
 بالفض (ریح) - فض، آسمان، ساتھ فرض کر لینے کے۔
 بالفعل (ریح) - فعل، اب، اس وقت۔
 بالکل (ریح) - کل، تمام، قطعی، سب۔
 بالکلیم (ریح) - کلیم، لکھ کر دیکھو بالکل۔
 بالکہ (ریح) - کات، اللہ کی قسم۔
 بالگرہ (ریح) - گرہ، بیکارگی۔
 بالمشافہ (ریح) - مشافہ، آسنے سانے، روبرو۔
 بالمشافہ (ریح) - مشافہ، کلیم کاٹھ پھانٹ کے ساتھ۔
 بالمشافہ (ریح) - مشافہ، روبرو، آسنے سانے۔
 بالندہ (تبا) - لڑ، ڈھ، بڑھنے والا، بڑھانے والا۔
 بالود (تبا) - لود، محض، رسمی، دسرود۔
 بالود (تبا) - لود، کون، بڑھنا۔
 بالوس (تبا) - لوس، ناقص، کافور۔
 بالوصہ (تبا) - لوصہ، کٹھنسی، چہ بچہ۔
 بالون (تبا) - لون، خمیہ، ر۔
 بالی (تبا) - لئی، شوبہ، بال، ۷۰ دیکھو بالیہ۔
 بالیدلی (تبا) - لئی، ڈرگ، بڑھوار، بڑھاؤ۔
 بالیدلی (تبا) - لئی، ڈن، بڑھا، بڑھا، ناقص، بالڈ

بالیدلی (تبا) - لئی، ڈرگ، بڑھنے کے لائق۔
 بالیدہ (تبا) - لئی، ڈھ، بڑھا ہوا۔
 بالین (تبا) - لین، سرمانہ، نیکی۔
 بالین پرست (تبا) - لین، پڑوس، ست (ایمان، احدی)۔
 بالیہ (تبا) - لئی، قدیم، بڑانا۔
 بالہم (تبا) - لئی، صبح، تم، حیل، نام، رنگ۔
 بالہم (تبا) - لئی، حیل، نام، بڑھنا، کاپیٹا۔
 بالمداد (تبا) - لئی، مداد، کات، نام، ڈا۔
 دان (تبا) - لئی، صبح۔
 بالمد (تبا) - لئی، صبح کی نوبت۔
 بالضرہ (تبا) - لئی، مزیدار۔
 بالمشک (تبا) - لئی، صبح۔
 بالمد (تبا) - لئی، صبح، داڑھی، والا۔
 بالمشافہ (تبا) - لئی، صبح، کھنسی۔
 بالمشافہ (تبا) - لئی، صبح، کھنسی، رنگ،
 چھت، ۲۔ بیدمشک، سہجنا کاپیٹا، پ (آن) ساتھ اس کے۔
 بالمشک (تبا) - لئی، آزاد۔
 بالود (تبا) - لئی، بی بی، خاتون، بیگم۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، بے نیاز، جس میں آواز ہو۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، بے نیازی، آواز والا ہونا۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، جھول، جھول، پالنا۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، پڑونا، نان سے نیچے بالوں کی جگہ۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، بنانے والا، بنا کرنے والا۔
 جم ہیناٹ۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، کام میں ماہر۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، ساتھ اس کے۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، قہر، قہر بھی۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، دس، کرم، کس پر بھی۔
 بالواری (تبا) - لئی، کوا، یقین، اعتبار۔

بادرچی دبا۔ دوز۔ بچی، کھانا پکانے والا۔
باوصف دبا۔ دھن، بادچود۔

باویں دبا۔ وین، کاشے کی روٹی کا پوسیا۔
باہ دبا۔ قرت، تپوت۔

باہنت (باہنت) ایک رواجی سفید پتھر جس کو کچھ
ناساختہ ہنسی آتی ہے۔

باہر دبا۔ بہر، روشن، ظاہر، کھلا ہوا۔

باہم دبا۔ ہم، آپس میں۔

باہمہ دبا۔ چھند، سب کے ساتھ۔

باہمی دبا۔ (بھی) منسوب۔ باہم۔

باہنت دبا۔ رت، باہمی، مشینہ۔

باہن دبا۔ (ہن) اند، دینے والی مرغی۔

باہی حال دبا۔ آئی، کتابین، پیر حال۔

باہر دبا۔ (ہر) چاہئے۔

باہس دبا۔ لین، محتاج، فقیر۔

باہست دبا۔ (ہست) لین، چاہئے۔

باہنلی دبا۔ (ہنلی) لالچی، بہتری

باہستن دبا۔ (ہستن) لین، ضروری ہونا منقسم یا بے

باہنتنی دبا۔ (ہنتنی) لین، ضروری ہونے کے لائق

باہستہ دبا۔ (ہستہ) لین، کم، لائق، بہتر۔

باہیح دبا۔ (ہیح) لین، دالاج، کما حقہ۔

باہیل دبا۔ (ہیل) لین، پیشاب کرنے والا۔

باہیں دبا۔ (ہیں) لین، اس کے ساتھ۔

باہنہمہ دبا۔ (ہنہمہ) لین، اس سب کے ساتھ۔

بہر دہنہ (بہر) ایال، دال، نظیر ہم، پورے (بہر) ہوا۔

بہنص دہنہ (بہن) لین، تھی، سختی۔

بہنفا دہنہ (بہنفا) لین، طوطی، موطا۔

بہنسا ویدن (بہنسا) لین، دوز، گھنسا، سننا، پسینا۔

بہنسا واین دہنہ (بہنسا) لین، جوانا، جوانی کی ذلت۔

بہن (بہن) لین، صورت، بہت، علامت ترکیب (بہن)

بہنوت کاشٹا۔

بہتان دہنہ (بہتان) لین، کجی، دھمکی، دھمکی

پیا سے

بہتا پیدن دہتا۔ (بہتا۔ پنی۔ دن) چھوڑنا۔

بہت پرست دہنت۔ (بہت۔ پرست۔ ت) صورت کا پکارنا

بہت پرستی دہنت۔ (بہت۔ پرستی۔ تی) صورت کی پکار

بہتا تراش دہنت۔ (بہتا۔ تراش۔ ت) صورت کھڑے والا

بہتا تراشی دہنت۔ (بہتا۔ تراشی۔ ت) صورت کھڑانا۔

بہتا رہت دہنت۔ (بہتا۔ رہت۔ ت) بہتا، بہت۔

بہتا رہت دہنت۔ (بہتا۔ رہت۔ ت) بہتا، بہت۔

بہتا راہ دہنت۔ (بہتا۔ راہ۔ ت) مانع راہ۔

بہتری دہنت۔ (بہتری۔ ت) بہتری، بہتری، خرابی

بہتری دہنت۔ (بہتری۔ ت) بہتری، بہتری، خرابی

بہتدہ دہنت۔ (بہتدہ۔ ت) بہتدہ، بہتدہ۔

بہنگن دہنت۔ (بہنگن۔ ت) سواد، ہوا، کھٹ، کھٹ

بہنگدن دہنت۔ (بہنگدن۔ ت) دن، پیر، پیر، پیر

بہنہ نہ کھانا، چھک جانا۔

بہنامہ دہنت۔ (بہنامہ۔ ت) مانع، سب۔

بہنول دہنت۔ (بہنول۔ ت) عیان، دنیا ترک کرنے والا

بہنتہ دہنت۔ (بہنتہ۔ ت) اگیرتہ، کاشٹا۔ سل کا بیہ

بہتیارہ دہنت۔ (بہتیارہ۔ ت) دیو، جادو، گھنہ

بہلا کھودہ، اہیب۔

بہلیل دہنت۔ (بہلیل۔ ت) دیکھو، متول۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) ظاہر کرنا، فاش کرنا۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) گرمی دانہ۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) گرمی دانہ، نقصا، جلا، جلا

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) ٹھیک، درست، بخیر۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) کولہ، زغال۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) کولہ، زغال۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) کولہ، زغال۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) کولہ، زغال۔

بہتا دہنت۔ (بہتا۔ ت) کولہ، زغال۔

بخشا سیدن (بخ - شا - سید - دن) رسم کرنا، بخشش کرنا مضم بخشکایڈ۔

بخشا سیدنی (بخ - شا - سنی - دنی) جتنے کے لایق بخشا سیدہ (بخ - شا - سنی - دہ) بخشش کیا ہوا۔

بخشا لیش (بخ - شا - لیش) عطا بخشش ہمہ بانی۔ بخشا بندہ (بخ - شا - بند - دہ) جتنے والا۔

بخشش (بخ - شش) دیکھو بخشش۔ بخشندہ (بخ - شند - دہ) جتنے والا۔

بخشو دن (بخ - شو - دن) رسم کرنا بخشش کرنا مضم بخشکایڈ۔

بخشودہ (بخ - شو - دہ) بخشا ہوا۔ بخششی (بخ - ششی) تنخواہ یا شے والا رسم۔

بخشسیدن (بخ - شس - سیدن) دن (بخشا، دینا مضم بخشکایڈ۔

بخشیدہ (بخ - شیدی - دہ) بخشا ہوا۔ بخشل (بخ - شل) کبھی، وقت، ممکن، باطل کی جمع۔

بخجور (بخ - جور) دھوئی۔ بخکیل (بخ - کیل) کچوس جو بخسلاو۔

بخکیدن (بخ - کید - دن) نومن اٹھسکا۔ بخکیدہ (بخ - کید - دہ) دھسکی ہوئی ردنی۔

بخکینہ (بخ - کین - ہ) باریک مہبوط سلانی۔ بخد (بخ - د) بہت، بود، تھا، بخد، چارہ، علاج جمع۔

بخداز (بخ - داز) کپڑوں کا ایک اصحاب خرابیاں بخد (بخ - د) شروخ کرنا۔

بخدا (بخ - دا) ظاہر ہونا، مارے بدلنا۔ بہت بد (بخدا) شروخ کرنا۔

بخدلاق (بخ - دلاق) آخلاق، بد مین، بد مزاج۔ بخد سلو بہ (بخ - سلو - بہ) صوب، بے ڈھنگا۔

بخد سلو بی (بخ - سلو - بی) لڑائی، بے ڈھنگا پن۔ بخد اصل (بخ - اصل) بے بخسند۔

بخد اطوار (بخ - داط - وار) ڈانڈے پھین دالا۔

بخد اطوار ہی (بخ - داط - وار) ڈانڈے پھین دالا۔

بخد باغ (بخ - دباغ) ہمیشی، تلوار۔ بخدال (بخ - دال) خلد فروش۔

بخد آموز (بخ - دآموز) جس کی تعلیم ناقص ہو۔ بخدال (بخ - دال) دیکھو بخال، بک ناری سے نکالنا۔

بخدال تارا (بخ - دال - تارا) برائے آنگھ۔ بخدال لیش (بخ - دال - لیش) دشمن اڑنا۔

بخد سونپے والا۔ بخد لیش (بخ - دال - لیش) آٹ، ابتدا، شروع، آغاز۔

بخد لیش (بخ - دال - لیش) آٹ، ابتدا، شروع، آغاز۔ بخد آئین (بخ - دآ - آئین) برقعیدہ، بد اطوار۔

بخد آئین (بخ - دآ - آئین) برقعیدہ، بد اطوار۔ بخد آئین (بخ - دآ - آئین) برقعیدہ، بد اطوار۔

بخد آئین (بخ - دآ - آئین) برقعیدہ، بد اطوار۔ بخد آہست (بخ - دآ - آہست) بے سوچے ہوئی بات کہنا۔

بخد آہست (بخ - دآ - آہست) بے سوچے ہوئی بات کہنا۔ بخد بلخ (بخ - دبلخ) دیکھو بلخ۔

بخد بلخ (بخ - دبلخ) دیکھو بلخ۔ بخد باطن (بخ - دباطن) چکی اندر دلی خیالات بہانہ۔

بخد باطن (بخ - دباطن) چکی اندر دلی خیالات بہانہ۔ بخد باطنی (بخ - دباطنی) خیالات بد ہونا۔

بخد باطنی (بخ - دباطنی) خیالات بد ہونا۔ بخد بخت (بخ - دبخت) بد قسمت۔

بخد بخت (بخ - دبخت) بد قسمت۔ بخد بختی (بخ - دبختی) بد قسمتی۔

بخد بختی (بخ - دبختی) بد قسمتی۔ بخد بود (بخ - دبود) سزا، جس کی پاس پرسی ہو۔

بخد بود (بخ - دبود) سزا، جس کی پاس پرسی ہو۔ بخد بود (بخ - دبود) سزا، جس کی پاس پرسی ہو۔

بخد بود (بخ - دبود) سزا، جس کی پاس پرسی ہو۔ بخد بود (بخ - دبود) سزا، جس کی پاس پرسی ہو۔

بدحواس دیکھو، اس بے اوسان -
 بدحواسی دیکھو، خواہی بے اوسانی -
 بدخشاں (بدخ - خشاں) نام شہر افغانستان،
 بدخشاہی (بدخ - شاہی) بدخشاں کی اعلیٰ شہسوار
 بدخط (دیکھو - خط) خراب خط والا -
 بدخطی (دیکھو - خطی) خراب خط ہونا -
 بدخلق (دیکھو - خلق) خراب مزاج والا -
 بدخلقی (دیکھو - خلقی) خراب مزاج ہونا -
 بدخودی (دیکھو - خودی) خراب عادت ہونا
 بدخوئی (دیکھو - خوی) خراب عادت ہونا
 بدخواہ (دیکھو - خواہ) بڑا چاہنے والا -
 بدخواہی (دیکھو - خواہی) بڑا چاہنا -
 بدو عا (دیکھو - عا) کوسنا -
 بدول (دیکھو - دل) اچانک دل -
 بدولی (دیکھو - ولی) دل اچانک ہونا -
 بدوما (دیکھو - دوما) خفا، غیر مطمئن -
 بدوماہی (دیکھو - ماہی) غلطی، بد مزاجی -
 بدذات (دیکھو - ذات) کینہ، شہریر -
 بدذاتی (دیکھو - ذاتی) کینہ پن، شرارت -
 بدذہن (دیکھو - ذہن) گھٹا، نا سمجھ -
 بدذہنی (دیکھو - ذہنی) نا سمجھی، گھٹا ہونا -
 بدذر (دیکھو - ذر) بڑا چاند چم بد ذر اسلام کی پہلی
 جنگ دفاعی کا مقام (دیکھو) باہر
 بدرام (دیکھو - رام) آرام، خوش، بہتر دیکھو، رام
 سرکش گھوڑا -
 بدراہ (دیکھو - راہ) جو بڑی راہ چلے -
 بدراہی (دیکھو - راہی) بڑی راہ چلنا -
 بدرو (دیکھو - رو) پانی گلنے کی نالی -
 بدرسی (دیکھو - رسی) بی، بیشک، دفاعی -
 بدرقہ (دیکھو - رقہ) گھبان، رہبر، دوا کی مدد
 کی چیز

بدرکاب (دیکھو - رکاب) سواری کا خراب گھوڑا -
 بدرکابی (دیکھو - رکابی) سواری میں خراب ہونا -
 بدرگ (دیکھو - رگ) کینہ -
 بدرنگ (دیکھو - رنگ) جس کا رنگ خراب ہو -
 بدرنگی (دیکھو - رنگی) رنگ خراب ہونا -
 بدرو (دیکھو - رو) بد صورت (دیکھو - رو) خراب چلنے والا -
 بدرو (دیکھو - رو) بد رفتاری، بد اخلاق -
 بدروسی (دیکھو - روسی) بڑی ماہ چلنا (دیکھو - روسی) بد صورتی -
 بدروسہ (دیکھو - روسہ) بڑی کینہ جس کا ڈھنگ خراب ہو -
 بدروہ (دیکھو - روہ) بڑا روہیہ کا ٹوٹا، جیانی -
 بدزبان (دیکھو - زبان) جس کی زبان بے لگام ہو -
 بدزبانی (دیکھو - زبانی) بے لگام ہونا -
 بدزہرہ (دیکھو - زہرہ) زہرہ، بدل، وہی، کورپوک
 بدزہیب (دیکھو - زہیب) جو اچھا نہ لگے -
 بدزہیبی (دیکھو - زہیبی) اچھا نہ لگنا -
 بدساعت (دیکھو - ساعت) بڑی گھڑی -
 بدساعتی (دیکھو - ساعتی) بد وقت، بد وقت
 بدستور (دیکھو - دستور) قواعد کے مطابق -
 بدسیرت (دیکھو - سیرت) طہیبت کا بُرا -
 بدسیرتی (دیکھو - سیرتی) طبیعت کی بُرائی -
 بدسگال (دیکھو - سگال) دشمن، بداندیشی -
 بدسگالی (دیکھو - سگالی) دشمنی، بداندیشی -
 بدسلوک (دیکھو - سلوک) بڑا برتاؤ کرنے والا -
 بدسلوکی (دیکھو - سلوکی) بڑا برتاؤ -
 بدسیرت (دیکھو - سیرت) بڑی عادت والا -
 بدسیرتی (دیکھو - سیرتی) بڑی عادت ہونا -
 بدشکل (دیکھو - شکل) بھڑکی شکل والا -
 بدشکلی (دیکھو - شکلی) بھڑکی شکل ہونا -
 بدشکن (دیکھو - شکن) بد حال -
 بدشکنی (دیکھو - شکنی) بد حالی -
 بدشیر (دیکھو - شیر) کینہی، انا کا دودھ پیا ہوا -

برجہ (برجہ جسم) انگلی کا پورا نام برجہ جم۔
برجہیں (برجہ جینی) ستارہ ششتری۔
برجیدان (برجی) دن چلنا چلنا منہ برجہ چیلند۔
برجیدہ (برجی) دہ، چہا ہوا۔
برجی (برج) حق، پیج، درست۔
برج (برج) ٹوکھا، حصہ۔
برجاست (برج) خاست، علیہ کی اٹھنا۔
برجاسن (برج) خاست، اٹھنا منہ برجہ چیلند۔
برجاستہ (برج) خاست، اٹھنا ہوا۔
برجظان (برج) ظن، برکس، اٹھا۔
برجوروان (برج) رواج، لطف اٹھانا، میدہ
کھانا منہ برجہ چیلند۔
برجوروار (برج) رواج، خوش، پھولا پھلا
بیٹا۔
برجی (برج) جی، ندی، قربانی، وحدتہ۔
برجی (برج) جی، خود، سا، بچہ۔
برج (برج) سردی، جاڑ، اٹھنا، برجہ، خطرے
کی بازی، دھارہ، کپڑا، برجی، اول، اٹھا۔
(برج) ہر ٹھنڈی چیز۔
برجوار، بروارندہ (برج) دات، برج، دار۔
دہ اٹھانے والا۔
برداشت (برج) داشت، سہارا، اٹھانا، سہنا۔
برداشتن (برج) داشت، جن، اٹھنا، منہ
فوتنہ برجہ دار۔
برداشتی (برج) داشت، جی، اٹھانے کے لاین
برداشتتہ (برج) داشت، کلام، اٹھایا ہوا۔
برجہ پارہ (برج) پارہ، علم، سینے والا۔
برجہ پاری (برج) پاری، علم، عمل۔
برجہ پوز (برج) پوز، جاڑ کا آزی ہنتہ۔
برج (برج) دک، پہلی، چیتاں۔
برج (برج) دن، چلنا منہ برجہ

برجی (برج) دہ، دینی، اٹھانے کے لاین۔
برجہ (برج) دہ، چلنا ہوا، برجہ، دہ، تپیدی،
غلام، لاندی۔
برجہ فروش (برج) دہ، خرلاش، غلاموں کی
تجارت کرنے والا۔
برجہ فروشی (برج) دہ، خرلاشی، غلاموں
کی تجارت۔
برجی (برج) دہ، جی، نرکل۔
برجیدان (برج) دہ، دن، جنگ جانا۔
برجہ (برج) دہ، باوان۔
برجہ (برج) دہ، بازگی برج۔
برج (برج) دہ، قدر، اٹھانی، برجی، ذاعت،
ذبیانی، عقلمند۔
برج (برج) دہ، دہ، دیوانی چیز، ہر اریخ۔
برج (برج) دہ، کھ، کسان۔
برج (برج) دہ، دن، کچھ، ہجی۔
برج (برج) دہ، دن، آگ، کچھ، ہجی۔
برج (برج) دہ، سات، ذات، الجب، پیوری۔
برج (برج) دہ، کات، پھانک، تاش۔
برج (برج) دہ، سن، ہونا منہ برجہ پوز۔
برج (برج) دہ، جی، بھوننے کے لاین۔
برج (برج) دہ، جی، ہونا ہوا۔
برج (برج) دہ، کات، برجکال، برسات۔
برج (برج) دہ، سفید کورہ، پھیل ہجی۔
برج (برج) دہ، کون، سوٹو، پھیرو۔
برج (برج) دہ، کون، سوٹو، فی، پھیرو۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔
برج (برج) دہ، کلا، لوٹی۔

برغلانیدن (بزغلان) - دن، دیکھو دنگلاندن۔
 برغشال (بزغشال) اڑاوا۔
 برغعود (بزغعود) قرنا، سسنگھ۔
 برغوش (بزغوش) پتھو، پھیریم پیرا پختیا۔
 برغ (بزغ) منجھ پاتی۔
 برغ پرور (بزغ پرور) - پڑا۔ دز (د) بزغیں
 ٹھنڈا کیا ہوا۔

برغ نور (بزغ نور) بہت جلد۔
 برغ د بزغ (بزغ) بجلی، چمک جم برغوق
 برغ (بزغ) - مرہا، بجلی کا کڈ کٹر، بجلی
 اُتارنے والا۔

برغ قرار (بزغ قرار) قائم۔
 برغ راز کی (بزغ راز کی) برمی، قیام۔
 برغ زوگی (بزغ زوگی) - دز (د) بجلی مانا۔

برغ زوہ (بزغ زوہ) - دز (د) بجلی مارا ہوا۔
 برغ فتح (بزغ فتح) - دز (د) ہنگوٹھ، ایک پردہ دار لباس۔
 برغ قدم (بزغ قدم) اوجھلی پھریں زمین
 برغی (بزغی) - تہ، منو باب، برغی، بجلی کا۔
 برغ قیہ (بزغ قیہ) - تہ، خبر رسانی کا نا۔
 برغ (بزغ) - ہیں ستارہ، ایک آدی پڑا (بزغ)۔
 پتی، آسان، سرخام۔

برگار (بزگار) - سبھ کھلا ہوا، ملید۔
 برگان (بزگان) - آتش فشانی پہاڑ۔
 برگت (بزگت) - نیگ، جتھی، افزائش جم
 بزکات۔

برگردن (بزگردن) - دن، ظاہر کرنا، روشن
 کرنا منم بزگردن۔
 برگشیدن (بزگشیدن) - دز (د) تون، سرتیہ بڑھانا
 منم بزگردن۔

برگشیدن (بزگشیدن) - دن، آکھیرنا۔
 برگشینی (بزگشینی) - دن، آکھیرنے کے لایت۔

برگندہ (بزگندہ) - دز (د) آکھیرنا ہوا۔
 برگندہ (بزگندہ) - جوش (بزگندہ) آنے کی بجائی۔
 برگ (بزگ) - آسان، آسنا، پیر کا پتہ، پردا۔
 برگ دیدن (بزگ دیدن) - دز (د) پھر جانا، قائم
 نہ رہنا منم بزگردن۔
 برگ ریندہ (بزگ ریندہ) - برگ رینال، برگ ریندہ، ریندہ،
 بزگ - برسے۔ نا، آسمان خزان۔

برگزیدگی (بزگزیدگی) - دز (د) پسند، چھاٹ۔
 برگزیدن (بزگزیدن) - دن، پسند کرنا، چھاٹنا، چھنا۔
 برگزیدہ (بزگزیدہ) - دز (د) پسندیدہ، چھاٹا ہوا۔

برگشتاں (بزگشتاں) - برگشتاں، برگشتاں، برگشتاں
 دز (د) ایک لباس جنگ۔
 برگشتی (بزگشتی) - بجلی، چھاٹا ہوا۔

برگشستن (بزگشستن) - دز (د) منم بزگردن۔
 برگشتی (بزگشتی) - بجلی، چھانے کے لایت۔
 برگشٹہ (بزگشٹہ) - دز (د) پھرا ہوا۔

برگ و نوا (بزگ و نوا) - دز (د) نوا، نوا، کھانا۔
 برنگ زون (بزگ زون) - دز (د) بھاگا۔
 برہم (بزہم) - دیکھو برہم۔

برماس (بزگماس) - دست کشی، جھوت۔
 برماسیدن (بزگماسیدن) - دز (د) پتی، دز (د) پتی۔
 دن، ایک ٹھوکر، دسے پر گزانا، اٹھنا۔

برملا (بزگملا) - برہم، سب کے سامنے۔
 برمہ (بزگمہ) - چھیننے کا برہم، برہم، برہم
 (بزگمہ) ہانڈی۔
 برمیٹل (بزگمیٹل) - پیلا۔
 برناتا (بزگناتا) - جوان، خریف۔
 برناس (بزگناس) - نادان، غافل، نادانی، غفلت۔
 برناتی (بزگناتی) - نادانی، جوائی۔
 برنچ (بزگرنچ) - پپیل (بزگرنچ) چادل۔
 برنجاسف (بزگرنجاسف) - نام، دوا، بوتے، مادان۔

برنجن (برنج - بجن) باز بند۔
 برنجی (برنج - بجن) اچھی اچھی مٹیل کا پینر۔
 برنڈہ (برنج - ڈہ) بجا بولا (برنج - ڈہ) کاٹے والا۔
 برنس (برنج - سن) عیسائیوں اور کاتھولک پستوں کا ایک مذہبی لباس۔
 برنشا ندرن (برنج - نشان - ڈن) جھلانا۔
 برنٹسٹھی (برنج - سنٹس - سٹی) سواری، بیٹھنے کے لائق برتنیہ (برنج - ٹی) کٹا، انگریزی توپنی۔
 برنٹھار (برنج - سنکار) جنگ فوج کا دایاں بازو۔
 بروار و برز - ڈانگ گریوں کا ٹھنڈا مکان، کھوکھی، بالاخانہ۔
 بروار (برز - وارڈ) چوکھا۔
 بروٹ (بروٹ - سوٹ) سوٹچ۔
 بروج (بروٹ - ج) برنج کی ج۔
 بروجرام (بروٹ - جرام) پودا گرام۔
 بروسیج (بروٹ - سج) پت، ایک وجہ پر۔
 بروڈن (بروڈ - ڈن) سردی۔
 بروڈر (بروڈ - ڈر) باہر غلٹا، ظاہر ہونا (بروڈ - ڈر) دان کی سجات۔
 بروڈی (بروڈ - ڈی) برد سے شوبہ، ظاہر ہونا۔
 بروسل (بروڈ - سل) شہر برسلز (بلجیم)۔
 برومند (بروڈ - منڈ) کامیاب، پھلدار۔
 برومنڈی (بروڈ - منڈ) دینی کامیابی، پھلدار۔
 بروول (بروڈ - ول) باہر، سوا، بیدوں۔
 بروونی (بروڈ - ونی) باہری۔
 بروہ (بروڈ - روہ) بڑی یاہرن دفعہ کا بچہ، برنجی۔
 بروہان (بروڈ - ہان) دلیل جم بڑا پوین۔
 بروہم (بروڈ - ہم) اٹ پٹ، خفا، ناراض۔
 بروہن (بروڈ - ہن) بڑا من، ہندوؤں کی سب سے افضل قوم جم بڑا چھٹہ۔

برہمنند (بروڈ - منڈ) دیکھو برہمن۔
 برہمی (بروڈ - می) ناراضی۔
 برہمنگی (بروڈ - منگی) تنگ پن، تنگ پن، تنگ پن۔
 برہمنہ (بروڈ - نہ) بڑا بڑا، تنگ، کٹا۔
 برہمنہ گوڈ (بروڈ - گوڈ) کھری کھری کھنے والا۔
 برہمنہ گوڈی (بروڈ - گوڈی) کھری کھری کھنا۔
 برہمون (بروڈ - مون) صاحبوں، دائرہ، حلقہ، آرائش، زینت۔
 برہمی (بروڈ - می) پاک، اہمیتور، انگ، ہسیڈار (بروڈ - می) شوبہ بڑا، خشکی کا۔
 برہمی الذمہ (بروڈ - می) ذمہ داری سے برہمی۔
 برہیال (بروڈ - یال) جتنا ہوا۔
 برہیانی (بروڈ - یانی) اعلیٰ قسم کا پلاڈ۔
 برہینت (بروڈ - ہینت) ایش، خلق، برہیہ جم بڑا کھتیوری۔
 برہیدگی۔
 برہید (بروڈ - ہید) کاٹ (بروڈ - ہید) قاعد، نامبر، ڈنگ۔
 برہید فلک (بروڈ - ہید) ڈنگ، چاند۔
 برہیدن (بروڈ - ہیدن) کاٹنا سمٹ، جھڑو۔
 برہیدنی (بروڈ - ہیدن) کاٹنے کے لائق۔
 برہیدہ (بروڈ - ہید) کاٹنا ہوا۔
 برہین (بروڈ - ہین) پڑ، کھلی، اہواری۔
 برہینم (بروڈ - ہینم) بڑے، بڑے، بڑے، بڑے۔
 برہینی (بروڈ - ہینی) روشن، درخشندہ۔
 برہین (بروڈ - ہین) ہند، برتر، اور (بروڈ - ہین) پھانک، برش۔
 برہیندہ (بروڈ - ہیند) ڈہ، سمونے والا۔
 برہینہ (بروڈ - ہینہ) خلق جم بڑا کیا۔
 برہینہ (بروڈ - ہینہ) بھری، سزا، برنجی مل (بروڈ - ہینہ) کھلا پوینی۔
 برہینہ (بروڈ - ہینہ) خاندان داری۔
 برہین (بروڈ - ہین) خزانہ، شج، پھلانا۔

بصاق

بصاق (بصاق) دیکھو بزاق۔
 بصر (بصر) بینائی، آنکھ جم البصار
 بصرہ (بصرہ) زمین۔ رقبہ، نام شہر (عراق)
 بصل (بصل) پیاز۔ ص
 بصیر (بصیر) دانیا، بیاض بصیر اور۔
 بصیرت (بصیرت) بصیرت، یقین، دانائی قلب جم
 بصائر۔
 بصاعت (بصاعت) پونجی جو بصاعتات۔
 بضع (بضع) آہٹیں سے ٹونگ کا عدد (بضع)
 نکاح، عورت کی شرمگاہ (بضع) گوشت
 کاشنا، سیراب ہونا۔
 بضعہ (بضعہ) گوشت کا پتہ۔
 بط (بط) بلج، بوسے۔
 بطار (بطار) دیر، درنگ (بطار) دیری۔
 بطاطہ (بطاطہ) کدو، کدو۔
 بطال (بطال) بگاڑا، بگاڑا، بگاڑا۔
 بطالت (بطالت) بگاڑا، بگاڑا، بگاڑا۔
 بطانہ (بطانہ) دلی دوست، لباس کا استر۔
 بطحی (بطحی) بٹھا، بٹھا، بٹھا۔
 بطحی (بطحی) بٹھا، بٹھا، بٹھا۔
 بطر (بطر) خود نا۔
 بشریت (بشریت) انسان کا ایک ذہنی پیشوا
 جم بطار، رقبہ، بصریت، بصریت، بصریت۔
 بطش (بطش) علم، علم کرنا۔
 بطک (بطک) شراب کا چھوٹا شیشہ۔
 بطل (بطل) (بیر) بیاض جم ابطال۔
 بطلان (بطلان) کان، ناچیز، بیاض، بیاض۔
 بطون (بطون) پیٹ جم بطنان، بطنان۔
 بطون (بطون) بڑھاپا، بڑھاپا۔
 بطنا (بطنا) بطن (بطن)۔
 بطن (بطن)۔
 بطن (بطن)۔

پلٹھ (کل - کڈ) ملافت (گنڈھ) بالٹ کی بچ
دہل (گنڈھ) جو ساش میں کھایت کرے۔

پلٹھان (دکن - تھان) مشرقی یورپ کا ایک حصہ۔

پلٹھن (کل - تھ) خالی زمین جم بلا ٹھن۔

پلٹھن (کل - گنڈھ) گھونس، خرمنوش۔

پلٹھن (کل - کڈ) حرف اضراب، شاید ضرور۔

پلٹھن (کل - تری، نمی)۔

پلٹھن (کل - گنڈھ) اسی داڑھی والا۔

پلٹھن (کل - د) ادبچا۔

پلٹھنی (کل - دینی) ادبچائی۔

پلور (کل - د) دیکھو پلوسی

پلور (کل - کڈ) کڈور، ایک شفاف پتھر، شیشہ

جم بگا لیسر، مبلو کڈو۔

پلور (کل - د) پلورس (کل - کڈ) کڈور، کڈور (کل - د)

پلور سے منسوب، شیشہ کا۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) سینا سبھاری کا پتھر۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) باغ ہونا، جن نکالنا، پھونچنا۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) کٹ، بالٹین، پوری جوانی۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) گاڈوں، ٹھبہ جو پلوٹ کات

پلوٹ (کل - کڈ) سکتی، محنت، آزمائش۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) ایک کڈور، پلوٹ (کل - ٹوٹ) کڈور

سبیل، ترائی۔

پلی (دکن، بکلی) کلہ تھن، جی بان، اچھا۔

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

سختی جو کڈور کات۔

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلٹھ (کل - کڈ) ملافت (گنڈھ) بالٹ کی بچ

دہل (گنڈھ) جو ساش میں کھایت کرے۔

پلٹھان (دکن - تھان) مشرقی یورپ کا ایک حصہ۔

پلٹھن (کل - تھ) خالی زمین جم بلا ٹھن۔

پلٹھن (کل - گنڈھ) گھونس، خرمنوش۔

پلٹھن (کل - کڈ) حرف اضراب، شاید ضرور۔

پلٹھن (کل - تری، نمی)۔

پلٹھن (کل - گنڈھ) اسی داڑھی والا۔

پلٹھن (کل - د) ادبچا۔

پلٹھنی (کل - دینی) ادبچائی۔

پلور (کل - د) دیکھو پلوسی

پلور (کل - کڈ) کڈور، ایک شفاف پتھر، شیشہ

جم بگا لیسر، مبلو کڈو۔

پلور (کل - د) پلورس (کل - کڈ) کڈور، کڈور (کل - د)

پلور سے منسوب، شیشہ کا۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) سینا سبھاری کا پتھر۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) باغ ہونا، جن نکالنا، پھونچنا۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) کٹ، بالٹین، پوری جوانی۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) گاڈوں، ٹھبہ جو پلوٹ کات

پلوٹ (کل - کڈ) سکتی، محنت، آزمائش۔

پلوٹ (کل - ٹوٹ) ایک کڈور، پلوٹ (کل - ٹوٹ) کڈور

سبیل، ترائی۔

پلی (دکن، بکلی) کلہ تھن، جی بان، اچھا۔

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

سختی جو کڈور کات۔

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

پلیٹ (دکن، بکلی) کڈور، کڈور (کل - ٹوٹ) کڈور

بے آبی اپنے آبی جیروقتی پانی نہ ہونا
 بے اہل رہے۔ اہل ابن آبی سوٹ۔
 بے اختیار ہے۔ رخ نیاٹا جو کھانڈ نہ کرتا ہو۔
 بے اختیار علی (بے باغ۔ نیاٹا۔ بخار نہ کرنا۔
 بے اختیار (پے۔ رخ نیاٹا) بے قابو، ناچار۔
 بے اختیاری (پے۔ رخ نیاٹا۔ بری) ناچاری، اختیار نہ ہونا۔
 بے ادب (پے۔ آرزو، گستاخ، بدتمیز۔
 بے اولاد رہے۔ آرزو، نہم بے ادبی سے مشوب۔
 بے ادبی (پے۔ آرزو، گستاخی، بدتمیزی۔
 بے آرام (پے۔ آرام) بے چین، بیسک۔
 بے آرامی (پے۔ آرام) بے چینی، بیسک۔
 بہار (پے۔ میل کا پیر۔
 بے اطمینان (پے۔ دلا۔ رہی۔ نان) بے تسلی،
 بے دلاسا۔
 بے اطمینان (پے۔ دلا۔ رہی۔ نان) اطمینان نہ ہونا۔
 بیاض (بیکھنا) سفیدی، کوری کتاب۔
 بیاض آبی (بیاغ، دلال)۔
 بے اختیار (پے۔ رخ۔ تیار) بے بھروسہ۔
 بے اختیار (پے۔ رخ۔ تیار۔ رہی) بھروسہ نہ ہونا۔
 بے اختیار (پے۔ رخ۔ تیار) بے یقین۔
 بے اختیار (پے۔ رخ۔ تیار۔ رہی) بے یقینی۔
 بیاضیدین (بیاغ۔ رخ۔ کن، بھگوانا، کوکھنا۔
 بیاضیدین) بیاضی۔ کن، تھوکرنا، تڑیب دینا۔
 بے ایمان (پے۔ ایمان) بے پیادہ، بے پناہ۔
 بے ایمان (پے۔ ایمان) تیار، بے فرق۔
 بے اختیار (پے۔ رخ۔ تیار۔ رہی) بے فرقی۔
 بے امضاء (پے۔ رسم، نسا، گنام۔
 بیان (بیان، انبار، انبار ہونا، نصیح ہونا،
 شیر کا دہن، ایکس درندہ۔
 بے اندازہ (پے۔ آن۔ ذہ) بہت زیادہ
 جن کا اندازہ نہ ہو

بے اندام (پے۔ آن۔ کام) بے ادب۔
 بے اندامی (پے۔ آن۔ کام) بے ادبی۔
 بیانی (پے۔ بیان) سے مشوب۔
 بے اولاد (پے۔ آرزو، بے مال بچوں والا۔
 بے اولاد (پے۔ آرزو، بے مال بچوں کا نہ ہونا۔
 بے آہو (پے۔ آرزو) بے عیب۔
 بے ایمان (پے۔ ایمان) غائب۔
 بے ایرانی (پے۔ ایرانی) افسانہ زری، لائڈ ہی۔
 بیاض (پے۔ بیان) جب کچھ باقی نہ رہے۔
 بیاضی (پے۔ بیاضی) کچھ باقی نہ رہنا۔
 بیاضک (پے۔ بیان) بھرا، دھمک۔
 بیاضی (پے۔ بیاضی) بھر، بے دھمک پنا۔
 بے بال و پیر (پے۔ بال، موٹ پیر) بے طاقت۔
 بے بال و پیر (پے۔ بال، موٹ پیر) بے طاقت۔
 بیاض (پے۔ بیاض) باب کی حج۔
 بے بدل (پے۔ بدل، لاجواب۔
 بے سرگن بار (پے۔ بڑ۔ موٹ پیر) بے سامان۔
 بے بقا (پے۔ بقا) جو قائم نہ رہے۔
 بے بہا (پے۔ بہا) بے حد بڑھیا۔
 بے بہار (پے۔ بہار) بے رونق۔
 بے پیر (پے۔ پیر، لاجواب۔
 بے پیر (پے۔ پیر) لاجواب۔
 بے پروا (پے۔ پروا) بے دھیان، بے توجہ۔
 بے پروا (پے۔ پروا، بے دھیان) بے دھیانی،
 بے توجہ۔
 بے پناہ (پے۔ پناہ) بے پیادہ، بے ایمان۔
 بے پناہ (پے۔ پناہ) بگاڑ نہ ہونا۔
 بے پیر (پے۔ پیر، گراہ، خاتم۔
 بے پیر (پے۔ پیر) گراہی۔
 بیاض (پے۔ بیاض) بھرا، بھرا۔
 بیوان (پے۔ بیان) بھرا، بھرا۔

بیدردی دے۔ کڑو۔ دوشی، بیریگی، درد نہ ہونا۔
 بید رنگ دے۔ کڑو بچ، جھٹ پٹ، انور۔
 بیدریغ دے۔ کڑو بچ، بے جھٹکے، بیزانوس۔
 بیدست دیا دے۔ کڑو۔ کڑا، کجا، لاجار، مجبور۔
 بیدست و پانی دے۔ کڑو۔ کڑا۔ پانی (کڑی)
 لاجاری، مجبور ہی۔

بیروں دے۔ گردن (باہر سے خارج)۔
 بیرو بجات دے۔ گردن۔ بجاتا، نواح،
 باہر کا علاقہ۔
 بیرونی دے۔ گرد۔ کڑو، کڑا، باہر والا، دیا نکھانہ۔
 بے رونی دے۔ گرد۔ کڑو، کڑا، بے رونی، بے شرمی۔
 بیروہ دے۔ کڑو، کڑا، جو کیشرا، بیزو
 بیریگی دے۔ کڑو، کڑا، دکھو بیروہی۔
 بیروا دے۔ کڑا، کڑا، جس میں دکھاوانہ ہو۔
 بے ریب وریا دے۔ کڑو۔ کڑو، کڑو، کڑو، بھیر
 نکتہ اورد دکھاوا۔

بیستور دے۔ کڑو۔ کڑو، بیستاہہ، بے رواج۔
 بے دستوری دے۔ کڑو۔ کڑو، کڑو، بے تاملگی۔
 بے دوشی دے۔ کڑو۔ کڑو، بے مبالغہ۔
 بیدق (بے) دے۔ کڑو، کڑو، بے مبالغہ۔
 بید مان دے۔ کڑو، کڑو، بھلا بھلا۔
 بید ما علی دے۔ کڑو، کڑو، بھلا بھلا،
 مہلا، مہلا ہونا۔

بے ریا فی دے۔ کڑو، کڑو، کڑا، کھانا نہ ہونا۔
 بیریگی دے۔ کڑو، کڑو، بے ڈاڑھی۔
 بیریگیہ دے۔ کڑو، کڑو، بے جیوترا۔
 بیرو (بیزو) جھانے والا۔
 بیزار دے۔ کڑو، کڑو، جھانے والا۔
 بیزارگی دے۔ کڑو، کڑو، جھانے والا۔
 بے زار دے۔ کڑو، کڑو، کھلا، مفلوس۔
 بیزاری دے۔ کڑو، کڑو، کھلا، مفلوس۔
 بیزندہ دے۔ کڑو، کڑو، جھانے والا۔

بید مشک اپنا۔ کڑو، کڑو، نام دوا۔
 بیرو بیزو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیروان (بے) دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیروانہ دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے راہ دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیروا دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے ریلج دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیرو بلی دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے رسم دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیریگی دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے رضا دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیروق دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیروگ دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔

بیزاری دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیزاریگی دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے ساختہ دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیست و بیست (۲۰) ہیں (۲۰)
 بے ستری دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیست و بیست (۲۰) ہوں۔
 بے سر دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے سراگ دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 ادش کا کچھ۔
 بے سردی دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بے مقدور دے۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔

بیرودی (کڑو)۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیریگی (کڑو)۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیرومی (کڑو)۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔

بیرودی (کڑو)۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔
 بیرومی (کڑو)۔ کڑو، کڑو، کڑو، کڑو، کڑو۔

بیسرو پائی ہے۔ سڑو۔ پاجڑی بے مقدوری، بیہوشی۔
 بے سرو دل ہے سڑو۔ دل، لا پر د۔
 بے سرو سماں ہے۔ سڑو۔ سماں۔ بے وسیلہ
 خالی ہاتھ

بے سرو سامانی ہے سڑو۔ سا۔ مائی، خالی
 ہاتھ ہونا ہے سببہ بن۔

بے سمری ہے۔ سمری (سردار ہونا، بیٹھیری، لاجوبی۔
 بے سکون (بے سکوٹوں) جو کجا نہ بیٹھے۔

بے سکر ہے۔ سکر (کڑا) سیکڑا بے مقدار۔
 بیسواد ہے۔ سواد، جاہل، کبڈ۔

بیسواد ہے۔ سواد، وحی، جہل، کبڈ ہونا۔
 بے سلیقی ہے۔ سلی، سلی، بے شعوری۔

بے سلیقہ ہے۔ سلی، سلی، بے شعور۔
 بیش (بیش، زیادہ۔

بے شکا ہے۔ شا۔ اینڈ، بیشک، بے شبہ۔
 بیش بہا (بیش، بہا، قیمتی۔

بیشتر (بیش، تر، بہت زیادہ
 بیشترک (بیش، ترک، ایک ذرا زیادہ۔

بے شرم ہے۔ شرم، ہجیا، جولانہ نہ سے۔
 بیشرمی ہے۔ شرم، ہجیا، جولانہ نہ سے۔

بے شہور ہے۔ شہور، بے سلیقہ۔
 بشجوری ہے۔ شجور، بری، بے سلیقی۔

بے شفق ہے۔ شفق، ناہربان۔
 بشفق ہے۔ شفق، ناہربانی۔

بیشک ہے۔ شک، بے گمان۔
 بیشکار ہے۔ شکار، ان گنت۔

بیشہ ہے۔ شہ، جنگل، کھار۔
 بیشی ہے۔ شہ، زیادتی۔

بے صبر ہے۔ صبر، مضطرب، بے ڈھارس۔
 بے صبری ہے۔ صبر، بری، ڈھارس نہ بندھنا۔

بے صبر ہے۔ صبر، ڈر، بے فائدہ۔
 بے صبری ہے۔ صبر، ڈر، بے فائدہ۔

بے صلاح ہے۔ صلاح، بے مشورہ ہے۔ بھئی۔
 بیض (بیش، اٹھا دینا۔

بیضاد ہے۔ ضاد، گوری عورت، ہر مونٹ جیتی چیز
 سفید روشن، سورج جم بیش۔

بے ضبط ہے۔ ضبط، بے ترتیب ہے۔ انتظام۔
 بے ضبطی ہے۔ ضبط، بے ترتیبی ہے۔ انتظامی۔

بے ضوی ہے۔ ضوی، منسوب، بیضہ، انڈے کی مثل۔
 بیضہ (بئی، بھڑ، انڈا، جنگلی، خود جم بیش، ما

بیوض، بیوض، بیوضات۔
 بیطار (بئی، طار، موٹی کالاجا کرنے والا۔

بیٹاری (بئی، ٹا۔ بری، ہونیز کا علاج۔
 بے طاقت ہے۔ طاقت، کمزور۔

بیٹاقتی ہے۔ طاقت، کمزوری۔
 بے طالع ہے۔ طالع، بخت، قسمت۔

بیٹالسی ہے۔ طالع، بخت، قسمت۔
 بیطرد ہے۔ طرد، دکھو بیٹار۔

بیٹری (بئی، طرد، دکھو بیٹاری۔
 بیطرح (بیٹور، بے طرح، بے طور، بے ڈھنگ۔

بیج (بیج، خرد، خرد، خرد، آتش پتھر کا
 عبادت خانہ جم بیجہ۔

بیجانہ (بئی، جا۔ نہ، سائی۔
 بیعت (بئی، عت، بری، عسدر، باندھنا

(بئی، عت، آتشکدہ۔
 بے عدل ہے۔ عدل، بے انصاف۔

بیج سلم (بئی، سلم، بدھنی۔
 بیچنا (بئی، نا، کم، خرید و فروخت کی قریر۔

بے عیب ہے۔ عیب، بے کمی، بے بڑائی۔
 بے عیبی ہے۔ عیب، بے کمی، بے بڑائی۔

بیجان (بئی، جان، یا ک، بیج۔
 بیجانیت (بئی، جان، بیج، بے انتہا۔

بے ڈائی (بئی، ڈائی، بے انتہا۔
 بے ڈائی ہے۔ ڈائی، بے انتہا۔

پادشاہ (پاؤ شاہ) بادشاہ -
 پادشاہی (پاؤ شاہی) بادشاہی -
 پار (پاؤ) پچھلا برس، فٹ -
 پارار (پاؤ) پچھلا تیسرا برس، تیسروس -
 پارچہ (پاؤ) بچہ، کپڑا، لٹہ -
 پاروم (پاؤ) قوم، زمین کی دچی -
 پارس (پاؤ) دیکھو فارس -
 پارسا (پاؤ) سنا، بے بہرہ گار -
 پارسال (پاؤ) سال، گذشتہ سال -
 پارسائی (پاؤ) سنا، اپنی، بے بہرہ گاری -
 پارسنگ (پاؤ) سنگ، دیکھو پارسنگ -
 پارسسی (پاؤ) سنی، سبب یہ پارس نام -
 زبان، نام قوم -
 پارگاہ (پاؤ) گاہ، کھڑکی، جھردکا، یا لگانہ -
 پارگی، پارگیں (پاؤ) پارگی، پائزگیوں، چڑھانہ -
 گندے پانی کی کنڈھی -
 پارلسان (پاؤ) لیان، پارلیمنٹ، مجلس مندوبین -
 پارہ (پاؤ) رتہ، ٹکڑا، حصہ، تھک، تبرک -
 پارہ دوز (پاؤ) رتہ، دوز، بیوند گئے والا -
 پارہ دوزی (پاؤ) رتہ، ڈو، ڈی، پیوند لگانا -
 پارہ کار (پاؤ) رتہ، کار، شوخ، لچکا -
 پارہ دن (پاؤ) رتی، دن، پردارکنا، ٹکڑے
 ہونا منظم یا تڑو
 پاریدہ (پاؤ) رتی، ڈہ، مکڑے ہوا -
 پارلیس (پاؤ) رلیس، شہر بیس (مرض)
 پار سینہ (پاؤ) رتی، رتہ، قدیم، پورا نا -
 پارواج (پاؤ) راج، رانی، ناچ، بتابلہ -
 پارہر (پاؤ) رتہ، ر، زہرہ -
 پارنگ (پاؤ) رنگ، درجیہ، پاپوش -
 پاس (پاؤ) پاس، پہر، محافظت، پہرہ، لحاظ
 پاسان (پاؤ) پاس، بان، چوکیدار، پہرہ دار -

پاسانی (پاؤ) پاس - بان، پہرہ داری، چوکیداری -
 پاسبز (پاؤ) سبب، دن، خوش قدم، دلال -
 پاسبزی (پاؤ) سبب - زنی، خوش قدمی، دلالی -
 پاسٹان (پاؤ) پاس، تان، دیکھو پاسٹان
 پاسخ (پاؤ) مسخ، جواب -
 پاس خاطر (پاؤ) پاس - خاطر، نئے واسطے -
 پاسدار (پاؤ) پاس - دار، نگہبان، طرفدار -
 پاسداری (پاؤ) پاس - داری، نگہبانی، طرفداری -
 پاسک (پاؤ) پاس، سنگ، انگریزی، جھانی -
 پاسنگ (پاؤ) سنگ، دن، برابر کرنے کا تڑا دکا پتھر -
 پاسہ (پاؤ) سنہ، اندرہ، بنگلی، تاسہ -
 پاسیدن (پاؤ) سنی، دن، چھپائی کرنا -
 پاسش (پاؤ) پاس، چھڑکنے والا -
 پاسشاہ (پاؤ) شاہ، ایک اعلیٰ تر کی خطاب -
 پاسشال (پاؤ) پاس، چھڑکنے والا، چھڑکنا ہوا -
 پاسش پاس (پاؤ) پاس، چور چور -
 پاسشندہ (پاؤ) پاسش، ڈہ، چھڑکنے والا -
 پاسشنگ (پاؤ) پاسشنگ، بیوکلومی، تری، دیبرہ -
 پاسشندہ (پاؤ) پاسش، رتہ، ایشی، کلومی، خربزہ، تریوڑ -
 پاسشندہ کوہ (پاؤ) پاسش، رتہ، کوہ، پیچھا کرنے والا -
 پاسشیدن (پاؤ) پاسش، دن، چھڑکنے، کھینا، منظم
 پاسشندہ
 پاسشیدن (پاؤ) پاسش، دن، چھڑکنے کے لائق -
 پاسشیدہ (پاؤ) پاسش، ڈہ، چھڑکا ہوا، کھیرا ہوا -
 پاسغرد (پاؤ) غر، انڈیا، پاؤں سونے کی بیماری -
 پاسغیدہ (پاؤ) غر، ڈہ، رتی کا گالا -
 پاسغوش (پاؤ) غوش، غوط، ڈبکی -
 پاسک (پاؤ) پاس، بے گناہ، پورا، تمام مکالم -
 پاسکار (پاؤ) پاس، چراسی، پیادہ، خدمتگار -
 پاسکارڈ (پاؤ) پاس، بارڈ، ایماندار، نیک -
 پاسکارڈی (پاؤ) پاس، بارڈی، ایماندار، نیکی

پاکدامن دیکھا۔ ڈاکٹر، نیک چین۔	پاکدامن دیکھا۔ ڈاکٹر، نیک چین۔
پاکدامنی دیکھا۔ ڈاکٹر، نیک چین۔	پاکدامنی دیکھا۔ ڈاکٹر، نیک چین۔
پاککوب دیکھا۔ گوب، رقاص، رقاصہ۔	پاککوب دیکھا۔ گوب، رقاص، رقاصہ۔
پاکگونی دیکھا۔ گونی، تاج، شخص۔	پاکگونی دیکھا۔ گونی، تاج، شخص۔
پاکگی دیکھا۔ گی، ایسے گناہی، صفائی، استرہ۔	پاکگی دیکھا۔ گی، ایسے گناہی، صفائی، استرہ۔
پاکگینہ دیکھا۔ گینہ، ڈگنی، صفائی، پاک۔	پاکگینہ دیکھا۔ گینہ، ڈگنی، صفائی، پاک۔
پاکگیزہ دیکھا۔ گیزہ، پاک، صاف۔	پاکگیزہ دیکھا۔ گیزہ، پاک، صاف۔
پاکلا دیکھا۔ پاک، کوش، گھوڑا۔	پاکلا دیکھا۔ پاک، کوش، گھوڑا۔
پاکلان دیکھا۔ پاکلان، لند، جانور کی کاٹھی۔	پاکلان دیکھا۔ پاکلان، لند، جانور کی کاٹھی۔
پاکلانی دیکھا۔ لانی، پارکن، ٹو۔	پاکلانی دیکھا۔ لانی، پارکن، ٹو۔
پاکلاندین دیکھا۔ لاندین، کچی، کچی، دیکھو پاؤدن۔	پاکلاندین دیکھا۔ لاندین، کچی، کچی، دیکھو پاؤدن۔
پاکلاندیہ دیکھا۔ لاندی، صاف کیا ہوا۔	پاکلاندیہ دیکھا۔ لاندی، صاف کیا ہوا۔
پاکلانی دیکھا۔ لانی، صاف کرنا والا، زیادہ کرنے والا۔	پاکلانی دیکھا۔ لانی، صاف کرنا والا، زیادہ کرنے والا۔
پاکلفظ دیکھا۔ لفظ، جرم، خطا، ظلم، پاؤں۔	پاکلفظ دیکھا۔ لفظ، جرم، خطا، ظلم، پاؤں۔
پاکلے کی جگہ۔	پاکلے کی جگہ۔
پاکلانہ دیکھا۔ لگانہ، پاسنگ، بالاخانہ، کھڑکی، جھردکا۔	پاکلانہ دیکھا۔ لگانہ، پاسنگ، بالاخانہ، کھڑکی، جھردکا۔
پاکلوند دیکھا۔ لوند، صاف کرنا، سفیم، پاکلاندیہ۔	پاکلوند دیکھا۔ لوند، صاف کرنا، سفیم، پاکلاندیہ۔
پاکلوندی دیکھا۔ لوندی، صاف کرنے کے لائق۔	پاکلوندی دیکھا۔ لوندی، صاف کرنے کے لائق۔
پاکلوندہ دیکھا۔ لوندہ، ایک کھلنے کا نام، صاف کیا ہوا۔	پاکلوندہ دیکھا۔ لوندہ، ایک کھلنے کا نام، صاف کیا ہوا۔
پاکلوش دیکھا۔ لوش، ناقص، کاؤر۔	پاکلوش دیکھا۔ لوش، ناقص، کاؤر۔
پاکلومہ دیکھا۔ لومہ، گونہ، صافی۔	پاکلومہ دیکھا۔ لومہ، گونہ، صافی۔
پاکلنگ دیکھا۔ لنگ، پاک، ڈور۔	پاکلنگ دیکھا۔ لنگ، پاک، ڈور۔
پاکلین دیکھا۔ لین، کون، پاک کرنا، ڈھونڈنا، سفیم، پاکلند۔	پاکلین دیکھا۔ لین، کون، پاک کرنا، ڈھونڈنا، سفیم، پاکلند۔
پاکلیز دیکھا۔ لیز، خرینہ، تر، زخمیرہ، کاکھیت۔	پاکلیز دیکھا۔ لیز، خرینہ، تر، زخمیرہ، کاکھیت۔
پاکپام دیکھا۔ پام، دیکھو نام۔	پاکپام دیکھا۔ پام، دیکھو نام۔
پاکپال دیکھا۔ پال، ارد، نہ، صہیت، زہ۔	پاکپال دیکھا۔ پال، ارد، نہ، صہیت، زہ۔
پاکپالی دیکھا۔ پالی، صہیت، صہیت۔	پاکپالی دیکھا۔ پالی، صہیت، صہیت۔
پاکرد دیکھا۔ رد، مستحق، مہمت۔	پاکرد دیکھا۔ رد، مستحق، مہمت۔
پاکردی دیکھا۔ ردی، استقلال، مہمت، مضبوطی۔	پاکردی دیکھا۔ ردی، استقلال، مہمت، مضبوطی۔
پاکزد دیکھا۔ زد، دیکھو پھر کرکمانی، ہونی نزدوری۔	پاکزد دیکھا۔ زد، دیکھو پھر کرکمانی، ہونی نزدوری۔
پاکزیدہ دیکھا۔ زید، دیکھو پھر کرکمانی۔	پاکزیدہ دیکھا۔ زید، دیکھو پھر کرکمانی۔
پاکزان دیکھا۔ زان، ڈاکٹر، پٹاری، پٹاری۔	پاکزان دیکھا۔ زان، ڈاکٹر، پٹاری، پٹاری۔
پاکزودہ دیکھا۔ زود، پند، (۱۵)۔	پاکزودہ دیکھا۔ زود، پند، (۱۵)۔
پاکزودہم دیکھا۔ زودہم، پندر، صوفان۔	پاکزودہم دیکھا۔ زودہم، پندر، صوفان۔
پاکزوتہ دیکھا۔ زوتہ، پندر، ننگہ۔	پاکزوتہ دیکھا۔ زوتہ، پندر، ننگہ۔
پاکزورق دیکھا۔ زورق، حاشیہ کے پھول، صحن کا پہلا لفظ۔	پاکزورق دیکھا۔ زورق، حاشیہ کے پھول، صحن کا پہلا لفظ۔
پاکزنگہ دیکھا۔ زنگہ، دیکھو پائینگ۔	پاکزنگہ دیکھا۔ زنگہ، دیکھو پائینگ۔
پاکزنگہ دیکھا۔ زنگہ، ڈاکٹر، مضبوط۔	پاکزنگہ دیکھا۔ زنگہ، ڈاکٹر، مضبوط۔
پاکزنگی دیکھا۔ زنگی، برسی، مضبوطی۔	پاکزنگی دیکھا۔ زنگی، برسی، مضبوطی۔
پاکزنگان دیکھا۔ زنگان، دان، جوتے، آمارنے کی جگہ، پاؤں رکھنے کی جگہ، صاف، پتھان، رہن، ایچی، گری۔	پاکزنگان دیکھا۔ زنگان، دان، جوتے، آمارنے کی جگہ، پاؤں رکھنے کی جگہ، صاف، پتھان، رہن، ایچی، گری۔
پاکزیدہ دیکھا۔ زید، ٹہرنے والا۔	پاکزیدہ دیکھا۔ زید، ٹہرنے والا۔
پاکزیدین دیکھا۔ زیدین، دن، ٹہرنے، سفیم، پاکیزہ۔	پاکزیدین دیکھا۔ زیدین، دن، ٹہرنے، سفیم، پاکیزہ۔
پاکزیدنی دیکھا۔ زیدنی، ٹہرنے کے لائق۔	پاکزیدنی دیکھا۔ زیدنی، ٹہرنے کے لائق۔
پاکزیدہ دیکھا۔ زید، ٹہرنے والا۔	پاکزیدہ دیکھا۔ زید، ٹہرنے والا۔
پاکزیز دیکھا۔ زیز، نشان کا موسم۔	پاکزیز دیکھا۔ زیز، نشان کا موسم۔
پاکزین دیکھا۔ زین، زبر، پائین۔	پاکزین دیکھا۔ زین، زبر، پائین۔
پاکزی دیکھا۔ زی، دیکھو یا۔	پاکزی دیکھا۔ زی، دیکھو یا۔
پاکزیاب دیکھا۔ زیاب، گھاٹ، پھر ڈھاڑ، تھلا پانی۔	پاکزیاب دیکھا۔ زیاب، گھاٹ، پھر ڈھاڑ، تھلا پانی۔
پاکزیان دیکھا۔ زیان، کسارہ، انتہا، آخ۔	پاکزیان دیکھا۔ زیان، کسارہ، انتہا، آخ۔
پاکزیان کادہ دیکھا۔ زیان، کادہ، آخکار۔	پاکزیان کادہ دیکھا۔ زیان، کادہ، آخکار۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، کسارہ، بیکار، منتظر۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، کسارہ، بیکار، منتظر۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، پاکمال۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، پاکمال۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، راجہ صفائی۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، راجہ صفائی۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، جام، شراب۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، جام، شراب۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، منہ، مہم برداری۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، منہ، مہم برداری۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، پاکمال۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، پاکمال۔
پاکزیست دیکھا۔ زیست، کسارہ، منتظر۔	پاکزیست دیکھا۔ زیست، کسارہ، منتظر۔

پای سنج (پا سنج) - زن سنج، رودیہ جو مشن کی شرکت کیسے ہے۔

پایک (پا سنج) - پایادہ۔

پای کاری (پا سنج) - کاروان عمارتی سامان رکھنے کی جگہ پایک کاشت (پا سنج) - کاشت، خیر گاہوں میں کاشت کرنے والا۔

پا سنج کلاس (پا سنج) - عمارتی خطہ کیلئے۔

پا سنج کوئی (پا سنج) - کوئی، دیکھو پا کوئی۔

پا سنج (پا سنج) - رتبہ، منزلت، پایا یا، امپلس۔

پا سنج کی (پا سنج) - کنگی، مضبوطی۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، استوار، گھرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - رتبہ، عمار۔

پا سنج (پا سنج) - رتبہ، آرسی۔

پا سنج (پا سنج) - نرم چیز، لیسی، اچھوئی، آہار۔

پا سنج (پا سنج) - کھن، ہتھوڑا۔

پا سنج (پا سنج) - گیسٹ، چینی۔

پا سنج (پا سنج) - کھڑکی، روشن دان۔

پا سنج (پا سنج) - راز، اوڈھ۔

پا سنج (پا سنج) - زہ، آنت، بلا، سکر، حیدر، رازک عورت۔

پا سنج (پا سنج) - زہ، گھناؤنی چیز۔

پا سنج (پا سنج) - چراغ کی جی۔

پا سنج (پا سنج) - جگہ، جگہ نام، مضبوط۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - مضبوط (پا سنج) - مضبوطی۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پا سنج (پا سنج) - کوشش، کوشش کرنے والا۔

پہریشنگاہ (پہرس - تیشنگاہ) بوجھ کی جگہ۔

پہرسنگ (پہرس - سنگ) ابابیل، دیوالی۔

پہرسقن (پہرس - سن) دیکھو بہرسقن۔

پہرسندھ (پہرس - تھ) ڈھ، بوجھنے والا۔

پہرسنٹو، پھسٹوک (پہرس - ٹو، پھرس - ٹوک) / باہیل۔

پہرسٹی (پہرس - ٹی) منسوب بہ بہرسٹ۔

پہرسٹیدن (پہرس - ٹی - دن) پونجا منم پکڑ سٹند۔

پہرسٹہندی (پہرس - ٹی - ڈنی) بوجھنے کے لاتی۔

پہرسٹیدہ (پہرس - ٹی - ڈہ) پوجا ہوا۔

پہرسٹش (پہرسٹش) پوجھ۔

پہرسٹم (پہرس - ٹم) پلٹین، خشکی، عوانہ

پہرسندھ (پہرس - ڈہ) بوجھنے والا۔

پہرسندھ (پہرس - ڈہ) دیکھو بہرسا۔

پہرسی (پہرس - سی) منسوب بہ بہرس۔

پہرسیا و شان (پہرس - سیا - شان) ہنہرچ،

شراہن۔

پہرسیدن (پہرس - ڈی) پوجھنا منم پکڑ سٹند۔

پہرسیدنی (پہرس - ڈی - ڈنی) پوجھنے کے لاتی۔

پہرسیدہ (پہرس - ڈہ) پوجھا ہوا۔

پہرسٹکستہ (پہرس - ٹکسٹ) ڈھ، ڈھانے کو بہرتولے

بوجھنے کو پھوٹا ہوا۔

پہرغالہ (پہرس - غا - لہ) بہرکالہ۔

پہرقالہ (پہرس - قا - لہ) ڈھ، موقع۔

پہرکالہ (پہرس - کا - لہ) دائرہ کھینچنے کا اوزار، حلقہ

زمانہ (پہرس - کا - لہ) حیار، موٹا۔

پہرکارہ (پہرس - کا - رہ) دیکھو بہرکالہ۔

پہرکاری (پہرس - کاری) حیارسی، موٹا پٹا۔

پہرکالی (پہرس - کا - لی) حصہ، ٹکڑا۔

پہرگندگی (پہرس - گن - گی) دیکھو بہرگندگی۔

پہرگندہ (پہرس - گن - ڈہ) دیکھو بہرگندہ۔

پہرگندہ (پہرس - گن - ڈہ) علاقہ تفصیل کا ایک حصہ، جم پکڑ لگات

پہرگو (پہرس - گو) بہت زیادہ کہنے والا۔

پہرگونی (پہرس - گونی) بہت زیادہ کہنا۔

پہرمل (پہرس - مل) سکا، مرغابی۔

پہرسمیڈ (پہرس - میڈ) سوزاں۔

پہرل (پہرس - ل) آڑنا ہوا۔

پہرسن (پہرس - سن) دیکھو بہرسا۔

پہرند (پہرس - ن) پھریا، اتوار کا جوہر، جنگلی ککڑی،

ریشم سادہ، ریشمی کپڑا، پھرن (ڈا) اڑنیوالا جانور، پکھیر۔

پہرندہ (پہرس - ڈہ) اڑنے والا، پکھیر، اڑنیوالا جانور۔

پہرشیال (پہرس - شیال) نقشین، ریشمی کپڑا۔

پہروا (پہرس - وا) ذہت، توجہ، ڈھ، ضرورت۔

پہروا (پہرس - وا) ڈھانڈا اور بہرآرام مویشی

خانہ، گھر۔

پہروارہ (پہرس - وارہ) اڑنا، ٹھیک، گھمراہ۔

پہرواری (پہرس - واری) منسوب بہ بہروارہ۔

پہرواڑ (پہرس - واڑ) اڑنا، اڑنے والا۔

پہرواڑی (پہرس - واری) ڈھ، ڈھانے کو بہرواڑ۔

پہرواسیدن (پہرس - وی - دن) دم کرنا، ہانپنا۔

پہروانگ (پہرس - وانگ) ایک جانور جو شیر کے

آگے بولتا جھنسا ہے۔ بہروانگ کی تصنیف، چھٹا سیروانہ۔

پہروانگی (پہرس - وانگی) اجازت، حکم۔

پہروانہ (پہرس - وانہ) ڈھ، اجازت، حکم، جوہر، ڈھانڈا

ایک بہروانگ، ہشتک، بہروانگ۔

پہروبال (پہرس - وبال) موت، پیرا، بارو۔

پہرور (پہرس - ور) پالنے والا۔

پہرور (پہرس - ور) دیکھو بہرورہ۔

پہرورگار (پہرس - ور - گار) پالنا، ڈھانڈا۔

پہرورن (پہرس - ور - ن) پھریا، اتوار کا جوہر، پکھیر،

پہرورن (پہرس - ور - ن) پھریا، اتوار کا جوہر، پکھیر،

پہرورہ (پہرس - ور - ڈہ) ڈھانڈا۔

پہرورش (پہرس - ورش) پال، پوس۔

پوزمی (پوزمی) محوڑے کا ایک ساز۔

پوزیدین (پوزی) بڑی (بڑی) عذر کرنا، سزوت کرنا۔

پوست (پوسٹ) جھلکا، گھسا، غیبت، بگڑی، کوکنا

پوست تختہ (پوسٹ) تختہ، برگ جھالا۔

پوست خانہ (پوسٹ) تختہ، ڈاکخانہ

پوست خندہ (پوسٹ) تختہ، زیر سرکاپٹ۔

پوست کندہ (پوسٹ) تختہ، ظاہر، صاف، جھلکا آرا ہوا۔

پوستال (پوسٹ) سال، چتر، مڑھی جوتی چیز۔

پوستہ (پوسٹ) تختہ، ڈاک۔

پوسٹین (پوسٹ) تختہ، کھال، کاکوٹ، بگڑی۔

پوش (پوش) غلاف، زرہ، جوش، اچھلانے

دلانا، پینے والا۔

پوشاد (پوش) پینے والا، پینے ہوئے ہونا۔

پوشاک (پوش) پینا، لباس۔

پوشا نہیں (پوش) پینا، ڈھکا۔

پوشش (پوش) پینا، لباس، پینا۔

پوشک (پوش) پینا، تانہ، سوزا، جہ۔

پوشندہ (پوش) پینے والا، چھانے والا۔

پوشندی (پوش) پینا، چھاننا۔

پوشیدین (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا، چھاننا۔

پوشیدنی (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشیدہ (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشہ (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشہ دار (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشک (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوش (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشا (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشا (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پوشا (پوش) پینا، پینا، چھاننا، چھاننا۔

پولاد (پول) لڑائی، دیکھ، فولاد۔

پول سفید (پول) سفید، چاندی کا سکہ۔

پول سیاہ (پول) سیاہ، تانبے کا سکہ۔

پول کا غدڑی (پول) گا۔ غدڑی، کرنسی نوٹ۔

پولہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولین (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیا (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیا (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پولیندہ (پول) لڑائی، لڑائی اور لڑائی۔

پیشیناں (پے شی۔ نان) پیشیناں کی جمع ذمی رزق اگلے دوگ۔

پیشاوارہ (پئی۔ غا۔ رُہ، طعنہ، سرداش۔

پیشالہ (پئی۔ غا۔ بڈ، جام شراب۔

پیشام (پئی۔ غام، دیکھو پیام۔

پیشامبر (پئی۔ غام، بڑا، دیکھو پیامبر۔

پیشامبری (پئی۔ غام۔ بڑی، دیکھو پیامبری۔

پیشانہ (پئی۔ غا۔ بڈ، دیکھو پتانہ

پیشمبر (پئی۔ غم۔ بڑا، ایچی، رسول۔

پیشمیری (پئی۔ غم۔ بڑی، رسالت، ایچی گرمی۔

پیشلہ (پئجھ۔ کڈ، بیزا، اخزانہ، گوشہ۔

پیشولہ (پئی۔ غم۔ کڈ، گوشہ، کوند۔

پیک (پیک، قاعد۔

پیکار (پئی۔ کار، طراتی، جنگ۔

پیکال (پئی۔ کان، تیر بارجمی کی آتی۔

پیشگانی (پئی۔ کا۔ بی، ایک قسم کا صل، ایک قسم کا

یاقت، ایک قسم کا فوشار۔

پیکر (پئی۔ کر، شکل، جسم، پہرہ۔

پئی کروں (پئی۔ کر۔ دن، سوچ کا دینا۔

پیل (پیل، دیکھو فیل۔

پیلیا (پیل۔ بنا۔ کر، مکرنہ، پٹکا، پیچی۔

پیلیان (پیل۔ بیان، دیکھو فیلیان۔

پیل پا (پیل۔ پیا، دیکھو فیلیا۔

پیلیا پی (پیل۔ پیا، پیک، کھم، ستون۔

پیل تن (پیل۔ تن، اٹھی کی مانند جسم والا۔

پیل تنی (پیل۔ تن، اٹھی کی مانند جسم ہونا۔

پیلستہ (پئی۔ سٹ۔ پٹ، اٹھی دانٹ۔

پیشمال (پیل۔ مال، اٹھی سے روز دانی، پاشمال

پیشمر (پیل۔ مر، رخ، دیکھو فیلمرا۔

پیلوا (پئی۔ وا، درافروش

پیلہ (پئی۔ کڈ، ریشم کا کپڑا یا کوپہ۔

پیلہ و (پئی۔ کڈ۔ کڑ، طیبیا، درافروش

پیکار (پئی۔ تا، تاپنے والا۔

پیشاب (پئی۔ ساق، دلالہ، مہد، سوگند،

پیشال (پئی۔ ساق، پیکتین، عسب، کڑوا

پیشانہ (پئی۔ تا۔ بڈ، تاپنے کا آلہ۔

پیشائی (پئی۔ تا، بھئی، شوب بہ پیا۔

پیشائیں (پئی۔ تا۔ پش، تاپ۔

پیشاندہ (پئی۔ تا۔ پش۔ بڈ، تاپنے والا۔

پیشمبر (پئی۔ بڈ، دیکھو پیغمبر۔

پیشمیری (پئی۔ بڈ، دیکھو پیغمبری۔

پیشمول (پئی۔ موت۔ دن، تاپنا، صم، پٹکا پیر۔

پیشوہ (پئی۔ موت۔ بڈ، تاپنا، حوا۔

پیشوہ (پئی۔ موت۔ بڈ، دیکھو پیانہ۔

پیشک (پئی۔ پشکی، کٹ، پئی، کٹی، ادنگ۔

پیشو (پئی۔ کڈ، شک کی بونی دبی۔

پیشہ (پئی۔ بڈ، پیوند، اٹھی، غمشہ، کام کی کڑن سے

پاش پان کا کھر درپن۔

پیشو پش، نارو کی بیماری، مٹی کا ڈھیلا۔

پیشوست (پئی۔ وس۔ ت، جذب، جوڑنا

پیشوس (پئی۔ وس۔ ت، جلا، ہوا، بڑائی،

پیشوسکی۔

پیشوستن (پئی۔ وس۔ تن، اٹھا، بلانا، جوڑنا

پیشوستم (پئی۔ وس۔ ت، پش، کڈ۔

پیشوسنی (پئی۔ وس۔ تن، اٹھی، پنے کے لابن، پوڑیک، لابن۔

پیشوستہ (پئی۔ وس۔ ت، جلا، ہوا، کھاتا،

پیشوش۔

پیشو (پئی۔ وس۔ ت، جوڑ، کھاتا۔

پیشوی (پئی۔ وس۔ ت، عروسی۔

پیشہ (پئی۔ وس۔ ت، جوڑ، پش، پش، تاس۔

پیشہم (پئی۔ پش، کھاتا۔

تاسع عشر دکان - قشیر، انیسون (پلو) -
 تاسف دکان - آس، مسف، انیسون، گھانا -
 تاسنہ (تاسنہ) بیکل اسائن کی آواز، خرافہٹ -
 تاسی دکان - آس، بونی، اطاعت، پیروی -
 تاسیس دکان - سبیش، بنیاد، جڑ، مضبوطی -
 تاش دکان (تاش) خداوند، شریک، دوست، گنجھ -
 تاشقند دکان (تاش) تین نام شہر دردی ترکستان،
 تاشکل دکان (تاش) بیکل، مسہ، آؤرخ -
 تاصل دکان - آف، صحت، جڑ پودنا -
 تاسخ دکان، تاسخ کا پتھر، پھاڑ -
 تاسفہ دکان - حق، عادل، نمونہ -
 تاسخی دکان - چنی، روگردان، نامزدان -
 تاسفتن دکان - تین، چھٹا، بننا، پھیرنا، سف
 تاسکیر -
 تاسفتی دکان - تین، چھٹے کے قابل -
 تاسفہ دکان - تہ، پشاموا، پشکا ہوا -
 تاسیف دکان - ذہین، آس، کتنا -
 تاسی دکان - قی، کلاہ، ٹوٹی -
 تاسک دکان، انگور کی بیج -
 تاسکیر دکان - گنا، کہاں تک -
 تاسکیر دکان - گڑ، مسفرہ ہونا -
 تاسکستان دکان - کین، تان، انگور کا باغ -
 تاسکیر دکان - کین، چنگی، مضبوطی، بار بار کہنا -
 تاسلاب دکان (تاس) تال -
 تاسلار دکان - لڑ، منڈ، اکھیت کی کمانڈ -
 تاسالان دکان - کان، لوٹ، تاراج -
 تاسلاو دکان - لاد، دیکھو تالاب -
 تاسلد دکان - لڈ، پڑانا مال -
 تاسلف دکان - آس، لغت، دوستی،
 سازگار سی -
 تاسلف دکان - آس، تین، چھٹا -

تاسلم دکان - آس، کلم، ورد پانا -
 تاسل مال دکان - تاسل، دیکھو تار مار -
 تاسلہ دکان - آس، کلم، حق پرستی -
 تاسلی دکان - آس، کلم، قائم مقام، پیرو
 تاسر کھانا -
 تاسلیف دکان - لیف، صحت، ارباب، قلم کا جوہر،
 جہنگل، لٹھکات، لغت، ڈان، زبرد، دینا، ملانا -
 تاسم دکان - تسم، پورا، تمام، کامل، جم، تانگت
 تاسل دکان - آس، کلم، سوچ، بچار، اندیشہ -
 تاسول دکان - تاسول، دیکھو تبول -
 تاسمد دکان - مہ، تمام، کامل، پورا، جم، تانگت -
 تاسمیل دکان - سیکل، امید رکھنا -
 تاسمین دکان - مین، آس، کتنا -
 تاسن دکان - تجمو، تجمو، جولا، کاتانا -
 تاسنول دکان - نول، دیکھو تبول -
 تاسن دکان - آس، کلم، عادت، چٹا، صحت، کرا -
 تاسلف دکان - آس، کلم، شرم، کرنا، مار کھا -
 تاسلفی دکان - آس، کلم، تیب سے دیکھنا -
 تاسنی دکان - آس، کلم، دیر، تاسخیر -
 تاسنیش دکان - نیش، مادہ، مادہ پن -
 تاسنیش دکان - نیش، عادت، تان، صحت، کرنا -
 تاسو بتاتو، دیکھو تاساب -
 تاسولان دکان - آس، کلم، جہاں -
 تاسوالی دکان - کرا، تین، محبوب، بہادان -
 تاسو دکان - آس، کلم، آہ، چھیننا -
 تاسویل دکان - ویل، تعبیر، خراب، ظاہر سے پھر
 دوسرے معنی پہنانا -
 تاسہ دکان - آس، کلم، تہ، تاسی -
 تاسہب دکان - آس، کلم، آس، کلم، مستعدی -
 تاسیل دکان - آس، کلم، بوی کرنا، گھوڑنا -
 تاسیم دکان - تسم، نیز، تسمی، باوجود -

تتری (تشریحی) منسوب بہ تانار دشت - کرا، آگے
 تریکے بید دیگے۔
 تری (تشریح) بڑی چاور، سرا پرہ۔
 تریہ (تشریح) آخر لقیہ۔
 تریہیم دشت - بہمن، تمام کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت (ن) تریہ کو۔
 تریہ (تشریح) دشت - دیکھ، تا چوشی۔
 تریہ (تشریح) دشت، گل، گرائی خاطر، گرانبار ہونا۔
 تریہ (تشریح) دشت، آب، جھائی۔
 تریہ (تشریح) دشت، ریش، سرزنش کرنا، لامنت کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، گل، گرانبار ہونا۔
 تریہ (تشریح) دشت، ریش، برمانا۔
 تریہ (تشریح) دشت، گرانبار کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، ریش، مین صہ کرنا، تین کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، مینہ، پینا، نفع پانا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، آٹھ سو پورنا، مہلت گوشہ کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، شرجانا، پھر جانا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، دگنا، دو کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، لڑائی مہر کا نا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، تاجری کی جھنجھاڑ، بڑا سوداگر
 دتھاڑ، پھیراجس بر سواری نہ ہوتی ہو۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، تجربہ کی جھنجھاڑ،
 آپس میں آزمانا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، بیو بار، بیو پار۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، دیر کرنا، جبارت کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، ہنشین ہونا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، اولد ہنا، اولد ہنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، ہم جنس ہونا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، آپس میں میل کرنا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، کسی چیز سے دور ہونا۔
 تریہ (تشریح) دشت، مین، بڑی کرنا، بڑی ہونا۔

تجلا (تشریح) دشت، مین، گزرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، کوشش کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، دانستہ دیکھنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، سرکشی کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، دنیا ہونا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، از سر نو کرنا، نیا کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، کانفرنس کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، دیکھو تجارت۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، آزمانا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، ریش، ہم تجلا کرنا، آزمانا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، گرانبار ہونا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، برمانا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، گرانبار کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، تین کرنا، تین کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، مین، پینا، نفع پانا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، آٹھ سو پورنا، مہلت گوشہ کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، شرجانا، پھر جانا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، دگنا، دو کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، لڑائی مہر کا نا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، تاجری کی جھنجھاڑ، بڑا سوداگر
 دتھاڑ، پھیراجس بر سواری نہ ہوتی ہو۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، تجربہ کی جھنجھاڑ،
 آپس میں آزمانا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، بیو بار، بیو پار۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، دیر کرنا، جبارت کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، ہنشین ہونا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، اولد ہنا، اولد ہنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، ہم جنس ہونا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، آپس میں میل کرنا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، کسی چیز سے دور ہونا۔
 تجلا (تشریح) دشت، مین، بڑی کرنا، بڑی ہونا۔

تجلید در تکیہ، گداز، جدی کرنا، پھرتی دکھانا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، محمول پڑھانا، آجانا، روشن
 اور آشکارا کرنا۔
 تجلی (تجلی کرنے، تجلی لانا) جھکنا، روشنی،
 ملبہ کرنا۔
 تجلیات (تجلیات) تجلی کی جگہ روشنیاں۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، جلد باندھنا، کھال اتارنا۔
 تجلیش در سجہ - تجلی، بال موڑنا، باریک آواز نکالنا۔
 تجلیج (تجلیج) فراہم ہونا۔
 تجلیج (تجلیج) اصل، آرائش کرنا، ٹھانڈا دکھانا۔
 تجلیات (تجلیات) تجلی، فرخندہ سرسماں آرائش۔
 تجلیج (تجلیج) آئینہ، دور ہونا، الگ تھلک ہونا۔
 تجلیج (تجلیج) آئینہ، دور ہونا، لفظ غیر وار پھرانا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، شکر کرنا۔
 تجلیس در سجہ - نہیں، ہم جس کرنا، یکساں کرنا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، صیغہ تلفظ اور کرنا، جیسا کہ بات کرنا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، رائے دینا، جانز کرنا، جانز رکھنا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، لفظ، بالفصد مہو کار رکھنا۔
 تجلیف در سجہ - ریدہ، کھوکھلا کرنا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، کام پر تادہ ہونا۔
 تجلیہ در سجہ - ریدہ، سرسامان، چہیز تیار کرنا، کفن
 دفن کا بندوبست کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، آپس میں بحث کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، آپس میں باتیں کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، قربت، باہم ملنا۔
 تجلاب و تجلیات، آپس میں حسد کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، سہمی، آپس میں مینا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، الگ ہونا، یکسو ہونا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، نیک ہونا، جدا ہونا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، حکم، باہم حکم کے نزدیک ہونا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، آپس میں ہلف، اٹھانا۔

تجلیاں (تجلیاں) پرہیز کرنا، اپنے کو نگاہ رکھنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، آپس میں گفتگو کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، ہفت کی حج۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، زیر تیغ۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، زیر زمین۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، شہسوار، ہیند کے وہ آغزیاں
 تین دن جن میں چاند نہیں نکلتا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، خانگہ، علامہ کا بیچ
 ٹھوڑی کے تیغ۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، ذرا، تہوہ یا چاے کے
 ساتھ کھانے کی چیز۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، لفظ، لفظ، زبانی
 لفظ بہ لفظ۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، منسوب بہ تبت، نیچر والی یا دالا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، واجب ہونا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، پھرنے جانا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، کسی چیز کا ہونا یا نکالنا، چوستا،
 کھینچنے لگانا، بازار کھنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، چیرا، چاند کا ہلہ چرنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، تختہ، تختہ، تختہ، دیدن
 بات کہنا، خبر کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، رٹائی کرنا، الا لارنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، آبروانا، اور پکا کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، حد لگانا، حد باندھنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، نیز کھینا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، ڈرنا، ڈرانا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، عقلمندی کا دعویٰ کرنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، پرہیز کرنا، نوپر تاجا اور رکھنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، اجلا ہونا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، ہٹنا۔
 تجلاب و تجلیات، تجلاب و تجلیات، حرمت، رکھنا۔

تحریف درج - بربط، عهد دلانا، عمارت بنانا۔
 تحریف درج - بربط، لکھائی، نقش، سج، شکار، تیر، محراب، راج، کھانا
 تحریف درج - بربط، لوگوں میں سہ رُو آنا۔
 تحریف درج - بربط، ابلج، دلانا، شغف میں دلانا۔
 تحریف درج - بربط، جنگ پر آمبارنا، دغا لانا۔
 تحریف درج - بربط، بات کا نقل بدلنا۔
 تحریف درج - بربط، بہت دلانا۔
 تحریف درج - بربط، متغیر، پوشش، حرکت، کھانا۔
 تحریف درج - بربط، منظم کرنا، حرام کرنا۔
 تحریف درج - بربط، مہر، بھیر، نیت نماز۔
 تحریف درج - بربط، ریزہ، تیز کرنا۔
 تحریف درج - بربط، زین، انگریز کرنا، مزین، آواز سے پڑھنا۔
 تحریف درج - بربط، صحت کرنا، آسوس کرنا۔
 تحریف درج - بربط، حسرت میں دلانا، آزردہ کرنا۔
 تحریف درج - بربط، سر ہانا، تریف کرنا۔
 تحریف درج - بربط، شہ، عہد، دکھانا، نوک چا کر دلا ہونا۔
 تحریف درج - بربط، اہل دیہات کو لفظ پورا نہ دینا۔
 تحریف درج - بربط، حاشیہ لکھنا۔
 تحریف درج - بربط، نقد بند ہونا۔
 تحریف درج - بربط، گھیر گیا، احاطہ کیا گیا۔
 تحریف درج - بربط، اپنا، حاصل کرنا، حج کرنا۔
 تحریف درج - بربط، لانا، تحصیل کی جگہ،
 تحصیل جو تحصیل کی جگہ ہے۔
 تحریف درج - بربط، شہر بنا ہوا۔
 تحریف درج - بربط، درغلانا، برا بیگمہ کرنا۔
 تحریف درج - بربط، خوبی، تحفہ۔
 تحریف درج - بربط، نادر، افواہ، سو فائدہ جو تحائف
 تحریف درج - بربط، حقیقت۔
 تحریف درج - بربط، ہر بانی دکھانا۔

تحریف درج - بربط، یاد کرنا۔
 تحریف درج - بربط، ثابت ہونا، درست ہونا۔
 تحریف درج - بربط، ذلیل کرنا، حقیر کرنا۔
 تحریف درج - بربط، کھوت، کھوت، تم، حقیقت ہونا،
 حقیقت جاننا۔
 تحریف درج - بربط، حکمت، حکمت، دکھانا۔
 تحریف درج - بربط، بیگانا، حاکم بنانا۔
 تحریف درج - بربط، لائق، موزوں۔
 تحریف درج - بربط، تہ، شہ میں پانی بھرنا۔
 تحریف درج - بربط، کھل، کھل کرنا، ہوجانا۔
 تحریف درج - بربط، علم، فاسد کرنا، موٹا ہونا۔
 تحریف درج - بربط، زیور ہنا، آراستہ ہونا۔
 تحریف درج - بربط، حلف، آٹھ ہونا۔
 تحریف درج - بربط، لگنے کی جگہ، حق تک بھرنا۔
 تحریف درج - بربط، حلال کرنا، کھلا ڈالنا۔
 تحریف درج - بربط، برہم، بردباری کرنا۔
 تحریف درج - بربط، بیٹھنا، تریف کرنا، زیور ہنا۔
 تحریف درج - بربط، حق، احق ہونا۔
 تحریف درج - بربط، برداشت، بردباری، اٹھانا۔
 تحریف درج - بربط، حاکم، سر ہانا۔
 تحریف درج - بربط، بیل، بالو کا جوڑا باندھنا۔
 تحریف درج - بربط، احق بنانا۔
 تحریف درج - بربط، حوالہ کرنا۔
 تحریف درج - بربط، اپنی خوشنودما، بوجہ دلانا۔
 تحریف درج - بربط، سیدھی راہ چلانا، بہترین
 ذریعہ چلانا۔
 تحریف درج - بربط، ہر بانی کرنا۔
 تحریف درج - بربط، بیٹھنا، ہاتھ روٹنا۔
 تحریف درج - بربط، زور کے خوشنودم در دیکھنا۔
 تحریف درج - بربط، جلدی کرنا، غصہ کرنا۔
 تحریف درج - بربط، ایک سے دوسری جگہ جانا، حوالہ ہونا۔

تخلید (تخل) - زبردستی کسے کسان میں پہنانا -
 تخلید میں (تخل) - لہجہ، خلاص کرنا، چھڑنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، کلام میں باطل ملانا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، اکھاڑ دینا، جدا کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، پیدا کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، اعلان کرنا، سرکردہ کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، حال کرنا، چھڑنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، انجام کار پر فورا، جس میں تخلید۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، چھیننا، پوشیدہ کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، دھواں کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، رفتہ رفتہ کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، برہانا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، عراہ کرنا، تباہ کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، دفنانا، داہنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، باریک کرنا، خوب کوٹنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، خود کو ٹنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، اہم کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، بہت نزدیک ہونا، لگا ہونا، لگانا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، لٹا کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، ہلاکت میں ڈالنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، میلا ہونا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، آہستہ آہستہ نزدیک ہونا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، میلا کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، (فرم سے دیکھنا، کام کی دیکھ بھال کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، شہر دل شہر دل پھرتا، رام کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، گرد پھرتا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، جمع کرنا، لایف کرنا۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، (تخل) - تپان، تپان، تپان، تپان۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، دیانت داری، دیا داری۔
 تخلید (تخل) - لہجہ، تپان، ڈک، ڈک، ڈک، ڈک، ڈک، ڈک۔

تراٹ (تراٹ، تریب کی جم۔

تراٹیدن (تراٹ - رچی - دن) دیکھ تراویں -

تریب (تراٹ، ہمبر، ہجولی جم آٹراٹ۔

تراٹ (تراٹ، ہجولی رخراب، فقیر، خاک آلودگی

جم آٹریب، تراٹیاں -

ترسبت (تراٹین) تیرامٹی، زمین -

ترسب (تراٹ، بچہ) ہوا بیگی ہونا، ترسب ہونا،

چہرہ متغیر ہونا، تراٹ - بچہ، نام دست آور

دوا، شہوت -

ترسب (تراٹ - بچہ) تراٹ، ہندوانہ، بخت -

ترسب (تراٹ - بچہ) سولی رخراب، تراٹ -

ترسب (تراٹ، بچہ) بھیل، امید، راہ دیکھنا -

ترسبت (تراٹ، بچہ) پردوش کرنا، پانا -

ترسب (تراٹ - بچہ) چارھوں میں تقسیم کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) ٹھیک اور راست ہونا -

ترسب (تراٹ - بچہ) تیراٹ، زبردوز -

ترسب (تراٹ، بچہ) سوزوں جگہ پر رکھنا حسب

درجہ ٹھیک کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) آہستہ ادھان کھول کر پھانا -

ترسب (تراٹ، بچہ) پیدل چلنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) دوسری زبان میں مطلب دینا -

ترسب (تراٹ، بچہ) ایک کی بولی دوسری کو بھانے والا

ترسب (تراٹ، بچہ) بی، منسوب لفظ ترسب -

ترسب (تراٹ، بچہ) دوسری زبان میں دینا،

بیان کرنا جم تراٹ -

ترسب (تراٹ، بچہ) امید رکھنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) بزرگ رکھنا، شان رکھنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) غالب ہونا، افزون ہونا، جھلانا -

ترسب (تراٹ، بچہ) انا لفظ دانا الیہ راجوں پر رکھنا

لاپس پھیرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) چھوڑنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) امید دار کرنا، امید دار رکھنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) رنج، غم -

ترسب (تراٹ، بچہ) کوچ کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) مرجا کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) کوچ کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) دم کرنا، ترس رکھنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) اکٹھا ہونا -

ترسب (تراٹ، بچہ) تھکنا، مرجا کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) کوچ کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) پہلی شخصیت قانون سے بالا -

ترسب (تراٹ، بچہ) آسانی کرنا، بھٹ پانا -

ترسب (تراٹ، بچہ) اجازت دینا، دھت دینا -

ترسب (تراٹ، بچہ) نرم بنانا، کاکہ آخروں کرنا -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

ترسب (تراٹ، بچہ) گھنگار -

تشند (تشند) تین ٹیکے لگانا، بھر دہ کرنا۔
 تشند نفسی (تشند) فحش، بیہودہ گوئی۔
 تشند (تشند) سنی ہونا، متعیر ہونا۔
 تشند (تشند) آسنا، مزہ چکھ جانا۔
 تشند (تشند) نیچم، جنت کی ایک نہر۔
 تشند (تشند) بازار دھونڈھنا، خرید و فروخت کرنا۔
 تشند (تشند) دیکھنا، کالا کرنا۔
 تشند (تشند) دوسوں کرنا۔
 تشند (تشند) رنج، جاری کرنا، جاری دیکھنا۔
 تشند (تشند) ڈھیل، ڈھیل کرنا، دعدہ پورا نہ کرنا، فریب دینا۔
 تشند (تشند) دیکھ، اسواک کرنا، دانوں کرنا۔
 تشند (تشند) دین، افتراء سخن آرائی، آراستہ کرنا۔
 تشند (تشند) دینم، غارت کرنا، کار خوار کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، سیدھا کرنا، برابر کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، بے خواب کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، سہل ہونا، آسان ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، سہل کرنا، آسان کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، سیر کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، سیر کرنا، شہر بدر کرنا، جاری کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، پیشہ۔
 تشند (تشند) دینا، آس میں مشابہ ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، ایک، آٹھ، آٹھ دھام، آس میں چھل مل جانا، ایک چیز کو دوسری میں ملانا۔
 تشند (تشند) دینا، آس میں کالی بنانا۔
 تشند (تشند) دینا، شرکت کرنا، ساجھی ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، خود کو شاعر بنانا۔
 تشند (تشند) دینا، خود کو مشغول کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، آس میں، متعل ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، آس میں ٹھکر کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، آس میں مشورہ کرنا۔

تشند (تشند) دینا، عادات، باہم حاضر ہونا، آس میں گراہی دینا۔
 تشند (تشند) دینا، جھگی مارنا۔ جھپٹا مارنا۔
 تشند (تشند) دینا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا۔
 تشند (تشند) دینا، مشابہ ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، قصبہ سے پہلے قصبہ کی ابتدا اٹھانا۔
 تشند (تشند) دینا، مسافر کو پوچھنا، بنانا کے چیکھ جانا۔
 تشند (تشند) دینا، انگلیاں باہم ڈالنا۔
 تشند (تشند) دینا، مشابہ کرنا، مثال دینا۔
 تشند (تشند) دینا، دیکھو غشت۔
 تشند (تشند) دینا، آٹھ، ہمار، ہمار، ہمار۔
 تشند (تشند) دینا، پراگندگی، پریشانی۔
 تشند (تشند) دینا، پھرنے۔
 تشند (تشند) دینا، چھڑ، ہمار تیر کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، تمین پانا، معین ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، (دعا کا رسی، مقرر کرنا، جاننا۔
 تشند (تشند) دینا، سختی، سخت ہونا۔
 تشند (تشند) دینا، ایک حرف کو دوسرے پر لٹکانا۔
 علامت دینا، دستور کرنا، سخت کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، پینا۔
 تشند (تشند) دینا، شریعت پر عمل کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، سورج کے آگے بیٹھنا۔
 تشند (تشند) دینا، بیان کرنا، کھول کر بتانا، بدل کی ساخت بیان کرنا، جھپٹا کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، ریفنا، خدمت شاهی، بزرگی، عزت رکھنا، بزرگ کرنا۔
 تشند (تشند) دینا، ریحی، نات، حلوس۔
 تشند (تشند) دینا، ریحی، شریک کرنا، گوشت دھوپ کرنا۔

اچے کلام میں ملانا، قبول کرنا، خاص کرنا،
 چاہ میں لینا۔
 تصور (تَصَوَّرَ، تَوَصَّرَ) بیلانا۔
 تَضَيَّفَ (تَضَيَّفَ، تَضَيَّفَ) یقین، ایمان ہونا۔
 تَضَيَّقَ (تَضَيَّقَ، تَضَيَّقَ) تنگ ہونا، ضیق میں ہونا۔
 تَضَيَّبَ (تَضَيَّبَ، تَضَيَّبَ) بیخ، ضائع کرنا۔
 تَضَيَّبَتِ (تَضَيَّبَتِ، تَضَيَّبَتِ) تنگ کرنا، ضیق میں کرنا۔
 تَضَابَرَتْ (تَضَابَرَتْ، تَضَابَرَتْ) باہم مطابقت ہونا۔
 تَضَامَنَ (تَضَامَنَ، تَضَامَنَ) آرام کرنا۔
 تَضَادَلْ (تَضَادَلْ، تَضَادَلْ) دست درازی کرنا۔
 تَضَابَرَتْ (تَضَابَرَتْ، تَضَابَرَتْ) تہ بہ تہ ہونا، مطابقت ہونا۔
 تَضَابَرَتْ (تَضَابَرَتْ، تَضَابَرَتْ) مطابقت کرنا۔
 تَضَارَفَتْ (تَضَارَفَتْ، تَضَارَفَتْ) راہ کرنا، راہ پانا۔
 تَضَلَّحَتْ (تَضَلَّحَتْ، تَضَلَّحَتْ) علم، جانکھنا، دانہ بدلنا، چوکا بدلنا۔
 تَضَلَّحَتْ (تَضَلَّحَتْ، تَضَلَّحَتْ) نیم، بچھانا، اٹھیکھنا۔
 تَضَلَّلَتْ (تَضَلَّلَتْ، تَضَلَّلَتْ) غلطی ہونا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) کم کرنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) غلطی بنانا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) آگ بھجنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) نگاہ رکھنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) عین، ملاقا دینا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) ہمارا چرچا کرنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) بیخ، لالچ میں ڈالنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) موع، حکم ماننا، ناراجا بات
 نہ لانا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) دون، عوام کرنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) ابرہنا، ہنسی ہنسانا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) انعام کرنا، احسان رکھنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) پہل کرنا، کلام پرستندہ کرنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) طوق ڈالنا، مطیع کرنا۔
 تَضَلَّغَتْ (تَضَلَّغَتْ، تَضَلَّغَتْ) ذلیل، لبا کرنا۔

تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) پاک ہونا، غسل کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) بہتر، پاک کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) چینی، خوشبو دار ہونا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) چرچا، جری مال لینا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) چینی، مٹی سے طعینا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) چینی، خوشبو دار کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) پیر، برہنوں کو اٹھانا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) پیر، باہم پستی کرنا، آپس میں
 ادا کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) زیرکی اور عقلمندی دکھانا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) علم، فہم سے رونا، جو مال دینا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) سایہ دار، سایہ ڈالنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) عہد کرنا، نگاہ رکھنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) آہیں برابر ہونا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) باہم دشمنی کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) جو بھنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) مرض، جھگڑ کرنا، آمنہ سنے آنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) روز ترہ، جان پہچان،
 آپس میں پہچانا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) باہم زندگی بسر کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) باہم ہربانی کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) چلی، لینا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) ایک دوسرے کے پیچھے آنا، چھٹا کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) باہم عہد و پیمان کرنا، آپس میں
 گرہ باندھنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) بیوقوف کا بچو کہ عقلمند دکھانا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) آؤ۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) لہ، بلند ہوا، اصطلاحاً بلند ہے
 (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) بلند ہونا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) خود کو اندھانا ہر کرنا۔
 تَطَهَّرَ (تَطَهَّرَ، تَطَهَّرَ) آہیں میں مل کرنا

تعیین (تعیین) مخصوص کرنا۔

تغابن (تغابن) گھانا، باہم ٹوٹا دینا۔

تغالی (تغالی) غفلت دکھانا۔

تغادی (تغادی) دینی، فتنہ دسا دیکھنا، کھانا۔

تغاری (تغاری) سنی کی مانند۔

تغاری (تغاری) سنی کا کوٹھڑا چھوٹی ماند۔

تغازل (تغازل) باہم غزل کہنا، باہم مشق کرنا۔

تغافل (تغافل) غل، یہ برداری، دانستہ غفلت کرنا۔

تغافل شعار (تغافل) غل۔ رشکاری، جس کا طریقہ

یہ برداری ہو۔

تغالی (تغالی) ایک دوسرے سے لاپرواہی کرنا۔

تغالی (تغالی) اسی، سامان۔

تغایر (تغایر) فرق، باہم متاثر ہونا۔

تغذی (تغذی) ذمی صبح کا کھانا کھانا۔

تغذیہ (تغذیہ) ذمی، غذا دینا، پالنا۔

تغریب (تغریب) بریب، شہر بدر کرنا، جلا وطن کرنا، غریب بنانا۔

تغریب (تغریب) بریب، غرق کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، تاراج کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غرق کرنا، غزل کہنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغریب (تغریب) بریب، غسل کرنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تغیر (تغیر) دوپہر ڈھلنا۔

تخصیص (تخت) یعنی، خلاصہ کرنا، پاک صاف کرنا۔
 تخریج (تخریج) یعنی، مزہ پانا، لذت پانا۔
 تخلیف (تخلیف) یعنی، ہیرانی، لطف کرنا۔
 تخلیص (تخلیص) یعنی، شعلہ بھڑکانا۔
 تخلف (تخلف) یعنی، غزاف، خیر، پیچھے کا تار۔
 تخلف (تخلف) یعنی، ضائع، تباہ، پاک کرنا۔
 تلفظ (تلفظ) یعنی، لفظ بولنے کا طریقہ، بات کہنا۔
 تلفیظ (تلفیظ) یعنی، اپنے اوپر پیشکش۔
 تلفیف (تلفیف) یعنی، نسیب، آپس، پیچ جھٹکا، بھیف۔
 ظفر باندھنا۔
 تلقین (تلقین) یعنی، اس طریق کرنا، صحیح کرنا۔
 تلقاوت (تلقاوت) یعنی، دیدار، دیکھنا (تلقاوت)۔
 جانب، جہت، برابر۔
 تلقاع (تلقاع) یعنی، قانع، حاضر جواب۔
 تلقیب (تلقیب) یعنی، نقیب پانا۔
 تلفظ (تلفظ) یعنی، تکرار، چھنا، چھنا۔
 تلفف (تلفف) یعنی، ڈراگرت کرینا۔
 تلقیم (تلقیم) یعنی، لوار لکھنا۔
 تلقین (تلقین) یعنی، سبھنا۔
 تلقی (تلقى) یعنی، ملاقات کرنا، قبول کرنا۔
 تلقیب (تلقیب) یعنی، نقیب کرنا، لقب دینا۔
 تلقیم (تلقیم) یعنی، قلم دینا۔
 تلقین (تلقین) یعنی، سبھنا، تعلیم کرنا۔
 تلقیہ (تلقىہ) یعنی، بیرونی چیز سے لانا۔
 تلک (تلک) یعنی، جینگی سبب، پیشوا اور چوٹی آستین،
 بیانیہ، ذہنی حک، سونے کا درق، کرکراؤ (تلقاوت)۔
 لوبیا، ذہنی حک، آڈرک، تلکات، گھنی۔
 سمجھوں والا (تلقاوت) یعنی، یہ سوت، یہ۔
 تلگراف (تلگراف) یعنی، گرگراف، دیکھو تلفظ۔
 تلسمہ (تلسمہ) یعنی، شاگرد ہونا، شاگردی کرنا۔

تلسم (تلسم) یعنی، روشن ہونا، چھٹنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، کلام میں کسی قسم کی طرف اشارہ،
 (تلسم) یعنی، چھٹنا، آنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، شاگرد جو تلسمہ، تلسمہ۔
 تلسم (تلسم) یعنی، تلسمہ، تلسمہ (تلسمہ) اور ٹیپ (تلسمہ) سے
 بجانا (تلسمہ) حاجت، آرزو (تلسمہ)۔
 تلسم (تلسم) یعنی، ایک پہل۔
 تلسم (تلسم) یعنی، عزت اور مذہبی، لائق۔
 تلسم (تلسم) یعنی، نیاز مند، آرزو مند۔
 تلسم (تلسم) یعنی، پیر، بلند و گھٹو، پیردی کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، علم، فکر، اجھرا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، جوش، چھٹنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، رنگ برنگ، رنگ رنگ ہونا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، مزاج، مزاج، جن کا مزاج
 گھڑی گھڑی میں بدلے۔
 تلسم (تلسم) یعنی، مزاج، مزاج، مزاج، گھڑی گھڑی
 میں مزاج کی تبدیلی۔
 تلسم (تلسم) یعنی، دینت، آلودہ کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، دینت، اشارہ کرنا، چھٹنا، روشن کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، دینت، سلامت کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، دینت، رنگ برنگ کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، دینت، سونا، تلسمہ)۔
 تلسم (تلسم) یعنی، دینت، حیران ہونا، تلف ہونا،
 والہ ہونا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، چھٹنا، بازی کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، چھٹنا، آٹس، چھٹنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، چھٹنا، چھٹنا، لاٹج۔
 تلسم (تلسم) یعنی، چھٹنا، رنج و اندوس۔
 تلسم (تلسم) یعنی، زمین کرنا، حلیم کرنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، چھٹنا، چھٹنا، چھٹنا، چھٹنا۔
 تلسم (تلسم) یعنی، چھٹنا، چھٹنا، چھٹنا، چھٹنا۔

تماشیل (تما - تیل) تیشیل کی حج -
 تماچہ (تما - چہ) پتھر، لپٹہ، چاشنا
 تماخرہ (تما - خرہ) مسوا بن، معمول -
 تماوی (تما - وی) درازی، کشیدگی، مدت گذرنا
 تمارض (تما - رض) بیماری کا بھانڈنا -
 تماری (تما - ری) آپس میں جنگ کرنا، کسی بات
 میں شک کرنا -
 تماسخ (تما - سخ) شکل بھونڈی جو جانا -
 تماسک (تما - سک) تحمل، وقار، آپس میں بیگلی
 مارتا، اپنے کو نگاہ رکھنا -
 تماشانا (تما - شانا) سیدہ اسیر یا ہنگامہ عجیب چیز -
 تماشانی (تما - شاننی) سیر کرنے والا -
 تماشین (تما - شین) بین، ادبیش، آوارہ -
 تماشینی (تما - شینی) ادبیش، ادبالی -
 تماشی (تما - شائی) باہم پیدل چلنا -
 تماکک (تما - کک) اپنا اختیار ہونا، اپنا مالک ہونا -
 تماہم (تما - ہم) پورا کال -
 تماہم عیار (تما - ہم عیار) کال، بے نقصان -
 تماہمی (تما - می) پورا بن، کلیت، جملگی -
 تمہت (تما - مت) بڑی ہوتی، تمام ہوتی چیز -
 تماشام (تما - شام) توکلا -
 تماشیح (تما - شیح) نفع، فائدہ، تمنا، نامدہ اٹھانا
 تماشیح (تما - شیح) لپکنا، نامدہ دینا -
 تماشیل (تما - شیل) شکل، صورت، فرمان شاهی
 جم تماشیل -
 تماشیلدار (تما - شیل دار) روز تصویر دار،
 سہور -
 تماشیلگر (تما - شیل گر) نقاش، سہور -
 تماشیل (تما - شیل) مثال دینا، سامنے ہونا -
 تماشیل (تما - شیل) مثال، تشبیہ جم تماشیل
 نقشہ آہوتا -

تمجس (تما - جس) آتش پرست ہونا -
 تمجید (تما - جید) بزرگی کے ساتھ نسبت کرنا -
 تمجیس (تما - جس) آتش پرست کرنا -
 تمکل (تما - کل) مکر، مہید کرنا -
 تمکبص (تما - کبص) آزمائش، کم کرنا، پاک کرنا -
 تمکل (تما - کل) خط، ارضیت، ناک صاف کرنا -
 تمکل (تما - کل) دیکھنا، پہنچانا، لپٹنا -
 تمکلید (تما - کلید) دیکھنا، لپکنا -
 تمکلین (تما - کلین) شہر، شاہ شہر تعمیر کرنا -
 تمکل (تما - کل) حضور، حضور، آگے کی ایک جگہ یا
 درخت، لہا، درخت، ازبیراج حضور -
 تمکل (تما - کل) نافرمانی، سرکشی کرنا
 تمکلین (تما - کلین) نشان، کلمہ کا بان
 تمکل (تما - کل) شی میں ہونا -
 تمکل (تما - کل) نرم ہونا، عادت کرنا -
 تمکل (تما - کل) کما کما دانہ جمع کرنا، گزراٹھا
 حضور -
 تمکل (تما - کل) رہن - رہن - رہی، اہلی -
 تمکل (تما - کل) بدن پریش، دیکھنا -
 تمکلین (تما - کلین) استن، نرم بنانا -
 تمکلین (تما - کلین) بٹھا ہونا -
 تمکلین (تما - کلین) چھاؤنا -
 تمکل (تما - کل) ناک، گھڑاں ہم تماکلین -
 تمکلین (تما - کلین) پھیلا کرنا -
 تمکلین (تما - کلین) ہنسی کرنا -
 تمکلین (تما - کلین) مسک، لہسن، مسک، دستاویز، پڑنا
 تمکلین (تما - کلین) چکل مارتا -
 تمکلین (تما - کلین) ممکن ہونا -
 تمکلین (تما - کلین) جاری کرنا، جانا
 تمکلین (تما - کلین) جاری کرنا، روان کرنا -
 تمکلین (تما - کلین) شہیت، جاری کرنا، روان کرنا -

تنگ حالی (تنگ - کاری، تنگالی اوریشانی -
 تنگ حوصلگی (تنگ - خویشگی، پست ہمتی -
 تنگ حوصلہ (تنگ - خود شکستہ، پست ہمت -
 تنگ دست (تنگ - دست، محتاج، مفلس -
 تنگ دستی (تنگ - دستی، محتاجی، تنگالی -
 تنگ دل (تنگ - دل، کم خور، آزرده
 تنگدلی (تنگ - دل، آزرده گی، کم خوری -
 تنگ دہن (تنگ - دہن، جس کے منہ کا
 دانہ چھوٹا سا ہو۔
 تنگری (تنگ - رچی، تنگ - گری، اتر نالے -
 تنگسار (تنگ - سار، عقل کا ڈھلکا،
 رائے کی منطقی
 تنگسال (تنگ - سال، تنگ سال -
 تنگ عیش (تنگ - عیش، مفلس -
 تنگ نما، تنگ نامی (تنگ - نام، تنگ - نامی)
 تنگ چیز، تنگ جگر، تنگی -
 تنگ نظر (تنگ - نظر، کوتاہ خیال،
 خود غرض -
 تنگوز (تنگ - گوز، سوز، خاک، خنزیر -
 تنگہ (تنگ - گد، راج الوقت سک (تنگ - گد)
 تنگی جانگیا -
 تنگی (تنگ - گی، غلغلی، سگرہ ہوا بن، تنگالی
 تہسب (تن - مہیا، قدر صفا -
 تہتیب (تن - بین، گھنسا، کتابت سے آراستہ کرنا۔
 تنگندہ (تنگ - دہ، نئے والا۔
 تنو (تنو، طاقت، زور۔
 تنو دل (تنو، دن، دیکھو، تنیدن۔
 تنوور (تنوور، تن، تنو، نان پکانے کا زمں دوز
 ظرف جو شکار شیر (تنو، دوز) آگ آگ
 دوز سے آگ کھنکا، چنے کا کام کرنا۔
 تنوورہ (تنوورہ، انگلی، چٹن، جنگ، پیتی کوٹ -

تنووط (تنو، ڈھ، تنو، صرط، بیک جو ایک طرف
 پڑا ہے۔
 تنووع (تنو، روح، طرح طرح کا ہونا۔
 تنووفہ (تنو، فک، بیلان، چکل -
 تنووشد (تنو، سن، اد، موٹا، بھاری بھر کم۔
 تنووشدگی (تنو، سن، دمی، شاپا، بھاری بھر
 کم ہونے۔
 تنوہ (تنو، دہ، بلند ہونا۔
 تنویر (تنو، دیر، روشن، روشنی کرنا، روشنکنا۔
 تنوویج (تنو، رنج، طرح طرح کا کرنا۔
 تنوویم (تنو، دیم، سلانا۔
 تنوین (تنو، دین، لڑن، بیدار کرنا، دحرکت
 دے، کے ساتھ لڑن پڑھنا۔
 تنہ (تنہ، پیر کی پیٹھ، صلح، راضی، جالا۔
 تنہا (تنو، ہا، اکیلا، خالی۔
 تنہائی (تنو، کارائی، اکیلا ہونے۔
 تنہیدن (تنو، دن، تنہا، تنہا۔
 تنہیدنی (تنو، دنی، تنہے کے لائن۔
 تنہیدہ (تنو، دہ، تنہا ہوا۔
 تنہین (تنو، بین، از، باجم، تنہا ہونے۔
 تنہین (تنو، فلک، دن، بین، تنگ، کھٹان۔
 تواریش (تنو، کلمہ، خطاب، تو، تجو، خود، ہسانی،
 موت، تنو، اندر، کد، پردہ، تو، کسی چیز
 کی چپک، ادھوپا، جان دنی، تنو، تنہا، اکیلا
 کاموں سے فارغ۔
 تواریش (تنو، باکت، خواب، ضائع۔
 تواریش (تنو، تواریش، تواریش کرنے والا (تواریش)
 تواریش کی حج۔
 تواریش (تنو، رنج، تالیج کی حج۔
 تواریش (تنو، ہن، نرم مساحہ، انداز۔
 تواریش (تنو، پست، تالیج کی حج۔

توشک (تو- شک) روحی و بچھونا، بنا لین
 و توشک، فرش۔
 توشمال (تو- شال) خانہ سال۔
 توشیم (تو- شیم) رخت سفر زاد راہ۔
 توشیح (تو- شیح) ایک صنف شاعری، اور
 ہینا، سوزانا۔
 توشیم (تو- شیم) ہا تھیر سوئی سے گونا۔
 توشیل (تو- شیل) پیر نہ ہونا، پیوست ہونا۔
 توشیص (تو- شیس) گہری لقب ڈان۔
 توشیف (تو- شیف) توفیق کرنا، دھف کرنا۔
 توشیل (تو- شیل) پیوست ہونا، ہلکانا۔
 توشیم (تو- شیم) کالی بویں توشا۔
 توشیمہ (تو- شیمہ) دھیت کرنا۔
 توشیح (تو- شیح) روشن کرنا، بجائے لانا۔
 توشیح (تو- شیح) رحم و شفقت ظاہر کرنا۔
 توشیح (تو- شیح) منہ سے آہستہ آہستہ دھونا۔
 توشیح (تو- شیح) روشن اور ظاہر کرنا، وضاحت کرنا۔
 توشیح (تو- شیح) کپڑے میں رودی بھرا۔
 توطہ (تو- طہ) کھڑا ہونا۔
 توطن (تو- طن) وطن اختیار کرنا۔
 توطید (تو- طید) مضبوط کرنا، کھڑا کرنا۔
 توطین (تو- طین) وطن اختیار کرنا، آرام دینا۔
 توطیمہ (تو- طیمہ) تہید، بچھانا، روزنہ۔
 توطیفہ (تو- طیفہ) وظیفہ کرنا۔
 توطد (تو- طد) ڈرانا، سزائش کرنا۔
 توطش (تو- طش) پریم، پھریرا، جیل کا جا۔
 توطل (تو- طل) جو صحت سانا، کمال پر پہنچنا۔
 توطم (تو- طم) غم اور غصہ میں ڈالنا۔
 توطاق (تو- طاق) کام کا موافق ہونا۔
 توطرف (تو- طرف) ہمت ہونا۔
 توطوق (تو- طوق) موافقت، یکسانی۔

توقی (تو- قی) بچھونا، بچا، پرار کرنا۔
 توقیدن (تو- قیدن) غزنا، دہاڑنا۔
 توقیر (تو- قیر) زیادتی، شک کا طع، بہت کرنا، بہت ہونا۔
 توقین (تو- قین) اسباب و خداد مذکی موافقت ہم
 توقر (تو- قر) بچھونا، بچا۔
 توقین (تو- قین) آرزو کرنا۔
 توقیمہ (تو- قیمہ) پورا پورا مانا کرنا۔
 توقن (تو- قن) آرزو کرنا، آرزو مندی۔
 توقد (تو- قد) آگ بھڑکا، چراغ جھلنا۔
 توقر (تو- قر) آہستہ آہستہ رکھا، شکستہ میں بنانا۔
 توق (تو- ق) امید بھروسہ۔
 توقف (تو- قف) دیر کرنا، وقف کرنا۔
 توقی (تو- قی) بچھانی، پریم، بچاؤ۔
 توقیت (تو- قیت) وقت مقرر کرنا۔
 توقیر (تو- قیر) بڑی، عزت کرنا۔
 توقیص (تو- قیص) برہمی لڑھی آگ پر بھڑکنا۔
 توقیح (تو- قیح) غصہ کا زہان، سخت پر بھرا کوئی
 نشان جو توڑ دینا کا بھوت پر نشان لگانا۔
 توقیف (تو- قیف) خبردار کرنا، روکنا، مال
 وقت کرنا۔
 توقیمہ (تو- قیمہ) پرار کرنا، بھروسہ۔
 توقاف (تو- قاف) کمان، حجت چھیننا۔
 توقد (تو- قد) مضبوط ہونا۔
 توقف (تو- قف) انتظار کرنا، حجت چھیننا۔
 توقل (تو- قل) دنیا پر لات مار کر خدا پر
 بھروسہ کرنا۔
 توقن (تو- قن) بچھونا، ترار بچھنا۔
 توقید (تو- قید) بچھونا۔
 توقیل (تو- قیل) دلیل کرنا، کام سونپنا۔
 تولا (تو- لا) حجت، اورستی (تو- لا) کتے کا پتہ۔

تولپ (تولپ گیت) ، گدھے کا بیچ۔
 تولپہ (تولپ) - بچہ ، تولہ ، بارہ ماٹھے کا وزن۔
 تولیہ (تولیا) ، بچہ پیدا ہونا۔
 تولع (تولان) ، تلخ ، لاچ ، حوص کرنا۔
 تولہ (تولہ) ، بوسکھ کر سکار کرنے والا کتا ، کتے کا پیلہ ، بارہ ماٹھے کا وزن۔
 تولی (تولان) ، بچہ ، پھر جانا ، حکومت کرنا ، حاکم کرنا ، دوست رکھنا۔
 تولیت (تولیت) ، حاکم کرنا ، کارکن بنانا ، بیٹھ پھیرنا۔
 تولید (تولید) ، پیداوار ، جانا ، پیدا کرنا۔
 تولیدن (تولہ) ، بچہ ، بچہ ہونا ، درہونا ، بھگنا۔
 تولیہ (تولہ) ، بچہ ، بچہ ہونا ، مان کو بچے سے بھڑانا ، بچہ دیکھ کر تولیت۔
 توہم (توہم) ، توہن ، توہنہ ، چاندی کا موتی۔
 توہمان (توہن) ، دیکھو تھن۔
 توہن (توہن) ، بچہ دانی ، حاکم ، بھارت ، کرٹھی (توہن) ، دیکھو تھن۔
 توہنکار (توہن) ، دکھاؤ ، دیکھو چوہدار۔
 توہنہ (توہن) ، بچہ ، جاہ زرخندان۔
 توہنی (توہنی) ، بھینٹی ، چور ، مکار۔
 توہنیل (توہنیل) ، ٹس ، پھاڑی سرنگ۔
 توہیم (توہہ) ، مہم ، دم ہونا ، دم کرنا۔
 توہیم پرست (توہہ) ، مہم۔ پرسن ، ات ، دم بوجنے والا۔
 توہیم پرستی (توہہ) ، مہم۔ پرسن ، تی ، دم بوجنا۔
 توہمن (توہہ) ، مہن ، سست ہونا۔
 توہیم (توہہ) ، مہم ، دم میں ڈالنا۔
 توہین (توہہ) ، مہن ، بہتری ، ہمت کرنا ، سست کرنا۔
 توہی (توہی) ، مہن ، شادسی یاہ۔

تہ وسنہ ، نیچے کا فرش ، لمبی ، لمبی ، خالی رتہ ، دیکھو تھن۔
 تہا لپہ (تہا) ، بچہ ، خراب ہونا۔
 تہا خردنکھا (تہا) ، خرم ، ایک دوسرے پر چھوٹا دھوی کرنا۔
 تہا خردنکھا (تہا) ، خرم ، بچہ ، باہم جا ہونا۔
 تہا دن (تہا) ، دن ، کام ٹھیک ہونا۔
 تہا دی (تہا) ، دی ، باہم سوغات بھیننا ، لڑھکھڑانا۔
 تہا رط (تہا) ، رط ، ایک دوسرے کو کھالی کھانا۔
 تہا لک (تہا) ، لک ، باہم لاک ہونا ، لڑھکھڑانا ، چنا تہا مہ (تہا) ، مہ ، محکمہ کی سر زمین۔
 تہا می (تہا) ، می ، فسو جا ، یہ تہا مہ۔
 تہا می (تہا) ، می ، تہا می کی حج ، آپہنیں مبارکی دینا۔
 تہا ون (تہا) ، ون ، سستی کرنا ، ذلیل رکھنا ، حقیر سمجھنا۔
 تہ بازارسی (تہ) ، بازار ، زمین کا محصول۔
 تہا بچ (تہا) ، بچہ ، پھر ایشہ ، دم سا معلوم ہونا۔
 تہا بند (تہا) ، بند ، کنک ، لنگوٹ۔
 تہا بندسی (تہا) ، بند ، کتاب کی جلد بندی۔
 تہا بوش (تہا) ، بوش ، ساڑھی کے ٹیچے کا جاگیا۔
 تہا بوش (تہا) ، بوش ، عمامہ یا ننگ کے ٹیچے کی ٹیچی۔
 تہا بوش (تہا) ، بوش ، رسوائی ، پردہ داری ہونا ، رسوا ہونا۔
 تہا بوش (تہا) ، بوش ، رسوا ہونا۔
 تہا بوش (تہا) ، بوش ، رسوا ہونا۔
 تہا بوش (تہا) ، بوش ، رسوا ہونا۔

تیسرا سرد کیا۔ سرد، تساہل، باہم آسان بچو تاکہ
ہائیں کو چلنا۔

تیسرا من دیکھا۔ من، سیدھی طرف میل کرنا۔

تیسرا پنے (تے) پ، سبب، بہتر اور ادبوش۔

تیسرا پنی، ہا، نماز، انتظار، رخ کرنا۔

تیسرا ل (تی) تان، سکود فریب۔

تیسرا پنی، سکون، ٹھیک، بندھی۔

تیسرا پنی، پیکر، تاج کی جھ۔

تیسرا پاک، تیسرا کی دتی، ڈاکن، پنی، ڈاکن کی ابوری

تیسرا تیسرا، غارسی کا جو جھٹھا شسی ہیئہ، بان اعلیٰ

قدرت، عطار۔

تیسرا انداز، تیسرا کن، کوزہ، تیسرا چلنے والا۔

تیسرا انداز، تیسرا کن، ڈا، زنی، تیسرا چلانا۔

تیسرا اور تیسرا۔ آ، کوزہ، قساق، سکار۔

تیسرا پیر تاپ، تیسرا۔ پیر، تاپ، وہ حاصل جیسا

تیک تیر جوڑ کرے۔

تیسرا نظر، دتی، نظر، علم، منظم کی آہ۔

تیسرا خزانگ، دتی، ہر، خذینگ، مضرب، زخم، اجہ۔

تیسرا خود وہ تیسرا۔ خود، ڈہ، تیسرا کا گھاس۔

تیسرا دان، تیسرا، دان، ترکش۔

تیسرا دستی، تیسرا، دن، لاشی، اھما۔

تیسرا رس، تیسرا، رس، تیسرا کی بیخ۔

تیسرا دن، تیسرا، دن، تیسرا مارنے والا۔

تیسرا ساڑھنی، ساڑھنی، مضرب، زخم۔

تیسرا کاری، تیسرا، کاری، تیسرا سے چھیننا۔

تیسرا کیش، تیسرا، کیش، اٹھائی، رندہ۔

تیسرا کرا تیسرا۔ کرا، تیسرا بنانے والا۔

تیسرا کی، دتی، کچی، اندھیرا، سیاہی، ڈھندلا پن

تیسرا دتی، کوزہ، ڈھندلا، کاسا، اندھیرا۔

تیسرا پلن، دتی، کوزہ، سیاہی، بدسرشت۔

تیسرا پخت، دتی، کوزہ، پخت، بدقسمت، بدھیب۔

تیسرا پختی، دتی، کوزہ، پخت، بدقسمت۔

تیسرا دوسروں، دتی، کوزہ، بدسرشت، بدسلبت

تیسرا روڈگار، دتی، کوزہ، بدسرشت، کازہ، بدقسمت۔

تیسرا روڈی، دتی، کوزہ، بدسرشت، زنی، بدقسمت۔

تیسرا ہوائی، دتی، کوزہ، ہوا، دتی، بان، نام، آفتابزی۔

تیسرا تیسرا، چالاک، اھار دار، پھر تیسرا، تیسرا

مکوز، ہاد۔

تیسرا پ، دتی، ڈا، پ، نیز، آب، پانی جو

کاٹ کرے۔

تیسرا پیت، دتی، کوزہ، پنی، پیت، تیسرا پنی۔

تیسرا پیر، تیسرا۔ پیر، تیسرا پنے والا۔

تیسرا زور، تیسرا۔ زور، جلدی چلنے والا۔

تیسرا زوی، تیسرا۔ زوی، جلدی چلنا۔

تیسرا طبع، تیسرا۔ طبع، خ، ذہین۔

تیسرا کھم، تیسرا۔ کھم، اسبھہ، بوجھ والا۔

تیسرا ک، دتی، کوزہ، جبر، ترہ، ترک، ہلم، اجندہ۔

تیسرا کھم، تیسرا۔ کھم، جلدی قدم ڈالنے والا۔

تیسرا کامی، تیسرا۔ کامی، جلد قدم ڈالنا۔

تیسرا مزاج، تیسرا۔ مزاج، اھیلہ، چڑھنا۔

تیسرا مزاجی، تیسرا۔ مزاجی، جی، اعلیٰ، چڑھنا۔

تیسرا ہوش، تیسرا۔ ہوش، جبر، عقلمت۔

تیسرا سنے، دتی، چالاک، پھرتی، کاٹ۔

تیسرا عیش، بوک، بکرا، جیو، آشیانہ۔

تیسرا عیش، ہنر، آسان ہونا۔

تیسرا پیر، دتی، پیر، آسان کرنا۔

تیسرا پیکش، دانہ، دندانہ۔

تیسرا پیکش، دتی، پیکش، کوزہ، ہبولا۔

تیسرا پیکش، دتی، پیکش، آنا۔

تیسرا پیکش، دتی، پیکش، ہبولا، پیکش، پیکش۔

تیسرا پیکش، دتی، پیکش، ہبولا، پیکش، پیکش۔

تیسرا پیکش، دتی، پیکش، ہبولا، پیکش، پیکش۔

تعلب بصری شیخ - کتب بیض - رسی ، نام ودا -
 شیخ زینب ، صورت ، صنم -
 تفساد تفسار ، بکری یا ہرن کی آواز -
 تفسار بر سر تفسار - ریز ، ڈھنڈوی ، ایک قسم کی سبزی -
 تفسخ شیخ - زنج ، پھلا ہٹ -
 تفسر شیخ ، ر ، دانت ، دنگے دانت ، سسرہ در بیان
 ملک کفر و اسلام چ لکھنؤ -
 تفسو شیخ ، او ، بکری یا ہرن کی آواز -
 تفسا و تفسا ، فارسی ، خردل ، آہور -
 تفسال و تفسا ، لوٹا ، ابرین -
 تفسرا و تفسر ، ڈھبی ، پارو -
 تفسل و تفسل ، پھٹ ، سپرکس ، نفلہ -
 تفسدان و تفسل - دان ، گالہ دان -
 تفسو ، تفسد ، افسیہ ، دیگیا یہ دم اتاری -
 تفسات و تفسات ، فٹکی جھ -
 تفسالت و تفسا - نت ، آگری ، بوجھ ، بھاری پن -
 تفسیر و تفسی - کچھ ، حمید ، سوراخ چ کٹھن
 تفسیت ، تفسوی ، کالٹھن -
 تفسنت (تفسنت) ، مسمومی ، استواری
 تفسف (تفسف) ، چتر ، دانشمند -
 تفسل و تفسل ، بوجھ ، بھاری پن ، بھڑی ،
 آتفسال ، تفسل ، ہر نفس چیر (تفسل) ،
 بھاری پن ، بھاری ہونا -
 تفسلان ، تفسلین ، تفسلان ، تفسلین ، ادرازا
 جنات اور انسان -
 تفسوہ و تفسوہ - وہ ، سکورہ چ تفسوات -
 تفسہ و تفسہ ، قابل اعتماد آدمی ، پادار
 چ تفسات -
 تفسیف و تفسیف ، ذنی ، تفسین ، نہایت تیز سر -
 تفسیل و تفسیل ، بوجھل ، بھاری ، دیر پیم -
 تفسلی ، تفسل ، مارے ہونے کیے کی ماں -

تہمت (تہمت) ، نوشندہ ، تحریر ، مقرر دیا ہوا ہم آہنگ
 لکھنا ، قرار دینا ، تہمت ، عبت -
 تہوت (تہوت) ، پتلی ، نمانیت ہونا -
 تہور و تہور ، ملاکت ، بلاک ہونا -
 تہج (تہج) ، خون یا پانی کا ہینا -
 تہجان (تہج) ، جانچ ، بہانے والا ، ہینے والا -
 تہجن (تہجن) ، دل ، مٹایا ہونے -
 تہجین (تہجین) ، گلڑھا کپڑا -
 تہمی (تہمی) ، پھری ، چھانی ، پوچی -
 تہرا (تہرا) ، مالدار ، دو ہندسی (تہرا) ، دکھتری -
 تہرب (تہرب) ، آنتوں ، والی چربی کی جھلی -
 تہرہ (تہرہ) ، بھوسا ، دراز نفسی -
 شرح و تہراج ، جوانی -
 تہرد (تہرد) ، پیٹھ کی پھوڑا ، روٹی چرنا -
 تہرط (تہرط) ، سریش ، گوبر (تہرط) ، گوبر کرنا -
 تہرملہ (تہرملہ) ، بڑا ، مابین لوٹری -
 تہردا (تہردا) ، کوہ مالدار عورت -
 تہروت (تہروت) ، مالدار ، سرداری -
 تہروتہ (تہروتہ) ، ڈٹ چوڑا ، اس کی دولت -
 تہرسی (تہرسی) ، لٹھی ، ٹہلی -
 تہریار (تہریار) ، کیا ، جھکا ، پردیس ، روٹی کا جھاڑ ، بھڑی
 تہریہ (تہریہ) ، چوری ہونے روٹی -
 تہط (تہط) ، چھٹی ، ڈاڑھی والا چوڑھا
 تہط (تہط) ، صحتی ، ڈاڑھی ہونا -
 تہط (تہط) ، زکام ہونا -
 تہت (تہت) ، بے کرنا -
 تہجان (تہجان) ، بان ، اڑو چ تہا پین -
 تہط (تہط) ، پانی یا گوشت کا سرتا -
 تہل (تہل) ، ڈاڑھن چ تہول ، تہن ، زادہ ت
 تہاسب (تہاسب) ، بوٹری چ تہابن ، تہا پنی
 تہلمبان (تہلمبان) ، کبان ، زبوسری -

تغیہ و تغییہ، آگے کا دانت جم ٹٹا کیا جوان
گائے پیل۔

تو اب (تو اب، مزدوری، نیک، ہلد، تو اب
واج، جامہ، جامہ فرس۔

تو اب (تو اب، ثابت، ثابت کی حج، غیر محرک تارے
تو اب (تو اب، بھیر کی میاٹ۔

تو اب (تو اب، تاج، تاج کی حج۔
تو اب (تو اب، ثانی کی حج۔

تو اب (تو اب، پینے کا پیرام، شیا، اب، تو اب
تو اب

تو اب (تو اب، بجاری، خمیازہ، نازہ۔
تو اب (تو اب، داپس پھرنا، ٹوٹا۔

تو اب (تو اب، ساہ، بیل، بھارم، پیر، ان
تو اب (تو اب، آٹو، آٹو، آٹو، نام

تو اب (تو اب، آسانی۔
تو اب (تو اب، خون کا جوش، فتنہ، خیزی۔

تو اب (تو اب، شورش، ابتوات، سوزش۔
تو اب (تو اب، شہد کی مکھوں کا بھٹ۔

تو اب (تو اب، مارہ، بھیر۔
تو اب (تو اب، ٹول، بھٹی، سرپستان، سہ

تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔
تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔

تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔
تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔

تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔
تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔

تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔
تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔

تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔
تو اب (تو اب، ٹول، سہ۔

ساتھ تاراج، تاراج، ۳۔ پچ کے ساتھ شلا
جفتہ، چفتہ، ۴۔ ز کے ساتھ شلا، باج، بازا

۵۔ ٹ کے ساتھ شلا، کج، کوڑ۔ ۶۔ س کے
ساتھ شلا، ریواج، ریواس۔ ۷۔ ش کے

ساتھ کاج، اکاش۔ ۸۔ خ کے ساتھ شلا
سٹلاخ، سٹلاخ۔ ۹۔ ک کے ساتھ شلا

زان، زاک۔ ۱۰۔ گ کے ساتھ شلا، زنج
زنگ۔ ۱۱۔ ۵ کے ساتھ شلا، ناگاج، ناگا۔

جا د جا، جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔

جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔
جا بجا، دجا۔ بجا، بگ، جگ، ہر جگ۔



جاڑیہ (جا۔ زنج) جذب کرنے والی قوت، تاثیر
 جو جوڑی ہے۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) شہر، گنجان، بڑی، سماجی، پناہ
 گزین، جم جیڑکن، آجواڑ۔ ۲۔ جمبیت،
 ڈھنڈھورا، سنادی، جاکڑ، کھینچنے والا۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) جی، ڈھنڈھورے والا
 جاڑیہ (جا۔ زنج) پختہ اور دیگر اعضا، شکاری
 جانور، زخم ڈالنے والا۔ جم جوڑیہ

جاڑیہ (جا۔ زنج) ڈھورنگی دبا، تریوٹی سری۔
 جاڑیہ (جا۔ زنج) سنہلا۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) جھاڑو، سوئی۔
 جاڑیہ (جا۔ زنج) رُود، نفس اور شرم آدمی۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) کھینچنے والا۔
 جاڑیہ (جا۔ زنج) روتی اور داں، ہنسا ہوا۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) زینہ، لوندی، بیٹی، کشتی، جہاز،
 سورج، نعمت الہی، ہنسا پائی جم جوڑیہ

جاڑیہ (جا۔ زنج) بے سہرا، جڑنے کرنے والا
 پتھا قہر کرنے والا۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) حرف متحرک کو ساکن کرنا
 قطع کرنے والا۔

جاڑیہ (جا۔ زنج) کافی ابدلہ دینے والا۔
 جاسد (جا۔ زنج) خزن، خشک۔

جاسوس (جا۔ جاسوس) نمبر، بھیدی جم جوڑیہ
 جاش (جا۔ جاش) کھلیان میں صاف نلہ کا ڈھیر۔

جاش (جا۔ جاش) پھیرنے والا، پیداکرنا، بنانے والا
 جاش (جا۔ جاش) بڑے بڑے دن کا بوٹہ۔

جاش (جا۔ جاش) خشک، سوکھی روٹی۔
 جاش (جا۔ جاش) جفا کرنے والا۔

جاش (جا۔ جاش) گز، وہ اراضی جو سرکار سے۔
 جاش (جا۔ جاش) گز، ڈار، جاگیر رکھنے والا۔
 جاش (جا۔ جاش) پیلو کا بیڑ۔

جاش (جا۔ زنج) اپنی طرف کھینچنے والا۔
 جاش (جا۔ زنج) بٹھنے والا، بٹھانے والا، جم جلیوس

جاش (جا۔ زنج) بے جا۔
 جاش (جا۔ زنج) یعنی، مرگ، عام، دبا۔

جاش (جا۔ زنج) کڑے، کٹنوں کی کشتی، گڑھا۔
 جاش (جا۔ زنج) جلا دینے والا، صاف کرنے والا۔

جاش (جا۔ زنج) لہڑا، دیکھ پا لہڑ۔
 جاش (جا۔ زنج) جزبہ، جلا وطن۔

جاش (جا۔ زنج) شرب کا پیالہ، آسان۔
 جاش (جا۔ زنج) جہاں نما، جام، جہم، جلا۔

جاش (جا۔ زنج) ایک روایتی پیالہ جس میں دینا کا
 احوال نظر آتا تھا۔

جاش (جا۔ زنج) سرکش۔
 جاش (جا۔ زنج) اسم غیر مشتق، پتھر سا جاش

جاش (جا۔ زنج) برقان، شئی کا پیالہ۔
 جاش (جا۔ زنج) جھج کرنے والا، شامل۔

جاش (جا۔ زنج) بڑا پیالہ۔
 جاش (جا۔ زنج) جڑ، جڑ، جہم کی نماز

پڑھنے کیلئے بڑی مسجد۔
 جاش (جا۔ زنج) بڑی، بڑی، دارالعلوم،

تمام، سب جم جوڑیہ۔
 جاش (جا۔ زنج) بیٹا، جاش بن۔

جاش (جا۔ زنج) حوال، حوازیادہ، شری۔
 جاش (جا۔ زنج) روزینا، لطف، اراتا، چھڑا، پھٹ۔

جاش (جا۔ زنج) پھینسا جم جوڑیہ۔
 جاش (جا۔ زنج) سہ، بھیش۔

جاش (جا۔ زنج) فرش، کپڑا، شرب کا پیالہ۔
 جاش (جا۔ زنج) ملاشی، کھانڈ، بٹا، شئی، کپڑ، بٹا، جھاڑا۔

جاش (جا۔ زنج) جاش، جاش، زنج، تصویر
 اور کپڑا۔

چارہ غوک جا۔ کم دا۔ غوک ، کافی۔

جیان (جان ، روح ، طاقت ، ہتھیار) جان
رہ پہلا جن جس سے جنوں کی نسل ملی۔

جان آزاری (جان د جان)۔ آ۔ ذرا۔ بری ، دکھ دینا۔
جاناں (جان) محبوب ، محبوب۔

جانانہ (جان)۔ نکمہ ، جانوں سے نسبت رکھنے والی چیز
جانب (جان)۔ نہجے ، طرف جم جو انب۔

جانناز (جان)۔ بگڑ ، جان پر ٹھیننے والا۔

جاننازی (جان)۔ بگڑی ، جان پر کھیننا۔
جان بختی (تسلیم)۔ جان ۔ بختی ۔ بختی ۔ بہنم ، خدا کو

جان سوینا۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان بختی (جان)۔ بختی ۔ جان بختی ۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جان نشینی (جان)۔ نشینی ۔ فی ، قائم مقامی۔

جاہل (جاہل) ان پر یہ انادان جو اُجھال،
چہال، چہلا، چہکھ۔

جاہلیت (جاہلیت) اسلام سے پہلا زمانہ،
جاہلین۔

جاہلناو (جاہلناو) دیکھو جاہلناو۔

جاہلردجا۔ ارہ، سنگار۔

جاہلردجا۔ ارہ، درست اسحاق

جاہلردجا۔ ارہ، انعام، صلہ، نیک بدلہ،

تصحیح کی علامت ہم جو اُجھال،

جاہلردجا۔ ارہ، بھونکا، چیا، چوڑھ۔

جاہلردجا (جاہلردجا) دیکھو جاہلردجا۔

جاہلردجا۔ ارہ، چوڑھ، آفتدان۔

جاہلردجا۔ ارہ، مال، اسباب۔

جاہلردجا۔ ارہ، ٹیلہ، چوڑھ۔

جاہلردجا۔ ارہ، چوڑھ، چوڑھ۔

جاہلردجا۔ ارہ، گاہ، مقام، گہ۔

جاہلردجا۔ ارہ، چوڑھ۔

جاہلردجا، ارہ، کھانا، کنواں، چوڑھ۔

جاہلردجا، ارہ، خراج، چوڑھ، بدلہ

(جاہلردجا) اپنے پیالے سے دوسرے کی توفیق۔

جاہلردجا۔ ارہ، چوڑھ، خراج، چوڑھ نام

اللہ تعالیٰ (جاہلردجا) شکل، ارہ، ارگان۔

جاہلردجا۔ ارہ، چوڑھ، نشان۔

جاہلردجا، ارہ، چوڑھ کی صفت۔

جاہلردجا، ارہ، نامرد، نیکو دلا (جاہلردجا) دانا،

پنہر، فرس، چوڑھ، حوالی، بیانی، جنگلی۔

جاہلردجا، ارہ، نامردی، نیکو دلا۔

جاہلردجا، ارہ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

جہت (جہت) سورت، کاہن، بجومی، جادو،
ساحر، اشرک، علاوہ سردہ چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ۔

جہت (جہت) چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ۔

جہت (جہت) ارہ، زبردستی، چوڑھ۔

جہت (جہت) ارہ، زبردستی سے۔

جہت (جہت) ارہ، زبردستی، دیکھو جہت۔

جہت (جہت) ارہ، زبردستی، عظمت۔

جہت (جہت) ارہ، زبردستی، علم، حساب

کی ایک نشان۔

جہت (جہت) ارہ، دیکھو جہت۔

جہت (جہت) ارہ، منسوب بہ جہت۔

جہت (جہت) ارہ، نام زشتہ رحمت۔

جہت (جہت) ارہ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ، چوڑھ،

جبین گزنفہ (جبین بزرگ) - بنام نرشد آدی -

جبت (جبت) - پنج کنی کرنا -

جبتام (جبتام) - دیکھو جاتوم -

جبتام (جبتام) - م اسپند کے بل بیٹنا -

جبتان (جبتان) - بدن تن -

جبتو (جبتو) - جبتو (جبتو) -

زاد کے بل بیٹھا -

جبتوم (جبتوم) - دیکھو جبتوم -

جبتو (جبتو) - بدن تن -

جبتو (جبتو) - بدن تن -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج سردار قوم ججتاج -

ججتاج -

ججتاج (ججتاج) - داستانہ نگار کرنا -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

ججتاج (ججتاج) - ججتاج (ججتاج) -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جدو (جدو) - ہوار زمین -

جذع (جذع) کڑھی، پینڈا، تنہ، ہم جذع، جذع خان۔

جذعہ (جذعہ) جوان کائے بیل۔

جذلان (جذلان) خوش و خرم۔

جذم (جذم) ہر چیز کی بنیاد۔

جذمار، جذمور، جذمور، جذمور (اصل) بنیاد ہم جذمور۔

جذمہ (جذمہ) بونا آدمی (جذمہ کوڑا، سنہرے)۔

جذوہ (جذوہ) توف، انکار، آتشپارہ ہم

جذوہ، جذوہ۔

جذوہ (جذوہ) حرکت زبرد، کشش کھینچنا (جذوہ)

گرہ ہوا، لقب (جذوہ) گھوٹے کا زین۔

جذاب (جذاب) توشہ دان، خیمہ کی کھال (جذاب) اور

جذبہ (جذبہ) خالی کشتی (جذبہ) آبِ مرزہ۔

جذاب (جذاب) آبِ جوار، ذری، دلادری۔

جذابیم (جذابیم) جڑوں کی جست۔

جذاب (جذاب) سرخ، چہرہ لگانے والا۔

جذاب (جذاب) جست، گھاڑ، بیروہ، جہ، جراح، جذبات۔

جذاب (جذاب) چہرہ بھاری، سر جبری۔

جذاب (جذاب) ٹیڑھی، تلخ۔

جذاب (جذاب) راز، بہت بڑی فوج کھینچنے والا۔

جذاب (جذاب) راز، بڑی فوج، ایک خطرناک

زمین بلا جھجھوڑ زمین پر کھینچتا ہوا پتہ ہے۔

جذاب (جذاب) تلوار

جذاب (جذاب) راز، جیدہ کی جست۔

جذاب (جذاب) جرمہ کی جست۔

جذاب (جذاب) خارش (جذاب) تہتر۔

جذاب (جذاب) آسمان۔

جذاب (جذاب) بان (جذاب) جریں کی جست

جذاب (جذاب) جوار

جذقیل (جذقیل) بھاری بوجھ کھینچنے اور اٹھانے کا علم۔

جذوم (جذوم) چھوٹا کپڑا جو بغیر خوردبین کے

نظر نہیں آتا، جڑا، جڑا۔

جذومہ (جذومہ) جڑ، جڑ، جڑ۔

جذوح (جذوح) گھاڑ، زخم، جڑ، جڑ۔

جذوح (جذوح) گواہ، چوٹ کرنا۔

جذوہ (جذوہ) پیٹھ جھکی (جذوہ) پلا،

سگ بچہ۔

جذوہ (جذوہ) دیکھو چروہ۔

جذوہ (جذوہ) جھکی جو ہم جڑوں کی (جذوہ)

جذوہ (جذوہ) چار یا پوں کی ایک بیماری۔

جذوہ (جذوہ) جڑ، جڑ، جڑ، اور سرد جڑوں کی سخت

سخت سال (جذوہ) کاٹنا۔

جذوہ (جذوہ) بولی، سمجھ، نشانہ۔

جذوہ (جذوہ) گھریاں، گھنٹہ، جڑوہ (جذوہ)

سہادی آواز۔

جذوہ (جذوہ) نام، نام، نام، برسام۔

جذوہ (جذوہ) ہم، ہم، ہم، انبان۔

جذوہ (جذوہ) گھونٹ ہم جڑوہ (جذوہ)۔

جذوہ (جذوہ) کھنٹ، گھونٹ پینے والا۔

جذوہ (جذوہ) کھنٹ، گھونٹ مینا۔

جذوہ (جذوہ) من، گوشت کا ایک ٹکڑا، کلمہ

جذوہ (جذوہ) جو پڑ، پوکھ۔

جذوہ (جذوہ) اکھاڑا، جھکی۔

جذوہ (جذوہ) آدمی، کھنٹ۔

جذوہ (جذوہ) خطا، گناہ، تصور (جذوہ) علاج،

جذوہ (جذوہ) جڑ، جسم، تن، جہ، جڑوہ (جذوہ)

جذوہ (جذوہ)۔

جذوہ (جذوہ) جڑ، سا، جڑ، جڑ، رقم جو

کھنٹ سے لیں۔

جزیرہ جزیرہ ہونے پر ظاہر ہوگا، کونوں، مہوچم جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ) سفید گھوڑا۔

جزیرہ (جزیرہ) اخبار، ڈائری، روزنامہ۔
جزیرہ (جزیرہ) غارت، مٹی، فوج کا باہاں بازو۔

جزیرہ (جزیرہ) ایک نرکاری پرندوں کی
مادہ باز ہے (جزیرہ) جگالی، ششوار
(جزیرہ) غشی، گلگری۔

جزیرہ (جزیرہ) بناور، شوخ و جزیرہ (جزیرہ)
بام بھلی، گریٹ بھلی، ساتھی کی صورت کی ایک بھلی۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، ایک بیاری
بیاؤ، بہنا۔

جزیرہ (جزیرہ) زمین ناپنے کا پیمانہ ہے (جزیرہ)
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) کش، زمین ناپنے والا۔
جزیرہ (جزیرہ) کش، زمین ناپنا۔

جزیرہ (جزیرہ) بام بھلی، پارلر، انقیس۔
جزیرہ (جزیرہ) گھاس، زخمی، جزیرہ۔

جزیرہ (جزیرہ) قاعدہ، سوس، نامہ بر، تمام۔
جزیرہ (جزیرہ) اخبار، دفتر، اکیلا، ہم
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) زہ، گناہ، جزیرہ۔
جزیرہ (جزیرہ) اوروی، جزیرہ، دیا۔

جزیرہ (جزیرہ) گناہ، جزیرہ، گناہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

جزیرہ (جزیرہ) جزیرہ، جزیرہ، جزیرہ
جزیرہ (جزیرہ)۔

<p>جسادی (جساد) زعفران - جسات (جسائے) دلیری، گستاخی - جساس (جسائے) کھوجی، بڑا جو کرنے والا - جسسام (جسائے) بڑا، گرانڈیل، جسائے، جسم کی حج جسما (جسائے) گنتی، مونا یا، جسم ہونا - جسٹ (جسٹ) جھلاک، جسٹ (جسٹ) تلاش - جسٹو (جسٹو) جھوٹ، دھندلی، تلاش - جسٹن (جسٹن) کو تا سفر ہنکا، جسٹن (جسٹن) جھوٹا جسٹہ (جسٹہ) بنام کو ہوا، جسٹہ (جسٹہ) جھوٹا ہوا - جسٹہ رنگ (جسٹہ) بنام رنگ، خسار - جسد (جسد) بدن، تن، جسم، اجساد - جسدمی (جسدمی) بدن سے نسبت رکھنے والی چیز - جسور (جسور) دلیر، جسور، اجسور - جسک (جسک) درد، رخ، ہلا - جسم (جسم) بدن، اجسور جس میں لبائی جسدانی (جسدانی) موم، اجسور - جسم تعلیمی (جسم تعلیمی) شے، جسم، لبائی جسدانی (جسدانی) بدن، اجسور - جسمان (جسمان) دیکھو خزان - جسائی (جسائی) بنام، جسم، جسم والی چیز جسمائیت (جسمائیت) جسم، جسم بن - جسم (جسم) جسم، جسم، جسم، جسم، جسم - جسور (جسور) دلیر، جسور، جسور - جسٹ (جسٹ) کوشا، کوشا - جشا (جشا) کوشا، کوشا، آہل - جسٹ (جسٹ) رکھی، رکھی، رکھی - جسٹن (جسٹن) محض خوشی - جسٹن سادہ (جسٹن) سن، سن، سن، سن، سن تاریخ کا جسٹن - جسٹپ (جسٹپ) بد مزہ چیز - جسٹیش (جسٹیش) دیا، بلور -</p>	<p>جس (جس) دیکھو حج - جساص (جساص) جھان، چونہ فردش - جعال (جعال) دستمال، صافی، قابیل تعریف کام - جعالہ (جعالہ) سلاخی، سلاخی کی زردی - جعبہ (جعبہ) پتہ، ترکش، جعباب - جعبو (جعبو) جھوٹ، گھبر، گھبر - جعد (جعد) گھبر، گھبر، گھبر - جعد پر جسم (جعد) پتہ، پتہ، جعد کی چوٹی، جسے پال - جعد رخم (جعد) پتہ، پتہ، ولادین، خیرا گھبر، گھبر، گھبر - جعد ظم (جعد) پتہ، پتہ، خلیہ، خلیہ - جعدہ (جعدہ) زہ، زہ، زہ، زہ، زہ - جعفر (جعفر) زہ، زہ، زہ، زہ، زہ - جعفری (جعفری) زہ، زہ، زہ، زہ، زہ گھبر، گھبر، گھبر - جعل (جعل) بناوٹ، اجوٹ (جعل) گھبر، گھبر، گھبر، گھبر، گھبر - جعل ساز (جعل) ساز، ساز، ساز، ساز، ساز - جعل سازی (جعل) ساز، ساز، ساز، ساز، ساز - جعلی (جعلی) بناوٹ، نقل - جعبو (جعبو) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - حج (حج) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - جعب (جعب) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - جعد (جعد) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - جغزات (جغزات) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - جغرافیہ (جغرافیہ) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - جغرافی (جغرافی) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ - جغرافیائی (جغرافیائی) پتہ، پتہ، پتہ، پتہ، پتہ نسبت رکھنے والی چیز -</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جھلہ دھج نہ، ناچنے والا لڑکا۔

جھف (جھٹ) پڑھ رہے آہ۔

جھفا (جھقا) ظلم و ستم (جھفارا) سونے چاندی

کامیل، کوڑا کرکٹ۔

جھفائی (جھفا) بے شکی ظلم۔

جھفا پدیشہ، جھفا شکار، جھفا۔ بے شہہ، جھفا۔

شکار، ظالم، استعمار۔

جھفا شعاری، جھفا۔ شفا۔ بری ظلم۔

جھفان (جھفان) خشک ہونا۔

جھفا کار، جھفا۔ کار، ظالم۔

جھفا کاری، جھفا۔ کاری، ظلم۔

جھفت (جھفت) ہر دو چیز، جوڑا، جوڑا، جوڑا ہوتا

جھفتیک (جھفت) تنگ، چھرا، چھوٹی، سرخاب کا جوڑا۔

جھفتن (جھفتن) تن، مٹا، ملانا، مائل ہونا۔

جھفتہ (جھفتہ) تڑپ، پھیر، ہوتل، کنواں، کڑھا،

سوراخ، دولتی (جھفت)۔ تڑپ، ٹیڑھا، کج

انگور کی ٹیڑھی۔

جھفتی (جھفت) بری، زیادتی، لاکھائی ہونا، جماع۔

جھفتیدن (جھفتیدن) بری، ذلت، زیادتی،

کا جماع کرنا۔

جھفر (جھفر) ایک علم غیب دانی۔

جھفری (جھفری) بری، علم جھف جاننے والا۔

جھفن (جھفن) ان، پوٹا، پھون، آجھان

آجھن (جھفن) ان، نیام، بیان۔

جھفندہ (جھفندہ) تڑپنا، بڑبڑانا، جھفانا۔

جھفیر (جھفیر) زرخیز۔

جھن (جھن) جھن، جھن، بے شہہ شور، جھنفا۔

جھک (جھک) جھک۔

جھکو (جھکو) سرخاب۔

جھکر (جھکر) کلبو، رنج، غصہ، امید، انتظار،

طاقت (جھکا) راندھیاد، جھکر۔

جھکا (جھکا) راندھیاد، کن، کار، جس کا کلبو

زخمی ہو۔

جھک سب (جھک) سب، فرزند، کلبو، کلبو

دل دغیرہ۔

جھکیار (جھکیار) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکنا (جھکنا) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکنا (جھکنا) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکنا (جھکنا) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکنا (جھکنا) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکنا (جھکنا) تڑپ، کلبو، کلبو

اندوہ، مشقت۔

جھکدار (جھکدار) بری، بہادری،

طاقت، بری۔

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

ہمدرد۔

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جھکسو (جھکسو) تڑپ، کلبو، کلبو

جولانگاہ (خود لانا، لگاؤ، کاوا دینے کی جگہ،
دوڑانے کی جگہ۔

جولانی (جولہ - لاء - بنی)، جیزی، لکھ ٹرا۔

جولاہ (جولہ - لاء)، جولہ - لکھ، جولاہ کی تصغیر۔

جولاہہ (جولہ - لاء)، بہت، نوزبان۔

جولانی (جولہ - لکھی)، کھل پوٹھ قلندر۔

جولہ (جولہ - لکھ)، سکوٹی، جولہا (جولہ - لکھ) خوش
کمان رکھنے کا خانہ، مانج۔

جولیدہ (جولہ - بنی) - دہ، دکھوڑو لیدہ۔

جولان (جولہ - بنی)، بھوکا، گرسندہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیٹا، ریشہ، ہندو جی۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

جولہ (جولہ - بنی)، پیل، جرنے کا جولہ۔

بے گھاس کا جھگڑا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جھار (جھار، جھار، ظاہر ہونا۔

جہاں (جہاں، ل، نادانی، بگانی -
 جہلا (جہلا، جاہل کی جمع -
 جہل بسیط (جہل، بسیط، نادانیت -
 جہل مرکب (جہل، مرکب، کتب، ناطق، واقفیت -
 جہلہ (جہل، جاہل کی جمع -
 جہلی (جہل، ل، کابل -
 جہم، جہم، نثر، شردی -
 جہنہ (جہن، ذوق، کودنے والا -
 جہنم (جہن، نغم، دوزخ، گہرا کنواں -
 جہنمی (جہن، نغم، دوزخی -
 جہودی (جہو، دینی، یہودی ہم جہود -
 جہوش (جہوش، بسورنا -
 جہول (جہول، بڑا نادان -
 جہوم (جہوم، عاجز، مانا توں -
 جہیدن (جہن، ذوق، گونا، چھلنا -
 جہیر (جہیر، بلند آواز آدمی -
 جہیز (جہیز، زر، زر کی رخصت، شادی کا سامان -
 سامان دفن مردہ -
 چیانہ (جہی، بیا، تہ، تبرستان -

جیش (جیش، لشکر، شورش، دل، جم، جیشوش -
 جیشہ (جہی، علم، کچھڑی میں باز سے کام میں زور -
 جیشہ (جہی، علم، جہی، علم، نکشاں، ملک -
 جیشہ (جہی، علم، ستر، اجرا، مردہ، دھور، جم،
 جیشہ، اچھا نیک -
 جیل (جیل، آدمیوں کا گروہ، فرج -
 جیوہ (جہی، ذوق، سیلاب، پارہ -

چ

چ (ہے، مخصوص حرف فارسی تا تم مقام عدد ۱۴
 کئی حروف سے بدل ہے - ۱ - ب کے ساتھ مثلاً
 چلا، چلا، چلا، ۲ - ت کے ساتھ مثلاً چس، چس
 ۳ - ج کے ساتھ مثلاً چفتہ، چفتہ، لم، ز کے
 ساتھ مثلاً چنگ، چنگ، پز، شکا، ۴ - ث کے ساتھ
 مثلاً کچ، کچ، ۵ - س کے ساتھ مثلاً چوس،
 چوس، ۶ - ش کے ساتھ مثلاً چاگے، کاٹھے -

چا دچا، دیکھ جا -
 چاہق (چا، بقی، پیار، کاسہ -
 چا کب (چا، کب، چالاک، تیز، تازیانہ -
 چا کچرام (چا، کچ، خزام، تیز زور -
 چا کدست (چا، کد، دست، تیز دست،
 ہاتھ چالاک -
 چا کدستی (چا، کد، دست، تیز دست،
 ہاتھ چالاک -
 چا کھی (چا، کھی، چالاک، جستی، تیزی -
 چاب (چا، چ، چھاپ، چھاپ، دیکھیں،
 قدم کی آواز -
 چا پانی (چا، پانی، دیکھ جاتی -
 چا پار (چا، پار، چوکہ، ٹوک -
 چا پچی (چا، پچی، پٹر، چھاپنے والا -

چیب (جیب، گریبان، پیرامن، سینہ، دل، لباس
 میں چبڑ کھینکی ٹیٹی جم چیا، چو، چ -
 چیبہ (جہی، بڑ، جواب (جہی، بڑ، زرہ
 رہے - بڑ بکتر -
 چجون (جہی، مجوں، نام دریا، وسطی ایشیا،
 چیل (جہی، بڑ، خوب، کھرا، بڑ، جیا، چو، ما
 جیا، بڑ، بڑ، چید، دراز گردن، چو، چو، ما
 جیا، بڑ، چید، رازمی -
 چیران (جہی، سن، جہا کی جمع -
 چیرہ (جہی، کڑ، پٹا، طعام، رائیہ -
 چیرو (جہی، کڑ، سہی، خار، پشنت -
 چیسٹن (جہی، کڑ، کونا، پھاڈنا -

چشم سیدار (چشم ۱۰م - پے - ڈار) خبردار
جانتی آنکھ -

چشم سہار (چشم ۱۰م - پی - سار) آدمی کھلی ہوئی آنکھ -
چشم بوشی (چشم ۱۰م - بوشی) دانستہ درگزر -

چشم سہ (چشم ۱۰م - سہ) آنکھ کا لطفہ -
چشم حروس (چشم ۱۰م - حروس) آنکھ کی

چشم داشت (چشم ۱۰م - داشت) امید بھروسہ -
چشم کردہ (چشم ۱۰م - وری - ڈہ) دیدہ

چشم کپشایے گیا -
چشم روشنی (چشم ۱۰م - روشنی) سبارکبار -

چشم زار (چشم ۱۰م - زار) بے جا -
چشم زخم (چشم ۱۰م - زخم) لہرید کا

چشم زکوة القمان -
چشم زد (چشم ۱۰م - زد) چشم ۱۰م -

زدن (آنکھ کی جھپک، طرفتہ العین -
چشم شہ (چشم ۱۰م - شہ) چاند -

چشم گزند (چشم ۱۰م - گزند) ظاہر ہونا -
چشم آشور (چشم ۱۰م - آشور) فرار لگنے والی نظر -

چشم چش (چشم ۱۰م - چش) آنکھ کی جھپک، عینک،
(کھڑکی -

چشم گشتہ (چشم ۱۰م - گشتہ) بھینکا، احوں -
چشم گمانی (چشم ۱۰م - گمانی) دھکی جو

گھور کر دبی جا رہے -
چشم و چراغ (چشم ۱۰م - چراغ) سبب

بینائی فرزند -
چشمہ (چشم ۱۰م - چشمہ) پانی کا ستا،

سری کا نام -
چشمہ حوں (چشم ۱۰م - حوں) دل -

چشمہ سار (چشم ۱۰م - سار) جہاں بہت سے چشم ہوں
چشمہ سیما (چشمہ ۱۰م - سیما) دور (چشم ۱۰م - دور)

ناب (چشم ۱۰م - ناب) سوزج -

چشمندہ (چشم ۱۰م - چشمندہ) دیکھنے والا -
چشمہ (چشمہ ۱۰م - چشمہ) چشمی، بوق -

چشمندان (چشم ۱۰م - چشمندان) بگناہ مضم چشمندہ -
چشمندی (چشم ۱۰م - چشمندی) دیکھنے کے لائق

چشمیرہ (چشم ۱۰م - چشمیرہ) دیکھا ہوا -
چشم (چشم ۱۰م - چشم) دیکھو، دیکھو (چشم ۱۰م - دیکھو)

دیکھو، چم -
چشماز (چشم ۱۰م - چشماز) قبضہ، زباندراز عورت -

چشمک (چشم ۱۰م - چشمک) چڑا -
چشمال (چشم ۱۰م - چشمال) جھرا، جھاگ، سیلابا کا

کڑا کر کٹ -
چشمالہ (چشم ۱۰م - چشمالہ) کیا پھل -

چشمہ (چشم ۱۰م - چشمہ) تصدیق دہیہ -
چشمال (چشم ۱۰م - چشمال) چمکان، چمکانا

ایک باجہ -
چشمنا (چشم ۱۰م - چشمنا) منظر کا ایک البیلہ -

چشمنا (چشم ۱۰م - چشمنا) تار - (چشم ۱۰م - تار) تہید چشمنا سے
نسبت رکھنے والا -

چشم (چشم ۱۰م - چشم) گتو -
چشم (چشم ۱۰م - چشم) دیکھو، چم -

چشم بدین (چشم ۱۰م - چشم بدین) دن (دیکھو، چم بدین -
چشم (چشم ۱۰م - چشم) دیکھو، چم -

چشم (چشم ۱۰م - چشم) چل، ڈر، غلاز (چشم ۱۰م - چل، ڈر، غلاز)
ایک چمکی لباس -

چشمی (چشم ۱۰م - چشمی) لگانا، بگھانا -
چشمستان (چشم ۱۰م - چشمستان) کھڑا ہونا -

چشم (چشم ۱۰م - چشم) بالوں کا جوڑا، چم -
چشمدر (چشم ۱۰م - چشمدر) دیکھو، چمدر -

چشمک (چشم ۱۰م - چشمک) سرخاب، چم -

چلوک (چلوک) ، اگاڑی ، تاتوڑہ -

چلہ (چلہ) ، کڑ ، چالیس دن -

چلہ کش (چلہ) ، کڑہ ، کنگل ، چالیس دن گوشہ

نشین ہونے والا -

چلہ کشی (چلہ) ، کڑہ ، کنگلی ، چالیس دن کی

گوشہ نشینی -

چلی (چلی) ، بیوقوفی ، بیعتی (چلی) ، ناردری -

چلیپا (چلی) ، پاپا ، حلیب (+) ، کج -

چلیڈن (چلی) ، دن ، چلنا ، جانا ، چلڈ

چلیڈہ (چلی) ، ڈوہ ، چلا ہوا -

چشم (چشم) ، نارکی رفتار ، چال -

چکاچم (چکا) ، چم ، ہمتا ، پشانی ، جہہ -

چخانگ ، چخانگ ، چخانگ ، چخانگ ، چہ بلیکا

چکز ، سوگھدار ڈنڈا -

چخان (چخان) ، ناز سے چلنے والا ، ناز سے

چلتا ہوا -

چخانہ (چخان) ، ناز سے چلنا -

چخانگی (چخان) ، ناز سے چلنے والا ، ساقی -

چخامیدن (چخان) ، ناز ، چلانا ، چلنا -

چخیمچہ (چخیم) ، چخیم ، ایک طرف کا نام (چخیم) ، چخیم

چخوں کی چاب -

چخش (چخش) ، چک -

چخشہ (چخشہ) ، دیکھو چشمہ -

چشم گردش (چشم) ، گرد - وشن ، کیوں کود -

چمن (چمن) ، پھول باغ -

چمنسا (چمن) ، چمن -

چمن آرا (چمن) ، آرا ، مانی ، باغبان -

چمن آرائی (چمن) ، آرا - مانی ، باغبانی -

چمن پیر (چمن) ، پیر ، مانی ، باغبان -

چمن پیرائی (چمن) ، پیر ، مانی ، باغبانی -

چمنڈہ (چمن) ، ڈوہ ، چلنے والا -

چھی (چھی) ، سوزی ، خدر صوری -

چھید (چھید) ، چک -

چھیدن (چھی) ، دن ، چلنا ، پہلنا ، منہ چھڈ -

چھیدتی (چھی) ، ڈوہ ، چلنے کے لائق -

چھیدہ (چھی) ، ڈوہ ، چلا ہوا -

چھین (چھین) ، ہنسا ، پاخانہ -

چھن (چھن) ، چوں ، چناں -

چھاب (چھاب) ، چھہ کی چوب کا سوراخ (چھاب) ،

نام (چھاب) ، چھاب -

چھار (چھار) ، سرخ بھول کا ایک بڑا درخت -

چھانگ ، چھانگ ، چھانگ ، چھانگ ، زمین ، پالان -

چھال (چھال) ، دیکھو چھار -

چھان (چھان) ، مثل اس سے ، دیا -

چھانچھ (چھان) ، چھہ ، چھہ -

چھنہ (چھنہ) ، بڑ ، حلقہ ، دائرہ ، گردن کی مہلی -

چھنک (چھنک) ، متناطیس -

چھنیل (چھنیل) ، کنگل ، کنگل -

چھیدن (چھن) ، ناز ، چھان ، کودنا ، چھلنا

چھیا (چھہ) ، چا ، ایک بھول کا نام -

چھڈ (چھڈ) ، کھلم ، استفہام ، کھڑ فریہ ، کچھ ، کتنا -

چھڈال (چھن) ، ڈان ، اس قدر ، اتنی دیر -

چھڈانکھ (چھن) ، ڈان ، کرم چھناکر ، جھڈرکھ -

چھڈال (چھن) ، ڈان ، باسبان ، کم طرف -

چھڈاول (چھن) ، ڈا ، سول ، آؤج کا پھلنا حصہ -

چھڈور (چھن) ، ڈوہ ، چھن ، ڈوہ ، کئی کئی ہی -

چھڈور (چھن) ، ڈوہ ، چھنڈر -

چھڈرہ (چھن) ، ڈوہ ، چھنڈر ، دوس -

چھڈگاہ (چھن) ، ڈوہ ، کئی بار -

چھڈل (چھن) ، ڈن ، دیکھو چھڈل -

چھڈہ (چھن) ، ڈوہ ، چھنڈ ، غیر سین مقلد -

چھڈے (چھن) ، دس ، تھوڑے دن ، ٹھوڑی دیر

مقام عدد ۸، حرف تفری، حرف طق، چندوں
 سے بدل ہے۔ ۱۔ خ کے ساتھ مثلاً خشک، خشک
 ۲۔ ۵ کے ساتھ مثلاً جیز، ہیز۔
 حابی (خا۔ بی) نزدیک۔
 حاسم (خا۔ ختم) قاضی، رنج، ایک کالا کوا۔
 حاج (خا۔ حج) حج کرنا، حج خواج۔
 حاجب (خا۔ جب) دربان، چوہدر، بھوں،
 پردہ، حج حاجب۔
 حاجت (خا۔ جنت) ضرورت، خواہش، حاج
 خواج، خواج، خا۔ حاجت۔
 حاجت براری (خا۔ جنت) برادر، بری،
 حاجت بری کرنا۔
 حاجت رواد (خا۔ جنت) رکا، حاجت پوری کرنا
 حاجت روائی (خا۔ جنت) رکا، بری،
 حاجت پوری کرنا۔
 حاجتمند (خا۔ جنت) سن، در، ضرورت، دالا۔
 حاجتمندی (خا۔ جنت) سن، بری، ضرورت۔
 حاجز (خا۔ جز) مانع، حائل، اڈ۔
 حاجہ (خا۔ جز) جن۔
 حاجی (خا۔ جز) خا۔ حج، جز، حج کرنے والا
 حج، حج، حج، حج، حج۔
 حاد (خا۔ جز) تند، تیز
 حادشا (خا۔ جز) اہم چیز، نئی پیدا ہوئی ہو۔
 حادشہ (خا۔ جز) دین، نیا دین، مصیبت، جہ
 حادشا۔
 حادوی (خا۔ جز) شتر بان، آسار بان۔
 حادوی عشر (خا۔ جز) عشر، شتر بان۔
 حادوی (خا۔ جز) ہوشیار، ماہر، کام میں استاد۔
 حادہ (خا۔ جز) گرم، گرمی کرنے والا
 حادشا (خا۔ جز) کاشکار، شہزادہ، حادشا
 حادس (خا۔ جز) ہنگام، ہنگام، حادس

جواس، آخر اس۔
 حادس (خا۔ جز) رقی، لاجی۔
 حادہ (خا۔ جز) گرم، کشتزار، کادہ،
 لہ، ٹولا۔
 حادم (خا۔ جز) دانا، دورانہ نش۔
 حاسد (خا۔ جز) بددعا کرنے والا، حسد،
 حسد، حسد، حسد۔
 حاسر (خا۔ جز) سر، برہنہ، انوس کرنے
 والا۔
 حاسہ (خا۔ جز) محسوس کرنے کی قوت، جہ
 حواس۔
 حاشا (خا۔ جز) پناہ، ہرگز، دردی، پاکی۔
 حاشم (خا۔ جز) خیر، خیر، خیر، خیر، خیر، خیر،
 حاشم (خا۔ جز) خیر، خیر، خیر، خیر، خیر، خیر،
 جہم، حاشم۔
 حاشیہ (خا۔ جز) لاکر، کارہ، جہم، حاشیہ۔
 حاشیہ نشین (خا۔ جز) نشین، حاشیہ، لاکر۔
 حاشیہ نشینی (خا۔ جز) نشین، حاشیہ، لاکر۔
 لاکری۔
 حاصہ (خا۔ جز) جہم، حاصہ، لاکر، لاکر۔
 حاصل (خا۔ جز) حاصہ، حاصہ، حاصہ، حاصہ،
 حاصہ۔
 حاصل بازار (خا۔ جز) بازار، بازار، بازار،
 حاصول۔
 حاصل تفریق (خا۔ جز) تفریق، تفریق،
 تفریق، حاصول۔
 حاصل جمع (خا۔ جز) جمع، جمع، جمع، جمع،
 حاصل ضرب (خا۔ جز) ضرب، ضرب، ضرب، ضرب،
 حاصل کلام (خا۔ جز) کلام، کلام، کلام، کلام،
 حاصل مطلب (خا۔ جز) مطلب، مطلب، مطلب، مطلب،
 مطلب سے نکلے۔

حاضر دکان - حضور موجود، بیار، آگاہ ہم حضوراً
حضوراً، حضوراً، حاضرین

حاضرات دکان - حضرات (حاضر کی جمع مونث)، حاضر
حوریں، جنوں کو بلانے کا ایک لفظی عمل -

حاضرتی دکان - حیزا - (نی) جنوں کو بلانے والا عامل -
حاضر باش دکان - حیزا - باش (موجود رہنے والا -

حاضر باشی دکان - حیزا - باشی (موجود رہنا -
حاضر جواب دکان - حیزا - جواب (جواب دینے
میں تیار -

حاضر جوابی دکان - حیزا - جواب (نی) نوراً بریل
جواب دینا -

حاضر ضامن دکان - حیزا - ضامن (حاضری کا ذمہ دار -
حاضر ضامنی دکان - حیزا - ضامن (یعنی) حاضری
کی ذمہ داری -

حاضر ناظر دکان - حیزا - ناظر (موجود اور
دیکھنے والا -

حاضرہ دکان - حیزا - شہر، قصبہ، گاؤں -
حاضری دکان - حیزا - حیزری (موجودگی، طعام موجود -

حاضرین دکان - حیزا - حیزین (حاضر کی جمع -
حاطب دکان - حیزا - حیزب (لکڑی یا رام حطاب -

حاطبہ دکان - حیزا - حیزبہ (دوا، کھانسی، دودھ پلانی -
حافلہ دکان - حیزا - حیزلہ (دوست، خدمتگار، چہتا، دھیتا،

حافلہ دکان - حیزا - حیزلہ (دوست، خدمتگار، چہتا، دھیتا،
شیرانی، دلاہم حفظہ، حفظہ، حفظہ -

حافلہ دکان - حیزا - حیزلہ (دوست، خدمتگار، چہتا، دھیتا،
حافر ذکا - حیزا - حیزا (کمزوں کو لانے والا ہم حوافر -

حافرہ دکان - حیزا - حیزا (حالت اصلی، اول ہر چیز -
حافظہ دکان - حیزا - حیزا (حیکو ترکان شریف زبانی یاد
ہم حفظہ - حیزا - حیزا -

حافظہ دکان - حیزا - حیزا (یاد رکھنے کی قوت -
حافی دکان - حیزا - حیزا (ننگے پیر والا -

حافی دکان - حیزا - حیزا (تیرے پیچ -

حاقن دکان - حیزا - حیزا (دھن دلی کہیندہ در -
حاقن دکان - حیزا - حیزا (مناسا، جس کو پیشاب لگ رہا ہو -

حاقنہ دکان - حیزا - حیزا (قیامت -
حاکم دکان - حیزا - حیزا (حکم کرنے والا، والی ہم حکام -

حاکمی دکان - حیزا - حیزا (حکایت کرنے والا ہم حکایت -
حالی دکان - حیزا - حیزا (حالت، زمانہ موجودہ، حادثہ،

حالی دکان - حیزا - حیزا (ایک کیفیت ہم آحوال، حالات -
دیکھو ہال -

حالا دکان - حیزا - حیزا (اب، اسی وقت -
حالا لکھ دکان - حیزا - حیزا (یکدم، باوجودیکہ، اگرچہ -

حالب دکان - حیزا - حیزا (دور، دہنے والا
ران کی رنگ -

حالت دکان - حیزا - حیزا (حالت، داردات ہم
حالات -

حالک دکان - حیزا - حیزا (سخت سیاہ، بہت کالی چیز -
حالی دکان - حیزا - حیزا (زیور سے آراستہ، حال والا
جلد، انی، حال -

حالی دکان - حیزا - حیزا (بے، ابھی، اسی وقت -
حامد دکان - حیزا - حیزا (تقریب کرنے والا -

حاضر دکان - حیزا - حیزا (تشریح، تشریح -
حامل دکان - حیزا - حیزا (آٹھ گھنٹے والا ہم حائلہ،

حاملین دکان - حیزا - حیزا -
حاملہ دکان - حیزا - حیزا (پیش میں بچے والی لاری ہوئی گھا
آٹھ گھنٹے والی ہم حائلہ -

حامی دکان - حیزا - حیزا (حمایتی، حمکراں ہم حمان -
حائش دکان - حیزا - حیزا (گھنٹے، تسم، ٹوٹنے والا -

حالت دکان - حیزا - حیزا (دکان، کمال ہم حوالہ -
حاشہ دکان - حیزا - حیزا (حالت -

حادوی دکان - حیزا - حیزا (چھا جانے والا -
حادیبہ دکان - حیزا - حیزا (چھا جانے والی -

حائب دکان - حیزا - حیزا (گھنٹے -

حروف (حروف) حرف کی جمع۔

حروق (حروق) ایلٹھن۔

حرون (حرون) سرکش، اڑیل۔

حرونی (حرونی) بی (سرکش)۔

حروہ (حروہ) آزاد عورت جو حرا کی آزادی کے لئے لڑتی ہے۔

حریلی (حریلی) پیرا سا ہونا (حریلی) ایسا تشکیلی

حری راجی (حری راجی) ملاوڑ، زہیا۔

حریبت (حریبت) عورت کی عینت آزادی، غلامی کے بعد آزادی

حریز (حریز) ریشمی کپڑا، باریک کاغذ، غصے سے

بچھرا ہوا آدمی۔

حریزہ (حریزہ) ایک میٹھا رقیق کھانا، ریشمی

کپڑا۔

حریبہ (حریبہ) راجی، راجی، منسوب بہ حریر، ریشم فروش۔

حریش (حریش) کھلائی، ایک تیل لیا کپڑا۔

حریص (حریص) لالچی، جو حرقہ خوار۔

حریف (حریف) ہمیشہ ہم کار جو حرقہ خوار

رجز، ریل، کھیل تیز مزہ چیز۔

حریلی (حریلی) بی، ہم کاری، لاگ ڈاٹ۔

حریلی (حریلی) وطن، آج، جوں جوں چیز۔

حریلی (حریلی) گھر کی چار دیواری۔

حریلی (حریلی) کھانا۔

حریلی (حریلی) بھگا، سر کی خشکی۔

حریلی (حریلی) دین کا تنگ، بیٹی جو حرقہ خوار۔

حریلی (حریلی) جھٹا، گروہ جو آخرا ہے۔

حریلی (حریلی) اناج، کڑی آزادی کی جماعت، لہلہ پارٹی۔

حریلی (حریلی) اللہ کی جماعت (اللہ کی جماعت)

حریلی (حریلی) جماعت، جماعت، جماعت، جماعت

حریلی (حریلی) جماعت، جماعت، جماعت، جماعت

حریلی (حریلی) جماعت، جماعت، جماعت، جماعت

حریلی (حریلی) جماعت، جماعت، جماعت، جماعت

حریلی (حریلی) کھیت کے اناج یا پھل کے پھولوں کا اندازہ، کنگ۔

حریلی (حریلی) آدمیوں یا باندوں کی شکر ہی۔

حریلی (حریلی) ہر شیا کی، ہر شیا کی، ہر شیا کی

حریلی (حریلی) بولی، بشارت، ہر شیا کی، ہر شیا کی

حریلی (حریلی) ریح، علم جو آخرا ہے۔

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) بی، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) دریا، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حریلی (حریلی) عین، عین، عین، عین

حاض (حجم) نام فاعل چو کھا، ترشہ۔

حواط (حماط) انجیر۔

حواقت (حقا) قن، بے عقلی۔

حصال (حجم) نان، بوجہ اٹھانے والا۔

حصالہ (حجم) نان، بوجہ اٹھانے والی رچھا۔ کڑوا کر بڑا کڑوا کر تلہوم

حخالین (حما) کڑوا کھنڈ یا خون بہا جو بھرا جاوے۔

حمام (حجم) نام گرم غسل خانہ، مگر ماہر جمع حمامات (حمام)

مرگ، موت (حمام) کہو ترس حمام (حمام) بخار، تب۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

حمامہ (حما) کڑوا کھنڈ، دار بزرگ حمام، حمام، حمام۔

گناہ، گریا سا کرا بوجہ (حقی) بھیر یا بکری کا

بک، نام بروج آسمانی۔

حلالان (حجم) نان، مرد کا عضو تناسل۔

حلقہ (حجم) نشتہ، آنکھ دکھانا۔

حکمہ (حجم) کتہ، دھارا، نشتہ، حامل کی حج۔

حسود (حجم) دوسرا سسرالی رشتہ دار۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

حسوت (حجم) دت، پرہیز کرنا۔

خانون عرب (خاک - خجور، تخم، بھرت، کبھ -
 خاشر (خاک - خرد، اگڑھی، قسیق، چیز -
 خراج (خاک) پلپا، صلیب، سولی -
 خراد (خاک) و بھرمات -
 خاردخ (خاک - رخ، دفاباز، فریبی -
 خادوم (خاک - دم) خدمت، نوکر، بھدلام، حکم
 خادومہ (خاک - دمتہ) نوکرئی -
 خاذل (خاک - ذل) شکست پانے والا -
 خار (خاک) کاٹھا، کھولنے والا -
 خاراد (خاک) سخت پتھر -
 خارب (خاک) رت، اجڑ، دزد -
 خاربست، خارمند، خار - قس، خار، خار
 بخت، خاروں کی باز -
 خارلینت، خار - بخت، اسامی، کانوں کا چر
 خالص (خاک) بچ، الگ، باہر نکالنا -
 خارچا (خاک) ریختن، بیرونی طور پر -
 خارچہ (خاک) ریختہ، بیرونی، الگ، خارخ کی ہونٹ
 خارچی (خاک) - جچی، حضرت علی کا منکر مسلمان ہم خارچی
 خارچنگ (خاک) چنگ، کیکر، سلطان -
 خارچین (خاک) چین، کانٹوں کی باز -
 خارقار (خاک) خار، خار، ظلمان، مسخ، تعلق باطن -
 خاردار (خاک) خار، خار، کشیا، کانٹوں دار -
 خارش (خاک) رش، کھجلی، کاج -
 خارطہ (خاک) رطہ، نقشہ -
 خارق (خاک) رت، بھارتے، ذلی چیز، کرامت
 ہم خوارق
 خارق حادثت (خاک) رت، خار، رت، خار، رت، خار
 کساد، حادثت کو بھاڑنے والا -
 خارکش (خاک) کش، لکڑھاڑا -
 خارم (خاک) ریم، ہاک، کٹو، لا، مفد، شریر -
 خازندہ (خاک) دن، ڈہ، کھولنے والا -

حیوان (حیوان) حیح - ڈان، جانور، حیوانان
 حیوانی (حیح) - ڈان، حیوان سے منسوب -
 حیوانیت (حیح) - ڈان، حیوانیت، جانورین -
 حیوی (حیح) - شتر سیلا -
 حیویہ (حیح) - پتہ، ہر لبا کیڑا، سانپ، ہم حیاتیات
 حیویات

خ

خ (خاک) رخ، نام مقام ۴۰۰، حرن
 خمی، کسی حرنوں سے بدلے ملی انھوں
 ح کے ساتھ مثلاً خشک، خشک، رخ کیباہ
 شفا کج، کج، ۳-۳-ق کے ساتھ مثلاً جوخ،
 جوخ، ۳-۳-ک کے ساتھ مثلاً شاخ، شاہانک
 ۵-گ کے ساتھ مثلاً گراش، خراش، ۶-
 م کے ساتھ مثلاً برخ، برم، ۷-ک کے ساتھ
 مثلاً خچیر، خچیر -
 خا، خا، گند سے پانی کی کٹری، چلیبہ، چانی والا -
 خاب (خاک) خوشی، حزمی -
 خابیہ (خاک) پیہ، بڑی گول، شکا، شہ -
 خات (خاک) چلیبہ، نیبوز -
 خاتام (خاک) نام، دیکھو خاتم -
 خاتع (خاک) تخ، الہ سے میں تو م کی رہنمائی
 کرنے والا -
 خائل (خاک) بچ، دفاباز -
 خاتم (خاک) ترم، ختم کرنے والا، خار، ترم، انگوٹھی
 آہرہم خوارق
 خاتمہ (خاک) رت، ہجام، اخیر، چیکو، آہرہم خوارق
 خاتون (خاک) تون، اشرف عورت کا لقب، ج
 خوارق

خاریدن، فارسی۔ زن کھولا ہنتم خاروہ
 خاریدہ، فارسی۔ دۂ کھویلا یا ہوا۔
 خار، خار، بدن کی سپ۔
 خاروق، فارسی۔ زین اسنان، نشا دکاتیر۔
 خارون، فارسی۔ زین، خزانچی، جمع کرنے والا
 خارنہ، فارسی۔ زین، سالی، زوجہ کی بہن۔
 خاروہ، فارسی۔ کھل، انیر کیا ہوا۔
 خاستن، فارسی۔ خن، اٹھنا ہنم خیر، و۔
 خاستہ، فارسی۔ تن، اٹھا ہوا۔
 خاسر، فارسی۔ زیاں کار، نقصان آنے والا۔
 خاسف، فارسی۔ لا غر، ڈبلا۔
 خاسق، فارسی۔ دیکھو خازق۔
 خاش، فارسی۔ خوشدامن، ساس۔
 خاشاک، فارسی۔ خاک، کوڑا کرکٹ۔
 خاشع، فارسی۔ فروتنی کرنے والا۔
 خاشہ، فارسی۔ شہ، کوڑا کرکٹ، حد۔
 خاشی، فارسی۔ ڈروپک۔
 خاص، فارسی۔ مخصوص آدمی، زنی جو خواہش
 خاصہ، فارسی۔ شہ، مرجع جس کی ہڈی سنج ہوگی۔
 خاصہ، برادر خاص۔ بز۔ نواز، وہ ملازم جو
 بدوق لیکر آگے چلتا ہے۔
 خاصدان، فارسی۔ دان، بان، کینے کا برتن۔
 خاصرہ، فارسی۔ ہیرہ، کمر، پہلو، گوکہ۔
 خاصلی، فارسی۔ ہولکی، ہر نہیں چیز۔
 خاص و عام، فارسی۔ عام، اودنے نیچے رہنے
 کے سب لوگ۔
 خاصہ، فارسی۔ عمدہ طبیعت، عادت (فارسی)۔
 خاص کا مرث، عام کی ضد، امیروں کا کھانا،
 قسم کھانا۔
 خاصین (فارسی) صبی، صبی، خاصیت، خاصیت،
 عادت، اثر، طبیعت۔

خاضع، فارسی۔ خروشی کرنے والا۔
 خاطر، فارسی۔ عورت کا کر، زوسد، شرم، اولاد
 خلیہ پڑھنے والا۔
 خاطر، فارسی۔ وارادت قلب، دل کی بات، جم
 خواطر، تسلی، نے۔
 خاطر پریش، فارسی۔ پردہ، پڑھیل، خاطر پرین کر سوا
 خاطر جمع، فارسی۔ جہ، رخ، تسلی، دل۔
 خاطر خواہ، فارسی۔ خواہ، نشا کے موافق۔
 خاطر وارسی، فارسی۔ وارسی، چاچوسی۔
 خاطر نشین، فارسی۔ نشین، گٹھ میں آنے
 والی بات۔
 خاطر، فارسی۔ ایک کر لیمانے والا۔
 خاطر، فارسی۔ دانش، خفاکار۔
 خاطر، فارسی۔ پست کرنے والا، نیچے لانے والا
 خاکا ایک نام۔
 خانقہ، فارسی۔ بھرتوں کی فقیر کرنے والی عورت
 خانوق، فارسی۔ بھرتے والا، دنیا کا کتا رہ۔
 خانقین، فارسی۔ بھرتے، خانقین، خانقان، دنیا
 کے دونوں کنارے، پورب پیچھ۔
 خانی، فارسی۔ بی، چھپا ہوا، پوشیدہ۔
 خانہ، فارسی۔ چھپی ہوئی چیز۔
 خانان، فارسی۔ بادشاہ جو خواہش۔
 خاک، فارسی۔ راکھ، مٹی، دھول۔
 خاک انداز، فارسی۔ آن۔ کوڑا، انی کا نون۔
 خاکیا، فارسی۔ پا، پاؤں سے کسی، نہایت حقیر
 خاکنازی، فارسی۔ با۔ زنی، کھیل کود۔
 خاک سپید، فارسی۔ سپید، زمین۔
 خاک مینر، فارسی۔ بڑ، نیار، کونگھلا۔
 خاک تودہ، فارسی۔ تودہ، خاک کا تودہ۔
 خاکدان، فارسی۔ دان، کوڑا لانے کی جگہ، دنیا۔
 خاکروب، فارسی۔ روپ، بھیل، بھیلنگ۔

خاکروبہ، خاکروب، جڑو۔ سپہ، سپیٹھ، موکوٹرا۔
 خاکرواد، خاکڑ، ڈاڑی، خاک کا بنا ہوا، انسان۔
 خاکسار، خاکڑ، سٹار، خاک کی مانند نہایت عاجز۔
 خاکساری، خاک، سٹاریج، عاجزی۔
 خاکسرد، خاک، کپڑ، راکھ، مٹی۔
 خاکستری، خاک، کپڑ، خرمی، میٹالی۔
 خاکشو، خاکگشتی، خاک، شو، خاک، شو، ایک
 قسم کا شرف بھج جو دہا میں کام آتا ہے۔
 خاک مرگب، خاک، مرگب، کبج، نباتات،
 جمادات، حیوانات۔
 خاک مردہ، خاک، مر، وہ، ادس زمین، کھر۔
 خاکمہ، خاک، کڑ، تصویر کا ڈھانچہ۔
 خاکی، خاک، کئی، خاک سے مشابہ، انسان نام رنگ
 خاک، خاک، انڈا، سینہ۔
 خاکگینہ، خاک، گئی، کت، اندوں سے بنا ہوا ایک کمانہ۔
 خال، خال، ال، جم جھیلان، مرسوں، خارج
 آخو، ال، آخو، کت، جھیلان۔
 خال خال، خال، خال، کوئی کوئی۔
 خالہ، خالہ، سدا رہنے والا۔
 خالص، خاک، یس، بے سیل، بجز عولنی کا۔
 خالصہ، خاک، یس، خالص، سرکاری زمین یا ملک۔
 خالص، خاک، قطع، حاصل کرنے والی عورت۔
 خالص، خاک، یس، پیچھے آنے والا، خان کرنے والا۔
 خالقی، خاک، یس، پیدا کرنے والا۔
 خالو، خاک، کو، خالہ کا شوہر، ماموں۔
 خالہ، خاک، کو، ماں کی بہن، ماسی۔
 خالی، خاک، سٹی، جن میں کچھ مہرا نہ ہو، تہی۔
 خالیہ، خاک، کو، گذشتہ، قدیم۔
 خام، خاک، پکا، بلا پکا ہوا، ظاہری۔
 خام خال، خاک، خال، جھیلان پختہ نہ ہو۔
 خام خالی، خاک، خالی، بنا پختہ خالی۔

خام دست، خاک، دست، ناخبر، کار، انظر طریق۔
 خام ریش، خاک، ریش، بے نقل، سبزہ۔
 خامس، خاک، برس، باجواں۔
 خامس عشر، خامس، عشر، پندرہواں۔
 خام سوز، خاک، سوز، اور علی مگر اندک چیز۔
 خامش، خاک، مش، دیکھو خاموش۔
 خامشی، خاک، مشی، دیکھو خاموشی۔
 خامی، خاک، مل، گنم، کیسند۔
 خاموش، خاک، مش، آب، چکارہ رہنے والا۔
 خاموشی، خاک، مش، پچی، چب۔
 خاموشیدن، خاک، مش، شج، دیکھو نوشیدن۔
 خاموشیدہ، خاک، مش، شج، دیکھو نوشیدہ۔
 خامہ، خاک، سہ، لکھنے کا قلم۔
 خامی، خاک، مج، کجائن، کجائی۔
 خامیازہ، خاک، میا، ڈو، دیکھو خیازہ۔
 خان، خان، سردار، چھان، جم خواہین۔
 کاردار، سرے، مسافر خانہ۔
 خانخانان، خان، خان، امیر الامرا۔
 خاندان، خان، خان، گھرانہ، کنبہ۔
 خاندانی، خان، خان، خاندان سے منسوب،
 مالی خاندان والا۔
 خان سالار، خان، سالار، داروغہ گودام۔
 خانسان، خان، سان، مادہ سان،
 یارچی۔
 خانق، خان، خق، کرنے والا، شق، فور کینوال۔
 خانق، خان، یس، مزدور، گھنڈی۔
 خانق، خان، یس، کھاکو ٹپڑ والا، مشہور کٹر۔
 خانق، خان، یس، یس، کین، کینا۔
 خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ
 عبادت خانہ جس میں دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہتے ہیں۔
 خانقہ، خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ، خانقاہ

خرکس، خرکس، پوتوق، اجسق -
 خرکان، خرکان (بیت بڑی سخت کمان -
 خرگ، خرگ، انکاره، چنگاری -
 خرگاه، خرگاہ، بہت بڑا نیمہ (خسرگاہ،
 خوشی کی جگہ -
 خرگوش، خرگوش (نام جانور، کھرا -
 خرم، خرزم، خوش، نازہ، اسپراب -
 خرما، خرمانا، چھوڑا، گھور -
 خرمست، خرمست، کر، پوتوق، انافرمان -
 خرمکس، خرمنگ، بڑی کھٹی، کھٹا -
 خرمن، خرمن، کھلیان -
 خرمن، خرمن، ناناہ، چاندکا ہل -
 خرموش، خرزموش، گھوس، بڑا چوہا -
 خرپرہ، خرپرہ، بڑے گورس، گھوٹکا، سناکھ -
 خرپی، خرپی، خوشی -
 خرنده، خران، ڈھ، خریدار، گاکہب -
 خرد، خسر، گور، سٹین -
 خروار، خرور، ڈھیرا گرج، کالوچھ -
 خردج، خرمن، بابا، کلن، باغی، ہونہا -
 خروچ، خرور، خرور، کوروس، درغا
 بالو، سرنہ -
 خروسک، خرور، کج، چھوٹا سا رغا، خرور، کج،
 خروسہ -
 خرومہ، خرور، عورت کی شرمگاہ کا گوشت پارہ -
 خروش، خرورش، شوروش، پنار -
 خروشال، خرور، شان، شور، چانے والا، شور
 پا ہوا -
 خروشائیدن، خرور، شان، شور، پو، انانہ -
 خروشندہ، خرور، شان، شور، پو، انانہ -
 خروشیدن، خرور، شان، شور، پو، انانہ -
 مفع، خرور، شان، شور، پو، انانہ -

خروشیدہ (خرور، شی، ڈو، شور، کیا ہوا -
 خروط، خرور، سرکش گھوڑا، بدکار عورت -
 خرزوغ، خرزوغ، ارد، مید، انبر، پھیلی چیز -
 خروف، خرور، بجر کی پچ، خرگوش کا پچ -
 خرزہ، خرور، دیکھو خردس -
 خروہک، خرور، کج، سرنگا -
 خرومہ، خرور، مقل، پادام -
 خرہ، خرور، کھل سروس، دھیرہ کی اکیچھو، خرور
 دیکھو، خرور، صراحی، خرور، زکھ، خرور
 خرنزاہٹ -
 خرنیت، خرنیت، سپر، راہنہا -
 خرید، خرید، سول، خریداری -
 خریدار، خرید، ڈور، گاکہب -
 خریداری، خرید، ڈور، ریچ، گاکہب، خریدنا -
 خریدن، خرید، ڈور، دل لینا، مضم، خرور
 خریدن، خرنیت، ڈور، شریلی عورت، کنواری لڑکی
 بیز سوراخ کا سونے جو خرور، خرور، خرور
 ۲- خرید ہوا -
 خرید، خرید، خرور، سائیں سائیں -
 خرنیلہ، خرنیلہ، کھنڈ، پانی، انی -
 خرنیلہ، خرنیت، کج، کھنڈ، نفاذ -
 خرنیلہ، خرید، خرگوش کا پچ -
 خرنیلہ، خرید، خرنیلہ، سادنی کی نعل، خرور، کج
 خرور، خرید، کھنڈ، ہوا -
 خرنیلہ، خرید، سول، کھنڈ، پانی -
 خرنیلہ، خرید، پت، کھنڈ، کھنڈ، خرور، ڈور
 خرنیلہ، خرید، پت، کھنڈ، کھنڈ، خرور، ڈور
 خرنیلہ، خرید، پت، کھنڈ، کھنڈ، خرور، ڈور
 خرنیلہ، خرید، پت، کھنڈ، کھنڈ، خرور، ڈور

خطایا اخطا - یا اخطا، خفیہ کی جہ -
 خلیب خطاب، اکام حال -
 خطیبہ خطبہ، بیاد و بیاد، کتاب، وعظ، تقریر یا
 لکچر جم خطیب خطبہ، بیاد، بیاد، انگلی، ابیری
 کی خواہش -
 خطاپاکی اخطا، پاپا، کی، نا، خطی -
 خط جدی اخطا، ب۔ جدی، ہفتہ، عمدہ، کا، بہتر، خط
 خطابی اخطا، ب۔ جلی، سولی، تحریر، موافقہ -
 خط جواز اخطا، ب۔ جواز، برداشت، راہداری -
 خط شعفی اخطا، ب۔ شعفی، اباریک، تحریر -
 خطر اخطار، اندیشہ، دشواری، آلت، قدرہ
 فہمت، بزرگی، جاہ، خطرات -
 خطر ان اخطار، ان، مثلنا -
 خطر ان اخطا، ب۔ راہ، بوجھ، خط جواز -
 خط و مضر اخطا، ب۔ مضر، از، تقریر، نسی، شائبہ، بیاد
 خطرہ اخطا۔ ر۔ اندیشہ، قلب، آنت، جم اخطار -
 خط سرطان اخطا، ب۔ سر، کان، مصلف، خوردہ
 کا، شالی، خط -
 خط شعاع اخطا، ب۔ شعاع، نام، رسم، الخطا
 سورج کی کرن -
 خطشہ اخطا، شہ، دکھ، خندہ -
 خط عمود اخطا، ب۔ عمود، ایک، لکیر، چود، دوسری، سے
 مار، ڈر، برابر، ضلع، بناوے -
 خطفہ اخطاف، چکا، پڑندہ، آپلک، لہانا -
 خطلس اخطال، ہستی -
 خطیم اخطام، اہم، تھی، پوز، پوجی -
 خط متوازی اخطا، ب۔ متوازی، ای، لکیر
 جب کا، عامل، دوسری، لکیر، برابر، پوز، دونوں
 کے، برابر، یکساں، آپس میں - میں -
 خط شہید اخطا، ب۔ شہید، شہ، لکیر، کی، لکیر
 خط تقیم اخطا، ب۔ تقیم، سیدھی، لکیر -

خط منحنی اخطا، ب۔ منحنی، ڈیڑھی، لکیر
 خط مستدل اخطا، ب۔ من۔ ڈل، مستزید، کا
 حصار، کنگل، ○
 خطوبہ اخطوب، خطبہ کی جمع -
 خطور اخطور، کلب، اجہ، میں، آنا -
 خطوم اخطا، ڈہ، ڈھس، ادم، جم، خطوات، اخطا
 ڈہ، جم، تا، جم، خطوات -
 خطہ اخطا، ط، داغ، ہیل، کے، اندر، کی، زمین،
 مدد، زمین، حصہ، سر، زمین، جم، خطہ، چہ
 خطیب اخطیب، لکیر، خطیبہ، بیاد، جم، خطیبان
 خطیبہ اخطیب، بیاد، سنگی، آئینہ، ہوی، بیٹے
 ڈالی، عورت، اخطیب، بیاد، خطیبہ، بیٹے، والی -
 خطیبہ اخطیب، بیاد، بزرگ -
 خطیبہ اخطیب، چپ، رفتار -
 خطیبہ اخطیب، بیاد، گہ، جم، خطایا، خطیات -
 خفت اخطا، سوز، جواب، جم، خفتا، خفت
 اخطا، ہلکا -
 خفا اخطا، بر خدیگی، جبار، ناراض، گنا، گونا
 اخطا، پستخ، چھپنا -
 خفا جبہ اخطا، بیاد، عرب، کا، ایک، در، ام، پشہ، قبیلہ -
 خفاش اخطاش، فاش، ہنگامہ، جم، خفا، فیش -
 خفاض اخطافض، عورت، کی، خفتہ، کرنا -
 خفاف اخطاف، خفاف، سوز، سینے، والا، پرزہ
 نرزش، خفاف، خفت، خفیف، کی، جم، خفاف
 سبک، ہلکا -
 خفایا اخطایا، خفیہ کی جہ -
 خفت اخطا، خفت، سبک، ہلکا، بن، خفت، خفت
 خفتان اخطاف، خفت، بیاد، جلت، کنگ، ایک، بیٹہ -
 خفتانین اخطاف، بیاد، ذہنی، اسکان، رشتہ، آ -
 خفتیک اخطاف، کنگ، اکا، بوس -
 خفتن اخطاف، جن، سوسائٹ، خوا، بڑ -

خفتہ، خفت - تہ، سویا ہوا، مٹھا۔

خفتیدن (خفت - تی، زدن) کھنکھانا، سونا۔

خفتیکہ و خفت - تی - وہ، ٹوٹا ہوا، سویا ہوا۔

خفیفہ (خفت - یح، بلوغت ہانگے کی بجلی، کٹری۔

خفرف (خفت، شرم، حیا، نجفانی۔

خفرف (خفت، رت، خفت - رت، بد مزاج، بزار۔

خفرفہ (خفت، رت، امان، زہنار۔

خفتض (خفت، ض، عیش، رت، آسانی۔

خفتق (خفت، ق، کفش کاری، جوتہ مارنا۔

خفتقان (خفتقان، ہول، دل، دلگی، دھڑکن۔

خفتقانی (خفتقانی، ہول، دل کا بیار۔

خفتی (خفتی، ناپائیدگی، آرزوگی۔

خفتوق (خفتوق، بھلی بیگانا، ڈونا، غروب ہونا۔

خفتہ (خفتہ، ناراض، ٹھکھوٹنا، ہوا (خفتہ)۔

سکا، ہلکا۔

خفی (خفی، پوشیدہ، پنهان، ہمین، باریک۔

خفیدن (خفت - دن، کھنکھانا، کھنکھانا، خفتی۔

ذن، سویا ہوا ہونا، چھینکننا، خفا ہونا۔

خفیرہ و خفیر، جو کھیر۔

خفیف (خفیف، ہلکا، سبک، ادھیام خفیانہ

خفیق (خفیق، یا پنی یا پرائی - میں سائیں۔

خفیفہ (خفیف، یہ پوشیدہ، خفیفاً یا خفتاً۔ یہ)۔

پنهانی، پوشیدگی، چھپا ہوا بین۔

حق (خفت) خفتان، ڈرنا، صدر۔

خل (خفت، سرکہ، دھن، دوست، دھن، ہیرمیل۔

خلا، خلا، پانچمانہ، خالی جگہ۔

خلاما، خلا، ستا، بے تکلفی۔

خلاب (خلا، بکھرا، دھن، مانہ۔

خلابہ (خلا، بہت کھانا، توجہ کرنا۔

خلاش (خلا، ش، شور، غوغائی، دھاش)۔

کھو خلا۔

خلاشہ، خلا - شہ، کورٹا کرٹ۔

خلاص (خلاص، صدق و محبت، خالص،

برگزیدہ، خلاص، رہائی، غلٹی، چھٹکارا، گھٹائی

خلاصی (خلاصی، رہائی، خلاص، بحری گلی۔

خلاصہ، خلاصہ، اصل، پاک، صاف۔

خلایع، خلایع، خلعت کی طرح۔

خلاعت (خلا، عت، بیماری کی تھلپ، اٹھا۔

عت، والدین کی نامزدگانی، عشق و مجور،

پریشانی، ایسے سرد سالیانی۔

خلافت (خلافت، پھوٹ، برعکس، ناموافق

(خلافت، بیکار بیڑ۔

خلافت (خلا - نت، اتنا مقامی، جانشینی

خلافت، پیرامین، بگٹی۔

خلافت راشدہ، خلافت - ذرا، شدت، عہد

خلافت حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن،

رضی اللہ عنہم، امین۔

خلاق (خلاق، پیدا کرنے والا، امام القزلباشی

خلاق، انصاف، اپنا۔

خلاق (خلاق، لا، تی، پیدا کرنے کا عمل۔

خلال (خلال، ادانت کر دینی، تنکا، گھاس،

دو چیزوں کا درمیانی ناصلا، دھن، لال)۔

سرکہ فروش، سرکہ بیچنے والا، سرکہ بیانیہ والا۔

خلال (خلال، لٹ، خلا، لٹ، اپنی دہلی، خلافت)۔

گوشٹ کاریش، جو دانست میں انک جادے۔

خلال (خلال، قوش، نقتہ، آشوب، شور و ہول۔

خلال مانندہ (خلال، تا، اودہ، ستیاں۔

خلال (خلال، تی - دن، چھوٹا، گڑھنا۔

خلال (خلال، اکت، خلافت کی حق۔

خلال (خلال، اکت، خلافت کی حق۔

خلت (خلت، دوستی، دوست و محبت،

جو خلل، خلل، اچھی عادت، خلل، خلل)۔

خور (خُور) خوراک، طعام، خوردنی، سورت، لالچ، مزہ، کھانے والا، روشنی، صلیب، چوڑی، شیشی، خور، تلوار، بھالا۔
 خوراب (خُورَب) وہ تھی جس سے ہمارا کالگر بنا دھا جاتا ہے، خُوراب آگندہ پانی پانی کے نکاس کا بھانگ۔
 خوراک (خُورَاک) غذا، ایک مرتبہ کھانا، کھانے کے قابل چیز، کھانا، ایک مرتبہ میں کھانے پینے کی دو اکی مقدار۔
 خورائیدن (خُورَایدَن) خُورائی، کھانا، کھلوانا۔
 خورچین (خُورچین) دیکھو خرچین۔
 خورچیل (خُورچیل) خُورچی، دن، کاروس۔
 خورو (خُورُو) طعام، کھانا۔
 خوراو (خُورَاو) دیکھو خوراو۔
 خورون (خُورُون) کھانا، پیانا، سہنا، منہ خورون خوردنی (خُورُون) کھانے کے لالچ چسب۔
 خورود (خُورُود) کھا یا ہوا۔
 خورش (خُورَش) طعام، خوراک۔
 خورشید (خُورَشید) سورج۔
 خورشید سوار (خُورَشید سوار) سورے اٹھے والا۔
 خورشید لب بام (خُورَشید لب بام) لب بام اُدبُو والا سورج، چمکتا ہوا سورج۔
 خورندہ (خُورِنْدَہ) کھانے والا، پینے والا۔
 خورہ (خُورَہ) کوٹھ، جدام، ملک ایران کا پانچواں حصہ، مال چھڑنے کی بیماری (خُورَہ) لادنے کی ایک گون (خُورَہ) آئیر کا بیڑ۔
 خورڈ (خُورڈ) شکر۔
 خورستان (خُورَسْتَان) خورج، تان، کھنڈ سال، شکر کی ٹیکڑی، شکر کا کارخانہ۔
 خورسایان (خُورَسَايَان) خورج، دیکھو خورسایان۔
 خورسہ (خُورَسَہ) چشمارہ، مترس، بچکا

خوش (خُوش) مارین کاسٹی پرا آنا۔
 خوش (خُوش) ہنسا، خوب، بھلا، اچھا۔
 خوشا (خُوشَا) بہت اچھا۔
 خوش اسلوب (خُوش اسلوب) خوش۔
 خوش اسلوبی (خُوش اسلوبی) خوش۔
 خوش الحان (خُوش الحان) ان۔
 خوش الحانی (خُوش الحانی) ان۔
 خوشا مد (خُوشا مد) چاہوئی۔
 خوشا مدی (خُوشا مدی) چاہوئی۔
 خوشا سن (خُوشا سن) اس۔
 خوشا شنیدن (خُوشا شنیدن) کھانا۔
 خوش اوقات (خُوش اوقات) جس کا وقت اچھا گزرے۔
 خوش اوقاتی (خُوش اوقاتی) اچھا وقت گذرانا۔
 خوش آہنگ (خُوش آہنگ) اچھی آواز والا۔
 خوش آہنگی (خُوش آہنگی) اچھی آواز۔
 خوش آہنگی (خُوش آہنگی) اچھی آواز جو اچھی لگے۔
 خوش باہن (خُوش باہن) اچھی طرح رہی والا۔
 خوش باہنی (خُوش باہنی) اچھی طرح رہنا۔
 خوشبو (خُوشبو) اچھی باس والا، اچھی باس۔
 خوش بوئی (خُوش بوئی) اچھی باس ہونا۔
 خوش بیان (خُوش بیان) اچھی باتیں اچھی لگیں۔
 خوش بیانی (خُوش بیانی) اچھی باتیں بیان کرنا۔
 خوش پوشاک (خُوش پوشاک) اچھا لباس پہننا۔
 خوش پوشاکی (خُوش پوشاکی) اچھا لباس پہننا۔
 خوشنما (خُوشنما) اچھی نظر آنا، دیکھو خوشنما۔
 خوشتر (خُوشتر) بہت اچھا۔
 خوشترک (خُوشترک) بہت اچھا۔

خوشحال دشن۔ جانا، جس کا حال اچھا ہو۔
 خوشحال دشن۔ جان۔ جی کسی کا حال اچھا ہونا۔
 خوشحال دشن۔ حال، جس کے بدن پر حال اچھا لگے۔
 خوشخبری دشن۔ خبر، اچھی خبر۔
 خوشخبر آدم دشن۔ خبر، آدم، اچھی حال والا۔
 خوشخبر آدمی دشن۔ خبر، آدمی، اچھی حال چلنا۔
 خوشخبرید دشن۔ خبر، خبر، نقد خریدی ہوئی چیز۔
 خوشخط دشن۔ خط، اچھے خط والا۔
 خوشخطی دشن۔ خط، اچھا خط ہونا۔
 خوشخوارک دشن۔ خوراک، اچھا کھانے والا۔
 خوشخوارکی دشن۔ خوراک، اچھا کھانا۔
 خوشخوش دشن۔ خوش، اچھی عادت والا خوشخوشیاں
 خوش خوبی دشن۔ خوب، اچھی عادت۔
 خوشدامن دشن۔ دامن، ساس۔
 خوش دل دشن۔ دل، جس کا دل خوش ہو۔
 خوشدلی دشن۔ دلی، امین، خوشی، دل خوش ہونا۔
 خوشدمن دشن۔ دمن، اچھے سرفہ والا۔
 خوشدینی دشن۔ دینی، اچھا کونہ ہونا۔
 خوش ڈالغہ دشن۔ ڈالغہ، اچھی مزیدار۔
 خوش رفتار دشن۔ رفت، اچھی حال والا۔
 خوش رفتاری دشن۔ رفت، اچھی حال۔
 خوش رو دشن۔ رو، خوبصورت دشن۔ رو،
 اچھا لہنے والا۔
 خوشروئی دشن۔ رو، اچھی خوبصورت ہونا۔
 خوشرومی دشن۔ رو، اچھی حال چلنا۔
 خوش سواد دشن۔ سواد، وہ تہہ جفا حال اچھا ہو۔
 خوش سوادی دشن۔ سواد، اچھا سوادی ہونا۔
 خوش طبع دشن۔ طبع، اچھی طبیعت خوش ہو۔
 خوش طبی دشن۔ طبی، اچھی طبیعت ہونا۔
 خوش عثمان دشن۔ عثمان، اچھا کام ہونا۔
 خوش عثمانی دشن۔ عثمان، اچھا کام ہونا۔

خوش غلاف دشن۔ غلاف، وہ تلوار جو ذراکی
 چنیش برسان سے خود بخود نکل پڑے۔
 خوش قطع دشن۔ قطع، اچھی شکل والا،
 اچھا ترشنا ہوا۔
 خوش قلم دشن۔ قلم، عمدہ لکھنا کا ہڈ میں
 پر لکھا جائے، اچھا لکھنے والا۔
 خوش قلمی دشن۔ قلمی، اچھا خط لکھنا۔
 خوش گیب دشن۔ گیب، اچھا اور موہری
 خیر ہار تائیں کرنے والا۔
 خوش گیبی دشن۔ گیب، اچھا اور موہری
 خوش گو دشن۔ گو، سفید سیال۔
 خوش گووار دشن۔ گووار، سردار، زود مضم۔
 خوش گونی دشن۔ گونی، اچھی سیالی۔
 خوش لباس دشن۔ لباس، اچھی پوشاک
 ہونے والا، جس پر لباس اچھا لگے۔
 خوش لباسی دشن۔ لباس، اچھی پوشاک
 خوش مساش دشن۔ مساش، اچھی طرح
 بسر کرنے والا، نیک طبع۔
 خوش مساشی دشن۔ مساشی، اچھی طرح بسر کرنا۔
 خوش مند دشن۔ مند، سوکھنے والا۔
 خوش نشین دشن۔ نشین، جہاں چاہر ہیں
 رہنے والا۔
 خوش نشینی دشن۔ نشینی، اچھی حسیہ رضی رہنا۔
 خوش نصیب دشن۔ نصیب، اچھا لوگ، قسمت ور۔
 خوش نصیبی دشن۔ نصیب، اچھی قسمت ہونا۔
 خوش نما دشن۔ نما، خوبصورت نظر آسے۔
 خوشنامی دشن۔ نام، اچھی خوبصورت۔
 خوشنود دشن۔ نود، راہی، خوش۔
 خوشنودی دشن۔ نود، اچھی راہنما مندی، خوش
 خوشنویس دشن۔ نویس، اچھا لکھنے والا۔

- خوشگئی، خوشگئی، چٹھا نول کا ایک تیسیدہ۔
 خوشگئی (بے شئی، اپناٹ، آپس داری۔
 جنبہ رخا، کلہہ تھین، داہ دا۔
 بچے (بچے، مرجھا، آنر۔
 خشی، دشئی، یا ٹی کی بھال۔
 خیاب دشئی، تیا ج، بے بہرہ، نا امید۔
 خیاباں دشئا۔ بانا، پارک، چین، کیاری۔
 خیاب دشئا، ۱۔ گلرخی، کھیرا۔ ۲۔ افٹھیارا
 پسندیدگی، نیک لوگ۔
 خیاب زہ، دشئا، ڈہ، کھوسی۔
 خیاب شہر، دشئا، شہم، بڑ، اٹھاس۔
 خیاب رک، دشئا، رکی، اچڑے کا پھوڑا، بد۔
 خیاب رین، دشئا، رین، کھیرا اور گلرخی دونوں۔
 خیاب شیم، دشئا، شیم، غلوٹوم کی جج۔
 خیاب ط، دشئا، کیا، درزی، دشئا، سوئی۔
 خیاب ط، دشئا، ط، سلانی، کاہنر۔
 خیاب طلی، دشئا، یا، طلی، درزی کا پیشہ۔
 خیال، خیال، صورت جس کا تصور بانڈھا جاوے
 یا جو خواب میں نظر آوے، فکر، سوچ، امکان
 جج، آخیلہ، خیالات، خیال، دکھو، خیال۔
 خیال آرا، خیال، آرا، خیال، جج، خیال، جج، خیال۔
 خیال آرا، خیال، آرا، خیال، جج، خیال، جج، خیال۔
 خیال خام، خیال، خام، فضول، خیال۔
 خیالی، خیالی، خیالی، خیال سے نسبت رکھنے والی چیز۔
 خیام، دشئا، خیام، خیام، خیام، خیام، خیام،
 خیام، جج۔
 خیانت، دشئا، انت، انت میں چوری، فریب،
 ناراستی۔
 خیانت، دشئا، بچ، نا امید، راس۔
 خیام، دشئا، بڑ، دکھو، درہ، خیام۔
 خیام، دشئا، خیام، دکھو، خیام۔

خید (خید) دیکھو خید۔
 خیدان (دخی) ڈن ڈن دینا، ٹیڑھا ہوا، منہ خید
 خیدہ (دخی) ڈنہ، نم دیا ہوا۔
 خیر (دخی) نیکی، بھلائی، جسم خیرات، خیرہ زینا
 آدمی جو اچھا (دخی) پیر، پیدیا، (خیر)
 کرم، نوازش۔
 خیرات (دخی) ناک، خیر کی حج، ادان، اپنا۔
 خیراتی (دخی) ناک، خیرات والا۔
 خیر اندیش (خیر) آن۔ کویش (دوست)
 بھلائی سونے والا، خیر خواہ۔
 خیر اندیشانہ (خیر) آن۔ جوے۔ شاکہ بھلا
 سوچے، واسے کی مانند، خیر اندیش سے سوسپ۔
 خیر اندیشی (خیر) آن۔ وسے پشی، بھلائی ہونا
 خیر باد (خیر) باد، بھلائی، سوجی، وضعی، دلا۔
 خیرت (دخی) سرت، نیکی، عورت، نیکی، چرخان
 (خیر) سرت، برگزیدگی۔
 خیر خواہ (خیر) خواہ، بھلائی جاننے والا۔
 خیر خواہی (خیر) خواہ، بھلائی جاننا۔
 خیر خیر (خیر) خیر، بیہودہ۔
 خیر سنگال (خیر) سنگال، بھلائی سوچنے والا۔
 خیر سنگالی (خیر) سنگالی، بھلائی سرچنا۔
 خیرگی (دخی) کرگی، سرگشتی، بجا جوئہ اور
 اندھیرا، سوجھی، اپنے حیاتی۔
 خیر مقدم (خیر) حق۔ دم، استقبال، پیشوا
 خیر و (دخی) کوئے، مرد، خطی، پینا سنا، گل خیر
 خیر و عافیت (دخی) کوئے۔ کا۔ خیرت، بھلائی ہونا
 خیرہ (دخی) کوئے، بجا جوئہ، کوئہ، سرگشتی
 (خیر) خیر کی حق۔
 خیر ہی (دخی) ہی، ہی، ہی، ہی، دیکھو خیر
 خیریت (دخی) ہی، ہی، ہی، ہی، خیر و پانچ
 خیر و خیر، حج، اہم، اٹھان، اٹھنے والا۔

خیزان (دخی) ڈن ڈن دینا، ٹیڑھا ہوا۔
 خیزران (دخی) ڈن ڈن، ڈن ڈن، برات، بید۔
 خیزو میزا بنے۔ ڈن ڈن، اشتطاط، ارتباط۔
 خیزلن (دخی) تن، دیکھو خاستن۔
 خیساندرہ (دخی) ساں۔ ڈن، بھگوا ہوا۔
 خیسانیدن (دخی) سا۔ ہی۔ ڈن، بھگوا۔
 خیسفوج (دخی) سفوج، اچھوٹا۔
 خیسیدن (دخی) ہی۔ ڈن، بھگوا، سفوج
 خیسیدن (دخی) ہی۔ ڈن، بھگوا، سفوج
 خیش (دخی) ایک ہونا، خیش، دیشی بھگوا۔
 خیشوم (دخی) شوم، تنھنا، جیسا شیشوم۔
 خیط (دخی) ڈن، دھاگا، اچھا، اچھا۔
 خیط اسود (دخی) ڈن۔ آس۔ ڈن، رات کا اندھیرا۔
 خیط امیر (دخی) ڈن۔ آس۔ ڈن، رات کا اندھیرا۔
 خیطل (دخی) کل، لیل، گرہ۔
 خیف (دخی) باب کی طرف سے سوتلا بھلائی، حج
 آخیاں (دخی) ایک نیلی اور دوسری
 کالی آنکھ ہونا۔
 خیفہ (دخی) ڈن، کھٹکا، ڈن۔
 خیفہا (دخی) نا، خیف کا منٹ، ایک کالی اور
 دوسری نیلی آنکھ والی، لکھنے کی ایک ہفت
 جس میں ایک کلمہ نقطہ دار اور دوسرا نقطہ
 سلسلے دار ہوتا ہے۔
 خیک (دخی) پانی بھرنے کی مشک۔
 خیل (دخی) گردہ، ٹکڑی، ٹکڑوں کا گلہ،
 بہت، ٹکڑوں کا مجموعہ، اچھا۔
 خیللا (دخی) گا، وہ عورت جس کے بدن پر بہت سونے کی
 خیلان (دخی) نا، نا، نا، خال بینی، ماسوں کی حج۔
 خیلان (دخی) نا، نا، خال بینی کی حج۔
 خیلستان (دخی) نا، نا، مالک، امیر، ایک
 ڈیوٹی کے علام یا ڈنکر۔

در ڈال، قائم مقام علام، حرف شمس، منقدر
 حروف سے بدل سے ۱۔ ۲ کے ساتھ مثلاً بدیں،
 باں ۲۔ ۲ کے ساتھ مثلاً دالان، بالان ۳
 ت کے ساتھ (راج، تزان، ۱۔ ۱ کے ساتھ
 مثلاً گڑا، گرج، ۵۔ ۵ کے ساتھ مثلاً بید،
 بید۔ ۶۔ ۶ کے ساتھ مثلاً سرخ، سرد، سرخ، مرز
 ۷۔ ۷ کے ساتھ مثلاً پا، پاس۔ ۸۔ ۸ کے
 ساتھ کو داب، اکو شاپ۔ ۹۔ ۹ کے ساتھ مثلاً
 خطشہ، افدشہ۔ ۱۰۔ ۱۰ کے ساتھ مثلاً کلنگ
 کلند۔ ۱۱۔ ۱۱ کے ساتھ مثلاً رخ، رخ۔ ۱۲۔
 ۱۲ کے ساتھ مثلاً گزیدہ، گزینہ۔ ۱۳۔ ۱۳ کے
 ساتھ مثلاً بید، بید۔ ۱۴۔ ۱۴ کے ساتھ مثلاً
 تہرزد، تہرزد۔ ۱۵۔ ۱۵ کے ساتھ مثلاً
 ماوند، ماوند۔
 دا، ڈا، (دیوار کارہ دکا،) دیکھو داہ
 داہ (داہ) عادت، شان، ڈھنگ۔
 داہر دکا، پرت، پیچھے ہلنے والا، ہرگز کا خیر نہ۔
 داہر و عافیت دکا۔ جوئے، خیر، تہرزد، ہند، دانہ، مسجد۔
 داہر و عافیت دکا۔ جوئے، خیر، تہرزد، ہند، دانہ، مسجد۔
 داہر دکا، پرت، پیچھے ہلنے والا، ہرگز کا خیر نہ۔

دارالعلوم دكا۔ جرن۔ علوم، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی
 دارالعباد، دكا۔ جرن۔ حقیقت، محاسن۔
 دارالافتاء دكا۔ جرن۔ فکا، فوینا۔
 دارالقرارد دكا۔ جرن۔ خیراتی، بہشت، جنت۔
 دارالقضا، دكا۔ جرن۔ حقا، عدالت، کبریٰ۔
 دارالقائمہ دكا۔ جرن۔ فکا، مسد، چکلہ، قیہ خانہ۔
 دارالکتب دكا۔ جرن۔ تصحیح، کتب خانہ۔
 دارالملک، دارالحرم، دكا۔ جرن۔ مل، ملک،
 دارالمنزل، مری، زار، اورہانی۔
 دارالنہیم، دارالمنزل، نہیم، بہشت۔
 دارالبار، دارالذکر، بار، نظ، بازیکر۔
 دارالبت، دارالبت، بخت، بازار، بیلدارپٹھ
 کو پرہانے کا مٹھا پتھر۔
 دارالجاب، دارالچولب، الگنی۔
 دارالصنعتی، دارالرتی، پچی، رتی، ایک کڑھی جو ہاتھ
 میں کام آتی ہے۔
 دارالرس، دارالرس، جنین، والی عورت۔
 دارالرش، دارالرش، کالا جھڑا، سیاہ رنگ کا جھڑا
 دارالششدر، دارالششدر، شش، شش، ششہت
 خانہ، فوینا۔
 دارب، دارب، رخ، زہ، پوش۔
 دارالفضل، دارالفضل، فضل، میل، چوکیدہ ہے
 دارالمدار، دارالمدار، دارالمدار، چھراؤ۔
 دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ، رکھے والا۔
 دارود، دارالمدہ، دارالمدہ۔
 دارودعہ، دارالمدہ، دارالمدہ، چکر، دارالمدہ، دارالمدہ
 داروگیر، دارالمدہ، دارالمدہ، چکر، دارالمدہ، دارالمدہ
 دارہ، دارالمدہ، دارالمدہ۔
 دارسی، دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ
 دارین، دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ
 داس، دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ، دارالمدہ

داستان (داس۔ بیان)، شہرت، نصہ، کہانی۔
 داس رداش، داس، بیسی، اولاد، آس کی جگہ۔
 داسشت رداش، داس، رکھ رکھاؤ، رکھوالی۔
 داسشتن رداش، داس، رکھ، بیس، وارو۔
 داسشتہ رداش، داس، رکھا ہوا، مدخلہ، ناچار بوی۔
 داسی (داس، بیسی)، بلائے والا، دناگوں، ڈھانٹ۔
 داسیمہ (داس، بیسی)، خواہش، ارادہ، درخواست
 جیم، ڈوار، آس۔
 داخ (داس، بیسی)، اٹھان، ٹیکہ۔
 داغصہ، دكا۔ جرن۔ بیسی، بیسی، ہڈی کا ڈھکن۔
 داغی (داس، بیسی)، جیم، دھبہ، داغ، دانی، تیرہ۔
 داغ (داس، بیسی)، دوز، کرنے والا، بازار، رکھے والا۔
 داغہ (داس، بیسی)، دس، کرنے کی قوت۔
 داغی (داس، بیسی)، اٹھانے والا، پانی بکھرنے والا۔
 وال (داس، بیسی)، اٹھان، دلائل، کرنے والا، دوائ،
 صحاب، دوائ، اگید، وغیرہ کی نسل کا
 ایک جانور۔
 والان (داس، بیسی)، دلہیز، خانہ، پٹا، جواراستہ۔
 والی (داس، بیسی)، خوش، غلام۔
 دام (داس، بیسی)، ہمیشہ ہو جو۔ ۲۔ چمکے جانور،
 جان، پھندا، قرض، دسوی، نام دزن۔
 داماب (داس، بیسی)، دریا، سمندر۔
 داماد (داس، بیسی)، دوہلا، بیسی، کاشوہر۔
 دامان (داس، بیسی)، دیکھو، دامن۔
 دامخام (داس، بیسی)، خاتم، تولد، بھردن۔
 داس (داس، بیسی)، انگ، بیز، نام، سپانے والا۔
 داس (داس، بیسی)، سر، ٹوٹ۔
 داسن (داس، بیسی)، آس، پیل۔
 داسن انشان (داس، بیسی)، آس، پیل۔
 داسن چھاپنا، چھاپنا، اظہار، پیل کی چال۔
 داسن شنب (داس، بیسی)، شنب، آس، پیل، رات، چھاپنا۔

داسن کشان دوا سن۔ کنگن (خرماں) چٹا ہوا،

شکر، شہید

داسن کوہ (دوا سن۔ گڑھ) بیار کی تیلی۔

داسن گیر (دوا سن۔ گیر) داسن پڑنے والا نام،
دعویٰ کرنے والا۔

داسنی (دوا سن۔) ایک عرض کی پار۔

داسیدن (دوا سن۔) دُن، بیج بونا۔

داسیدہ (دوا سن۔) دُہ، بیج بویا ہوا

داس (دوا سن) جاننے والا۔

دانا (دوا سن) عقلمند، جاندار، اچھ دانا یاں

دانانی (دوا سن۔) عقلمندی۔

دانچہ (دوا سن) مسور، علس۔

دانشت (دوا سن) آگاہی، جان بوجھ

دانستن (دوا سن۔) جاننا، مضمون دانندہ

دانستنی (دوا سن۔) تینی، جاننے کے لائق۔

دانستہ (دوا سن۔) نہ جان بوجھ، جانا ہوا۔

دانیش (دوا سن) عقلمندی (دانانی)۔

دانیشی (دوا سن) عقلمند۔

دانیق (دوا سن) نادان آدمی، جو، بردا

دانگ (دوا سن) چھ رتی وزن، حصہ۔

دانگنہ (دوا سن) گانہ، اسباب خانگی، خوشین،

سیلابیو کا باہمی چندہ جو خرچ سفر کیلئے کیا کریں

دانندہ (دوا سن۔) دُہ، جاننے والا۔

دانہ (دوا سن) مال و اسباب، بیج، پھل۔

دانہ سپر (دوا سن) اسپر، پس کا چوا۔

دانہ ہیل (دوا سن) ہیل، الائیجی دانہ۔

داننی (دوا سن) ادھیا، نزدیک، آکس، کینہ۔

داننیال (دوا سن) نیال، دیکھو دُہ، دانیاں۔

دانیدہ (دوا سن) نزدیک ہونے والی۔

داند (دوا سن) جسے کی بازی اسکا، خوشی،

دیار، رتہ پین دیار کی چٹائی کھا لیک تہ۔

داور (دوا سن) انصاف والا، عالم۔

داوری (دوا سن) کورجی، حکومت، پنچایت۔

داورنگاہ (دوا سن) کٹان، عیال، پنچایت کی گج

دواہ (دوا سن) باندھی، بلوڑی۔

دایا (دوا سن) بہاڑی، گھو، درہ۔

دایہول (دوا سن) دیکھو، داخول۔

دایہی (دوا سن) چیز، عقلمند، حکمت۔

دایہیہ (دوا سن) زمانہ کی سختی، جو دوا رہی،

آؤہیہ۔

دایہ (دوا سن) دیکھ، پیاری، جم آؤ داء۔

دایہ لاسد (دوا سن) آؤ، کورھ کی پیاری۔

دایہ الشلب (دوا سن) آؤ، تھ، لب، بال

جھڑنے کی پیاری۔

دایہ (دوا سن) گرد پھرنے والا، گھیرنے والا۔

دایہ (دوا سن) دیکھو، با اختیار۔

دایہ (دوا سن) گھیرا، حلقہ، صیغہ،

عقلمند، گول خدا، اطراف، ہم دوا رہی۔

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

چنگی، خانہ، کسم، ہاوس، دوا رہی، دوا رہی،

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

دایہ (دوا سن) دوا رہی، دوا رہی، دوا رہی،

دخمہ (درخ-منہ) یا سپوں کا پردے خانہ (مقبورہ) سرداہے ، لہذا (منقشہ)۔

دخون (درخ-ن) احوال کا رخ (دخ-ن) دیکھو (دخ-ن)۔

دخمنہ (درخ-نہ) چنا۔
دخول (دخ-ول) اندر بڑھانا ، گھسنا۔

دخیل (دخ-یل) دخل دینے والا ، کارکنار۔
دو (دو) چیز کے بھاڑنے والا (چ-پایہ)۔

دوک (دو-ک) دو ، بجوں پر لائے۔
دوہ (دو-ہ) تھلہ مارا (دو-ہ) چلائے۔

دو (دو) میں ، اندر ، بچ ، دروازہ ، بھاڑنے والا (دو-ہ) سے بھری گا دوہ نیک کام خیر (دو-ہ) موقی۔

درا (دو-را) گھنٹہ ، جس۔
درایع (دو-را-ع) غیر درخ (دو-را-ع) سیما

فاریشہ ملک کانٹوں والے جنگلی چوپایہ جانور۔
درایحہ (دو-را-ح) تیرہ (دو-را-ح) قلعہ کا برج ، بوجی کا گڑ (دو-را)۔

درازیگہ (دو-را-ح) درسی کی جگہ۔
درازی (دو-را-ز) لیا لانا۔

درازیوتی (دو-را-ز) نفس ، ظلم ، زیادتی۔
درلزدوم (دو-را-ز-وم) اگر گٹھ کرکیتا۔

درارز شیدن (دو-را-ز-شیدن) سونا ، لیت جانا۔
درازا گوش (دو-را-ز-گوش) ایک لپے کان کا گدھا

درازی نفسی (دو-را-ز-نفسی) ہول کا نام ، بدبختی۔
درازی (دو-را-ز) زنی ، لمبائی۔

دراستی (دو-را-ز-ستی) سبق کہنا۔
دراعه (دو-را-ع) فقہیوں کا ایک لباس۔

دراک (دو-را-ک) بات کی تھانہ لانے والا۔
دراہم (دو-را-ہم) سیما ، خاریشت۔

دراکل (دو-را-ک) اندر کا آمد۔
دراکلن (دو-را-ک-ن) اندر آنا۔

دراکس (دو-را-ک-س) بھاڑنا ، پورا کرنا ، اس کا گناہ اس میں۔
درانی (دو-را-ن) چھا نون کا ایک نمبلہ۔

درائیدن (دو-را-ی-دن) بچھڑانا (دو-را-ی)۔
دراو (دو-را-و) بچ اس کے۔

دراوردہ (دو-را-و-ر-دہ) (دو-را-و-ر-دہ) بچ بچا۔
دراویکلن (دو-را-وی-کلن) (دو-را-وی-کلن) ہلکا ہلکا جانا

دراہسم (دو-را-ہ-سم) ررسم کی جگہ۔
درائیدن (دو-را-ی-دن) (دو-را-ی) آواز کرنا

مصم (دو-را-ی)۔
دراہی (دو-را-ی) گھنٹہ ، آواز کرنے والا۔

دراہیت (دو-را-ہ-یت) دانائی ، عقل ، جاننا۔
دریب (دو-را-ب) دروازہ چم (دو-را-ب) عقل ، عادت۔

دریاب (دو-را-ب) بابت ، بارے میں۔
دراپختن (دو-را-پ-ختن) بار جانا۔

دربار (دو-را-ب-ار) گہری آباد شاہی (دو-را-ب-ار) موقی برسانے والا۔

دربارہ (دو-را-ب-ار-ہ) بابت ، بارے میں۔
درمازی (دو-را-م-ا-زی) دربار میں بیٹھے والا (دو-را-م-ا-زی) نمازی عتوں کی باریش۔

درباش (دو-را-ب-اش) امیر و بیکوں کا چھوٹا منہ۔
دربان (دو-را-ب-ان) ڈیوٹی دار۔

دربانی (دو-را-ب-انی) ڈیوٹی دار۔
دریلر (دو-را-یلر) ایک سے دوسرے دروازے۔

درہبست (دو-را-ہ-بست) دیکھو روہیت۔
درہبند (دو-را-ہ-بند) قلعہ کا دروازہ (دو-را-ہ-بند) ابلدا

درہبوں کا درمیانی خانہ۔
درہیدان (دو-را-ہ-یدان) (دو-را-ہ-یدان) ہٹنا۔

درہیدوہ (دو-را-ہ-یدوہ) چڑھنے کا پردہ۔
بردے میں۔

درپوش (دڑ-پوش) درویش، دروازہ دھکنے والا۔
 دربی (دڑ-بی) تائبین، پیچھے، پیوند۔
 درپیش (دڑ-پیش) سامنے۔
 درپنج (دڑ-پنج) نغشیں، خطاط کی تحریر،
 لکھا ہوا کاغذ، درراج (دڑ-راج) جواہرات یا
 زیورات کا صندوق، درچہ، آؤ درراج
 (دڑ-راج) درجہ کی جمع۔
 درپنج (دڑ-پنج) دربر، شامل، دوسرے۔
 درپک (دڑ-پک) ڈبیا، صندوق۔
 درچہ (دڑ-چہ) درچہ، زینہ، پایہ، راہ چہ
 درپاج (دڑ-پاج)۔
 درحال (دڑ-حال) اسی وقت۔
 درخانہ (دڑ-خانہ) دیکھو درخانہ۔
 درخت (دڑ-خت) پتھر، لڑکھچ، درختان
 درختیا۔
 درختان (دڑ-خت) تیش، تیان، پڑوں کا رخ۔
 درختک (دڑ-خت) تلک، چوٹا پتھر۔
 درخ (دڑ-خ) دیکھو فرخ۔
 درخش (دڑ-خش) تیش، درخش، اش، اجس،
 جگ، روشنی۔
 درخشاں (دڑ-خشاں) شاں، اجگتا ہوا۔
 درخشیدن (دڑ-خشدن) شادابی، دلچ، چمکانا۔
 درخشندہ (دڑ-خشندہ) روشن، دہ، چکنے والا۔
 درخشیدن (دڑ-خشیدن) روشن، دلچ، اجگتا ہوا۔
 درخشندہ (دڑ-خشندہ) روشنی، چکنے کے لائق،
 چمکیں پسند۔
 درخشیدہ (دڑ-خشیدہ) روشنی، دہ، چمکا ہوا۔
 درخفت (دڑ-خفت) بھوڑا، بوز۔
 درخور (دڑ-خور) درخور، در، در، در، در،
 لائق، ہزارا۔
 درخواست (دڑ-خواست) عرض، التماس،

عرض حال۔
 درو (دڑ-و) دکھ (دڑ-د)، تلخ۔
 دروا (دڑ-وا) آغوش، اپنے در (دڑ-د) اس
 پوٹی، مدد، عورت جس کے دانت اکھڑ گئے ہوں۔
 درواپ (دڑ-واپ) خواب، بخور، چغاب، دوطہ۔
 دروانہ (دڑ-وانہ) سنج، موتی کا دانہ۔
 دروک (دڑ-وک) پتلا، مینہ۔
 دروکش (دڑ-وکش) تلخ، مینہ والا۔
 دروکشی (دڑ-وکشی) تلخ، مینا۔
 دروڈم (دڑ-وڈم) دسی، دقت۔
 دروہندہ (دڑ-وہندہ) دکن، دکن، دکن والا۔
 دروہندی (دڑ-وہندی) دکن، دکن والا ہونا۔
 دروناک (دڑ-وناک) درد سے بھرا ہوا۔
 درونای (دڑ-ونای) درد سے بھرا ہونا۔
 دروی (دڑ-وی) تلخ۔
 در (دڑ-ر) درہ کی جمع۔
 درزد (دڑ-زد) ننگان، ڈاڑھ، جم، دروز۔
 درزون (دڑ-زون) ڈون، طالب ہونا، مانگنا۔
 درزمان (دڑ-زمان) زکان، اسبقت۔
 درزن (دڑ-زن) زکن، سوزن۔
 درزما (دڑ-زما) زنی، چٹا، کپڑا، سینے والا۔
 درس (دڑ-رس) سبق (دڑ-س) پڑانا، پڑانا۔
 در (دڑ-ر)۔
 درساغت (دڑ-ساعت) فی الفورا، مہما۔
 درست (دڑ-رست) ٹھیک، تمام، سگہ۔
 درستی (دڑ-رستی) صحت، ٹھیک ہونا۔
 درسی (دڑ-رسی) سبب، درس، چھائی
 سے متعلق۔
 درشت (دڑ-رشت) سخت، گھرا، گھرا۔
 درستی (دڑ-رستی) بی، بیضی، نرہی، کھڑکی۔
 در شہوار (دڑ-شہوار) کھٹ، کھٹ، بادشاہ کو لائق موتی۔

درص در درص پہنچی چوسے یا ئی کا پچہ۔

درص (درص) (زرہ، پیرہن، پورشاک، لباس) درصہ (درصہ) (گڑ)۔

درصغ (درصغ) (فا۔ گڑ، بہاڑی درو)۔

درقش (درقش) (ش۔ انبر، زردن، ش۔ مستالی)۔

درقشاں (درقشاں) (شخال، پچتا ہرا، روشن)۔

درقشاں (درقشاں) (سوتی چھاڑنے والا)۔

درقشدہ (درقشدہ) (زڈ، کھینے والا)۔

درقشدن (درقشدن) (شچی۔ کڑ، پچکا، کاپتا)۔

درقشدن (درقشدن) (شچی۔ کڑ، پچکا، کاپتا)۔

درقشیدہ (درقشیدہ) (شچی۔ ڈو، چیکا ہوا)۔

درق (درق) (زڈ، درق کی بیج)۔

درقہ (درقہ) (زڈ، ڈھال، زرہ چم ورق)۔

درک (درک) (سردوم، اوراف (زڈ، کڑ)۔

درک (درک) (سردوم، اوراف (زڈ، کڑ)۔

درکا (درکا) (کاڑ، ضرورت، خواہش، کام میں)۔

درکشاں (درکشاں) (تالی، کچی، دروازہ کھولنے والا)۔

درکل (درکل) (شکل، تمام، بالکل)۔

درکل (درکل) (زڈ، کل، ایک طرف)۔

درکہ (درکہ) (کڑ، کڑ، تلیٹی، درق کا)۔

درکہ (درکہ) (کڑ، کڑ، تلیٹی، درق کا)۔

درگاہ (درگاہ) (کاڑ، دربار، کچہری، مقبرہ)۔

درگدز (درگدز) (گڑ، گڑ، چوڑ، چھوٹ)۔

درم (درم) (پیسہ، درمی، درم)۔

درم سرا (درم سرا) (سرا، کھاں، درالغریب)۔

درما (درما) (سرا، خروش)۔

درمان (درمان) (کلاج، دغا)۔

درماندن (درماندن) (ذوق، عاجز ہونا، لاج پزیر ہونا)۔

درماندہ (درماندہ) (ڈو، ناچار، عاجز)۔

درماہ (درماہ) (ڈو، ناچار، عاجز)۔

درماہ (درماہ) (ڈو، ناچار، عاجز)۔

تخواہ دار۔

درمکوں (درمکوں) (گڑ، کھت، گڑن، پچتا ہوتی)۔

درمک (درمک) (گڑ، کھت، سفید روتی، میدہ)۔

درمکہ (درمکہ) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درمل (درمل) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درمن (درمن) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درمیسان (درمیسان) (پچ، اوسط)۔

درمیانی (درمیانی) (پچ، والا، منسوب، پچا)۔

درن (درن) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درندہ (درندہ) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درنفس (درنفس) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درنگ (درنگ) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درود (درود) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا، دروان (دروا، دروان) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا، دروان (دروا، دروان) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروازہ (دروازہ) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروانڈ (دروانڈ) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروان (دروان) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درواہ (درواہ) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درواکی (درواکی) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درواہیت (درواہیت) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

درواہیت (درواہیت) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دروا (دروا) (گڑ، کھت، سفید روتی)۔

دزدانیدن (دزد - دزدی - دزدان) چوری کرنا -
 دزدند (دزد - دزد - دزد) دزدان کرنا -
 دزدی (دزد - دزدی) چوری -
 دزدیدن (دزد - دزدی) چورنا معن و زور و -
 دزدیده (دزد - دزدی) دزد چوریا ہوا چرائی ہوئی -
 دزدینہ (دزدی) نہ (دزدن) بارہ چیریں اکھی -
 دزدوڑ (دزد) کوٹ، گڑھی، بھونڈا، خراب -
 دزدبان (دزد) بان، نقد والا -
 دزدخیم (دزد) خیم، مری عارت والا -
 دزدک (دزد) کس، دزدی کا بل -
 دزدم (دزد) م، غلبین، طھیل -
 دزدمال (دزد) مال، حسرت، دامنوس -
 دزدن (دزد) ن، تیز مزہ اور چھٹی چیز -
 دزدچخت (دزد) چخت، بیتا اللہس، جیر سلم -
 دس (دس) دس، مانند دس، ٹھنڈا -
 دساتیر (دس) تیر، دستور کی حج -
 دساتیر (دس) تیر، دسبہ بارہواں انگریزی ہینہ -
 دساتس (دس) ساتس، دسیسہ کی حج -
 دست (دس) دست، ہاتھ، جم و دستا، دستا
 فائدہ، شاہی گدی، فتح، توت، ریش، دزیرا
 دست، باری، پوری چیز، پتلا یا فاند -
 دست ابرنجن (دس) دست، آبن، رن، چن، لکن، پہوچی
 دستار (دس) دستار، پکڑی، پاک، آرٹھی -
 دستار بزرگ (دس) دستار، بڑھو، گ، بھڑو -
 دستار بند (دس) دستار، بند، سند یافتہ عالم -
 دستار بند کا (دس) دستار، بند، دوی، افضلیت کی سند -
 دستار چھ (دس) دستار، چھ، رمال، اکرنہ -
 دستار خوان (دس) دستار، خوان، دیکھو دستار خوان -
 دستاس (دس) دستاس، دست، دست، ہاتھ کا پی
 دست افراز (دس) دست، آبن، ساز، کاگر کا اور ساز
 دست افشالی (دس) دست، آبن، نشان، ہاتھ جھارنا

دست آسوز (دس) دست، آسوز، ہاتھ پیکھ لایا ہوا
 دستاں (دس) دستاں، دست کی جمع حالت،
 دستاس، پھل، سکر، جیلہ، داستان، گیت،
 بہورہ مگرئی -
 دست انداز (دس) دست، آبن، داز، عالم
 لید، ہاتھ مارنے والا -
 دست اندازی (دس) دست، آبن، دازی (دزدی)
 دس، دینا، ہاتھ مارنا -
 دستا نہ (دس) دستا، نہ، ہاتھ کی پوشش -
 دستا آویز (دس) دست، آبن، دوز، سلاہ کی
 تحریریں سند -
 دست بازی (دس) دست، آبن، بازی، پنجہ کشی
 ہاتھ پائی -
 دست ہاف (دس) دست، آبن، آسان -
 دست بالا (دس) دست، آبن، ہاتھ، غالباً منورہ -
 دست بدست (دس) دست، آبن، ہاتھوں ہاتھ
 دست برد (دس) دست، آبن، برد، داکوٹ لاث،
 بازی، غلبہ، ہاتھ چھائی -
 دست بردل (دس) دست، آبن، برد، ہاتھ پھینکا
 دست برنجن (دس) دست، آبن، برنجن، دیکھو دست برنجن
 دست بستہ (دس) دست، آبن، بستہ، کجوس، تازی
 ہاتھ باندھا ہوا -
 دست لبر (دس) دست، آبن، دستار، دستار، اسلامی
 دست لپی (دس) دست، آبن، لپی، کپڑے کی لپی -
 دست بند (دس) دست، آبن، بند، کلائی کا
 زہور، رقم ناپ -
 دست شاہ (دس) دست، آبن، شاہ، آگ کھینکا جیٹا -
 دست بیچ (دس) دست، آبن، بیچ، دست آدرنا ذلیہ -
 دست پکان (دس) دست، آبن، پکان، ہیر میں -
 دست چیلن (دس) دست، آبن، چیلن، گدا کی کرنا -
 دست چرب (دس) دست، آبن، چرب، امداد، عانت -

دست چیر (دُش) ات - چیر، غالب -
 دستخط (دُش) ات - خط، خود اپنا لکھا ہوا نام،
 دستخطی (دُش) ات - خطی، جسیر دستخط ہوں -
 دستخوان (دُش) ات - خزانہ، گھانا
 رکھنے کا کپڑا -
 دست خوش (دُش) ات - خوش، مسخرہ، عاجزا
 شق، قدرت -
 دسترس (دُش) ات - رس، پہنچ، قدرت -
 دست رنج (دُش) ات - رنج، محنت، ا
 پیشہ، اجرت -
 دست نالی (دُش) ات - نالی، پہنی، ہر روز پہنی جاتی
 دستک (دُش) ات - بچن، دروں ہاتھ کی تالی، لیسٹن -
 دستکار (دُش) ات - کار، ہاتھ کا کام کرنے والا -
 دستکاری (دُش) ات - کاری، کاری، جڑی -
 دست کش (دُش) ات - کش، ہاتھ پھینچنے والا
 سہاقل، تحفہ، لالچی، اعصاب، دستا نہ -
 دست کشی (دُش) ات - کشی، ہاتھ پھینچ لینا، بے لطف ہونا
 دست کشی (دُش) ات - کشی، دستی یا جینی چیر -
 دستگاہ (دُش) ات - گاہ، قدرت، سامان، سرمایہ، سند -
 دستگاہ (دُش) ات - گز، ڈال، عاریت، جو ہاتھ نہیں چیر
 دستگاہ (دُش) ات - گز، دستگاہ کا تحفہ -
 دستگیر (دُش) ات - گیر، مددگار، گرفتار -
 دستگیری (دُش) ات - گی، بری، مددکاری،
 گرفتاری -
 دست لاف (دُش) ات - لاف، جھپٹی، دست نال
 دستمال (دُش) ات - مال، ہاتھ پر چھنے کا ڈالا،
 ضانی، ذبول، قیدی -
 دست مایہ (دُش) ات - مایہ، سرمایہ، پونجی -
 دست نماس (دُش) ات - نمج، نمج، میر، نمج -
 دست مراد (دُش) ات - مراد، یار، مددگار -

دست مزد (دُش) ات - مزد، اجرت، مزدوری
 انعام -
 دستنویب (دُش) ات - دستنویب، دست -
 تیار، کچی، سیدھی ہاتھ میں لیکر سکتے ہیں -
 دست نگر (دُش) ات - نگر، حاکم، حاکم، حاکم -
 دستوانہ (دُش) ات - ڈا، ڈا، ٹنگن -
 دست و پا (دُش) ات - ہوا، تلاش، کوشش،
 ہاتھ اور پاؤں -
 دست و دل (دُش) ات - دل، قوت، اہمیت،
 ہاتھ اور دل -
 دستور (دُش) ات - نور، قانون، قاعدہ، رخصت،
 اجازت، وزیر، امیر، صاحب، صاحب
 قدرت، چوڑا، تیز، اور شوقی -
 دستور العمل (دُش) ات - نور، عمل، کام
 کا طریقہ -
 دستوری (دُش) ات - نور، وزارت، رخصت،
 اجازت، کمیشن، پارلیمنٹری -
 دست وزارت (دُش) ات - نر، رت
 سند وزارت، وزارت کا منصب -
 دستہ (دُش) ات - ہڈ، سولہ، بیٹھ، بے ادب،
 مددگار، گروہ، ٹھوس (دُش) ات - ہڈ، ہڈ -
 دستہ دار (دُش) ات - ہڈ، دار، جھپٹ کا افسر -
 دستی (دُش) ات - تی، منسوب بہ دست، ہاتھ
 والی چیز، ہاتھ میں رکھنے کی چیز -
 دست یار (دُش) ات - یار، مددگار، ہتھیار -
 دستینہ (دُش) ات - ہڈ، دیکھو دستا نہ -
 دستاں (دُش) ات - ہڈ، دیکھو دستاں -
 دستم (دُش) ات - چکانی، چربی، دستم، چکانی،
 چکانا، ماسا، دستم، م، میلا کپڑا (دُش) ات -
 نمان یا زخم کس کرنا دھنا -
 دستمر (دُش) ات - مراد، روبر، درج، ماشعل -

دل اور سی (دل) - آ- ڈوری، دکا۔ ڈوری (بہادری)۔
 دلا ویز (دل) - آ- ویز، من بھانا، دلہندہ۔
 دلائل (دل) - ان، دلیل کی جمع۔
 دل (دل) - چار کا بیڑ۔
 دلنازل (دل) - بنا۔ ذال، چڑا ڈیرہ، برسی فوج۔
 دلنازل (دل) - باز، چالاک، نظر۔
 دلنازی (دل) - بنا۔ زنی، جان جوہم۔
 دلسر (دل) - بز، دل بھانے والا، معشوق۔
 دلبرنی (دل) - بری، معشوقی۔
 دلہنگی (دل) - بش، نکاح، دل کی لگی، لگن۔
 دل بستہ (دل) - بش، نکاح، دل نکا ہوا۔
 دلبر (دل) - بن، دل کا چھوڑا، بیٹھا۔
 دلپند بڑے دلپسند (دل) - پند، دل، پند (دل)
 دل بھانے والی چیز، من محبوبی۔
 دل لفتہ (دل) - تفتہ، تفتہ، محبت سے دل
 چلا ہوا۔

دلدار سی (دل) - خواہی، دلاسا، ڈھارس۔
 دلدار (دل) - دل، سہمی، موسمار۔
 دلروز (دل) - روز، دل میں محسوس جانے والا۔
 دلدرسی (دل) - زحمت، ڈھارس، تیلی، عاشقی۔
 دلریا (دل) - چکا، معشوق، دل چپک لے جاتی والا۔
 دلریائی (دل) - چکا، راستی، محبوبی۔
 دلریش (دل) - ریش، جبکا دل نکالنے والا۔
 دلریشی (دل) - برے ریش، دل نکالنا، منان۔
 دل زدہ (دل) - زدۃ، دل کا مارا ہوا۔
 دل ساز (دل) - ساز، خوش۔
 دل سازی (دل) - ساز، زنی، خوشی۔
 دلستان (دل) - دلستان، معشوق، دل لینے والا۔
 دل سوختہ (دل) - سوختہ، تباہ، دل چاہ۔
 دل سوز (دل) - سوز، ہمدرد، محبوب۔
 دل سوزی (دل) - سوز، زنی، ہمدردی۔
 دلشاد (دل) - شاد، خوش۔
 دل شیب (دل) - شیب، آدمی رات۔
 دل شدہ (دل) - شدہ، دل گیا ہوا۔
 دل شکستہ (دل) - شکستہ، تباہ، دل ٹوٹا ہوا۔
 دل سحر (دل) - سحر، زبان نکالنا۔
 دل فرور (دل) - فرور، دل روشن کرنے والا۔
 دل فریب (دل) - فریب، دل کو بھانے والا۔
 دل نکار (دل) - نکار، دیکھو دل انکار۔
 دل نفس (دل) - نفس، دل بھانے والا۔
 ایک ہمدردی، پھولی، آرتھو، دل بھاننے والا۔
 دل قیق (دل) - قیق، گلہ زنی، گلہ زنی۔
 دلک (دل) - دل، کھانا۔
 دلکار (دل) - کار، دلبر کام کرنے والا۔
 دلکاری (دل) - کاری، دلبر کام کرنا۔
 دلکش (دل) - کش، مرغوب، دل کھینچنے والا۔
 دلکش (دل) - کش، دل کھولنے والا۔

دلنگ (دل) - تنگ، کبوس، رنجیدہ۔
 دلنگی (دل) - تنگ، کبوسی، رنجیدی۔
 دل صبح (دل) - صبح، ڈھارس۔
 دلجو (دل) - دل، چو، دل، چو، تیلی، زبیرا۔
 دلجونی (دل) - چو، زنی، دلاسا۔
 دلچسپ (دل) - چسپ، دل میں دل لگے۔
 دلچسپی (دل) - چسپ، دل لگنا۔
 دل خراش (دل) - خراش، دل بھینے والا۔
 دل خراشی (دل) - خراشی، دل چھینا۔
 دلخندہ (دل) - خندہ، رنجیدہ، دلخندہ۔
 دل خواہ (دل) - خواہ، دل کی خواہش۔
 دل خوش (دل) - خوش، من، جبکا دل خوش ہے۔
 دلدادہ (دل) - دادۃ، دل دیا ہوا، عاشق۔
 دلدادگان۔
 دلدار (دل) - دار، پیارا، محبوب۔

دندان سر، سر پیکر آتا۔
 دوارہ دڈوڈا - زہہ (برکار، مغرار، کولہ)۔
 دوارسی دڈوڈا - ریچی، زمانہ۔
 دوازدہ (دو ڈوازدہ) - ڈواڈا، پارہ، حصہ۔
 دواسپہ (دو ڈوا) - ایش، پتہ، شتاب، جلد۔
 دواغی دڈواغی، دواغیہ کی جمع۔
 دوال دڈوا (دو ڈوا) - چڑھے کا نشہ۔
 دوال بازار دڈوا (دو ڈوا) - بازار، فریبی، دغا باز۔
 دوالک دڈوا (دو ڈوا) - نشہ سے کھینے کا ایک چوا۔
 دوالی دڈوا (دو ڈوا) - چرس، چڑھے کی پمٹی۔
 دوالیبیب دڈوا (دو ڈوا) - لیف، دولاہ کی جمع۔
 دواہم دڈوا (دو ڈوا) - پیٹنی، بیٹھہ۔
 دوال دڈوا (دو ڈوا) - دوڑتا ہوا۔
 دوانیدک دڈوا (دو ڈوا) - پنی، ڈان، دوڑانا۔
 دواوین دڈوا (دو ڈوا) - وین، دیوان کی جمع۔
 دواہمی دڈوا (دو ڈوا) - ہمی، دواہیہ کی جمع۔
 دواستر دڈوا (دو ڈوا) - اتر، داترہ کی جمع۔
 دوائی دڈوا (دو ڈوا) - ایچی، دوا کا مزید علیہ، دوا دارو۔
 دواہ دڈوا (دو ڈوا) - یحہ، ملائی سر شیر۔
 دوارہ دڈوا (دو ڈوا) - زہہ، دوسری زہہ۔
 دوانالا دڈوا (دو ڈوا) - لا، کنگا، دچندر۔
 دوپہو دڈوا (دو ڈوا) - ہنو، آنے سانے۔
 دوپھل دڈوا (دو ڈوا) - فیل، دالہ یا تی چوڑائی۔
 دوپارہ دڈوا (دو ڈوا) - پارہ، ڈوڑھے۔
 دوپاتہ دڈوا (دو ڈوا) - پاتہ، ڈوٹھا کھول دالا۔
 دوپہوین دڈوا (دو ڈوا) - ہوین، زہی (میدہ)،
 کو با چھٹا ہوا آٹا۔
 دوپہر دڈوا (دو ڈوا) - پھر، دن کا دسواں حصہ۔
 دوپیانہ دڈوا (دو ڈوا) - پیا، زہہ، پیاز دالا گوشت۔
 دوپیکر دڈوا (دو ڈوا) - پکی، کرن، برج جوا۔

دندان (دو ڈن) - رچی، ڈن، منقہ سے بر طرف آنا۔
 دنگ (دو ڈنگ) - جیران، دیوانہ۔
 دنکل (دو ڈنگ) - کل، اکھاڑہ، کشتی اڑانے کی جگہ۔
 دنکی (دو ڈنی)، پاجھی، کینہہ، ڈانی، دنا، ندریک۔
 دنیا (دو ڈنی)، پاجھی، یہ جهان۔
 دنیا وار (دو ڈنی) - یا، ڈا، کار، دیار زندگی
 میں پھنسا ہوا۔
 دنیا وار (دو ڈنی) - یا، ڈا، رچی، کار، دیار
 زندگی میں پھنسا۔
 دنیا ساز (دو ڈنی) - یا، ساز، دنیا دار، ظاہر دار۔
 دنیا ساز (دو ڈنی) - یا، ساز، دنیا دار، دنیا دار کی
 ظہور کی۔
 دنیاوی (دو ڈنی) - یا، دنیاوی، رچی، ڈن۔
 دنیاوی (دو ڈنی) - یا، دنیا، دنیا کا، دنیا کی۔
 دندان (دو ڈنی) - ڈان، چھڑانا، مون میں راہ چلانا،
 خوشی میں دوڑنا۔
 دنیاوی (دو ڈنی) - یا، دنیا، دنیا، مسو بہ دنیا۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - ایک اور ایک (دو ڈوا) - بیابان
 (دو ڈوا) - دوڑ، دوڑنے والا۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - دارد، طلاع، چھ آڈو پیہ۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - پیہر، دوا قبول کرنے والا۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - داتہ کی جمع۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - روشنائی کا برتن، آمد جمع
 دو دڈوا (دو ڈوا) - دوشی۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - ڈوڈو، آنے لکھنے، جس کا توام ڈوا
 نیار کی گئی ہو۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - دو دڈوا، دو دڈوا،
 لکان، بلا پوش (دو دڈوا) - لباس۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - خفن، دشمن کی جمع۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - ڈو، بھاگا بھاگا، بھاگا دور۔
 دو دڈوا (دو ڈوا) - ڈوانی، پکڑنا والا، کھوسنے والا (دو ڈوانی)

دولہ (دولہ یا بیہ بین الاتوازی) دول سے نسویہ۔
 دوم (دوم) دوسرا۔
 دومیں (دو دینس) آہنی خود۔
 دومن (دومین) بادام۔
 دووی (دووی) کھمبھی بال، کرپڑے بال۔
 دووی (دووی) دوویں (دوویں) دوسرے والا۔
 دون (دون) کینہ، بسوا، غیرا تھوٹا، پاس،
 پیچھے، کھوس، زبیل۔
 دونہ (دون) ڈون (ڈون) دوڑنے والا۔
 دوپیہ (دوپیہ) پیچھے، دوٹوک، دوبارہ۔
 دووی (دووی) بیگانگی، نفاق۔
 دووین (دوویں) دوات۔
 دوویں (دوویں) دون (دون) سے ڈونڈو۔
 دوویہ (دوویہ) دووی (دووی) دوڑا ہوا۔
 دوویست (دوویسٹ) دونوں۔
 دوویل (دوویل) کوسے کا کچا ریشم، مکھریہ۔
 دہ (دہ) دل (دہ) دیکھو دیہ جم وکھا
 دینے والا، کلمہ لفظیں، ہٹ ہے۔
 دہا (دہا) ذریک، چیز کی، چترائی، عشرہ محرم۔
 دہانت (دہانت) داہی کی جھ۔
 دہانق (دہانق) بھرا ہوا، بھگلتا ہوا۔
 دہانپین (دہانپین) دہقان کی جھ۔
 دہان رکھان (دہان) مٹھہ (دہان) نیلی۔
 دہان (دہان) دہن کی جھ۔
 دہان ورہ (دہان) ڈرہ جہاں، تازہ، ٹوبا۔
 دہانہ (دہانہ) ہتھ، مٹھہ، سوراخ کے اطراف۔
 دہانیر (دہانیر) دہان، دوانا۔
 دہانتی (دہانتی) دس کا پندرہ، سوال جھتہ۔
 دہانتی (دہانتی) دس سے باہر کا۔
 دہنچی (دہنچی) بیچی، کھانا۔
 دہنچندر (دہنچندر) جین، دس گت۔

دہ خدائے (دہ) خدائی، گھاؤں والا۔
 دہ لہریں (دہ لہریں) ڈوڈو، کچھ، بادل، درد،
 دہ دل (دہ دل) دہ دلہ، دہ (دہ) دہ، دہ، دہ،
 سنانی، مترادف، بہادر، پریشان خاطر۔
 دہ دہی (دہ دہی) دہی، گھرا، زرخا، سگڑ
 راج الوقت، ادھ سگڑ کھس کا چلن ہے۔
 دہر (دہر) روزگار، زمانہ، ہمیشہ، حم، دہور۔
 دہ روز (دہ روز) روز، دس دن، تھوڑی مدت۔
 دہرہ (دہرہ) ایک ہتھیار یا نڈ سنگین۔
 دہرہری (دہرہری) دہرہ، دہری، دہری، دیکھو دہریہ
 دہرہ (دہری) بہت بڑھا۔
 دہرہہ (دہرہہ) دہری، منسوب بہ دہرہ جو زمانہ
 کو تقدیم کرنے کا نفاذ ہے۔
 دہ زوہ (دہ زوہ) دہری، دہری، دہری،
 دہستان (دہستان) دہستان، دہستان، دیہاتی علاقہ۔
 دہتن (دہتن) دہتن، دہتن، دہتن، اچھا
 سخیر، دہتا، دہتا، دہتا، دہتا،
 دہشت (دہشت) دہشت، دہشت، دہشت،
 دہقان (دہقان) دہقان، گھوڑا، دہقان، دہقان،
 دہقانیت (دہقانیت) دہقان، دہقان،
 دہکدہ (دہکدہ) دہکدہ، گھوڑا، گھوڑا،
 دہ کپا (دہ کپا) دہ کپا، گھوڑا، گھوڑا،
 دہنگال (دہنگال) دہنگال، گھوڑا، دہنگال،
 دہن (دہن) دہن، دہن،
 دہلا (دہلا) دہلا، دہلا، دہلا، دہلا،
 دہل (دہل) دہل، دہل، دہل، دہل،
 دہلین (دہلین) دہلین، دہلین، دہلین،
 دہم (دہم) دہم، دہم، دہم،
 دہمت (دہمت) دہمت، دہمت، دہمت،
 دہ مردہ (دہ مردہ) دہ مردہ، دہ مردہ، دہ مردہ،
 دہن (دہن) دہن، دہن، دہن، دہن، دہن،

دہندہ (دوہن) ڈوہ، دینے والا۔

دہن مصری (ڈوہ) دین یعنی برقی روغن لسان

دہنہ رُوہ (دہ) دریا کا کنارہ، ملک کی مسجد،

رُوہ (دہ) زور، آزمائش، روئے، ایک قسم کی لگام۔

دہنیت رُوہ (دہ) بی، بیٹ، چکنا چٹ۔

دہی (دوہی) زمیندار (دوہی) زبکی۔

دہ لک (دوہ لک) رُوہ لیک، ڈوہ (دوہی) سرواں

حصہ ایک تقدیم حصول۔

دوہی (دوہی) گذرتی ہوئی گل (دوہی) فارسی کا

درواں سسی پھیند۔

دیوار (دوہی) دار کی صف، علاقہ، ملک (دوہی) ایاز،

ظہر والا، باہشتہ۔

دیاقوہ (دوہی) ڈوہ (دوہ) ایک مرکب دوا۔

دیال (دوہی) بانج، چم کر نیوالا، جزا دینے والا۔

دیامنہ (دوہی) تفت بردستی، دیناری۔

دیامنہ دار (دوہی) تفت، ڈوہ، ایماندار۔

دیامنہ دار (دوہی) دیال، تفت، ایمانداری

دیامیاد (دوہی) بانج، ایک باریک اور نپین ریشمی کپڑا۔

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

دیباہ (دوہی) دیباہ، دیباہ، دیباہ، دیباہ

ڈان، دیکھو دین۔

دید بان (دوہی) بانج، فاسوس، نظر باز۔

دیرین (دوہی) ڈن، ملاقات کرنا، دیکھنا

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیشب (دوہی) دیشب، دیشب، دیشب، دیشب

دیگر روئی (گڑ، حرن عاظمہ، دکولا، اورا پھر
 دیگ نشو درنگ، شوش، خدمت گار، خدمتی -
 دیلمہ روئی، گم، دسے، گم، نام ملک، ترکی اور
 ایشی ددغلا، پینا، خزینہ -
 دیک (دیچہ) ایک قیرا، کال، ہمنہ، ریشنی -
 دیباس (روئی) کاشی، بیٹھ، حاتم، گرماہ -
 دیلمہ روئی، سز، رضار، کمال -
 دیک روئی، کنگ، ایک سفید چینی -
 دیلمہ روئی، سز، کاجھڑ، سدا، ہمیشہ، دیم -
 دین (دیچہ) مذہب، دیچہ، مہم، اوقیان (دین)
 قرین، ادھار، جم، دیچہ
 دینا پر روئی، کاز، ایک برنی سز، کنا پیر، تم، کوش
 دین، سبھی روئی، دین، سز، سز، حضرت
 ابراہیم کا دین -
 دیندار (دین) دار، مذہب کا پابند (دین)
 دار، قرین دار -
 دیندار (دین) دار، سز، مذہبی پابندی
 (دین) دار، سز، قرین -
 دینہ روئی، سز، گذری ہوئی کل -
 دیو (دیچہ) بھوت، جن، ابلیس، قریب -
 دیوار (دیچہ) دار، بھنت -
 دیوارہ (دیچہ) دار، سز، کھنہ -
 دیوان (دیچہ) دار، ایک شاعر کی غزلوں
 کا مجموعہ، دیوان، دیوانہ، صاحب
 مسند، صاحب عدالت، گورنمنٹ، پکری، حکم
 دیوانی (دیچہ) دار، سز، پائل بن، یاد اپن -
 دیوانہ (دیچہ) دار، سز، پائل، یاد اپن -
 دیوانی (دیچہ) دار، سز، سرکاری پکری، پائل
 لین دین کے معاملات فیصلہ ہوں -
 دیوانہ (دیچہ) دار، سز، گرد باد -

دیوٹ (دیچہ) پوٹ، بھڑوا، تلپان -
 دیوچہ (دیچہ) چہ، جونک، دیک -
 دیو دار (دیچہ) دار، پیا سڑی، درخت کی ایک قسم -
 دیو دلی (دیچہ) دلی، دلادری، سخت دلی -
 دیو روے - دار، مالک، مکان، شوہر کا چوٹا بھائی
 دیو زاد (دیچہ) دار، قوی، میکل، تنادور -
 دیو زو، دیو زوہ (دیچہ) دار، دیو، زوہ، جہیر
 بھوت آگیا ہو -
 دیو سار (دیچہ) سار، دیو کی مانند -
 دیو سینہ (دیچہ) سز، کابوس، خشک -
 دیوک (دیچہ) کانت، دیکھو، دیک -
 دیولاس (دیچہ) لاس، دیو دینی، سز -
 دیو مار (دیچہ) مار، اثر -
 دیو مردم (دیچہ) مردم، بن مانس، گریلا
 ایک مذہبی مخلوق -
 دیون (دیچہ) دین کی جمع -
 دیوہ (دیچہ) دیو، ریشم کا کپڑا -
 دیوہ (دیچہ) دیو، گادوں، کھیرا، جم دیہات -
 دیوہیم (دیچہ) دیو، سز، تاج -

ذات
 ذر ذات، قائم مقام عدد... حرت شمسی... ذال
 سے بدل ہے مثلاً کاغذ، کاغذ، استاذ
 استاذ - ذر سے بدل ہے مثلاً فظ، فظ -
 ذرا (ذرا) یہ مرد، شاداوند -
 ذرا ب (ذرا) عجیب، ساسا، بچھلا ہوا -
 ذرا ب (ذرا) سز، ذرا ب کتہہ والا -
 ذرا ب (ذرا) سز، فاضل، پراگندہ -
 ذات (ذرا) حقیقت، ہر چیز کی ہستی، صاحب
 نفس جم ذات
 ذات الجنب (ذرا) سز، جم، اب، نمونہ، پیل کی سز

ذفر دُؤن (ر) تیزبو (ذفر) بیاڑنگ بلان۔
 ذہیف (ذہیف) جلد، سب۔
 ذوقن (ذوقن) عطرسی جہر آذوقان۔
 ذکا (ذکا) سورج، صبح (ذکا) عقل۔
 ذکاوت (ذکا) ذکا۔ ذکا (ذکا) عقل۔
 ذکر (ذکر) (ر) نیا بیادیم آذوکار (ذکر) ذکر
 مرد کا عضو تناسل جہنڈا کہہ کر ذکر
 ذکرانج (ذکر) (ر) یاد کرنا۔
 ذکرہ (ذکرہ) (ر) تیزی (ذکرہ) (ر) مردانی
 ذکوہ (ذکا) (ر) گلگاشا، ذبح کرنا۔
 ذکورہ (ذکورہ) (ر) مذکر۔
 ذکی (ذکی) (ر) تیز صبح مردج آذکی۔
 ذکیر (ذکیر) بہت یاد کرنے والا۔
 ذکیہ (ذکیہ) (ر) تیز صبح عورت۔
 ذلی (ذلی) (ر) خوار (ذلی) (ر) شرف۔
 ذلات (ذلات) (ر) ذلت، قضا، تیز زبانی۔
 ذلت (ذلت) (ر) خوار، گناہ۔
 ذلق (ذلق) (ر) تیز زبانی، تیزی سر جہر۔
 ذلول (ذلول) (ر) رام، نرم، تابدار صبح ذلول۔
 ذلیق (ذلیق) (ر) سناہ تیز، تیز زبان۔
 ذلیل (ذلیل) (ر) صبح، خوار صبح آذلیل، آذلیل۔
 ذم (ذم) (ر) بجز، برائی (ذم) (ر) نہایت بڑا اتان۔
 ذمام (ذمام) (ر) حق، عزت صبح آذمام۔
 ذمت (ذمت) (ر) عہد، پیمانہ، ضمانت۔
 ذمر (ذمر) (ر) دلیر۔
 ذمہ (ذمہ) (ر) عہد، اتان، ذمہ دار، اتان۔
 ذمی (ذمی) (ر) مسلمان حکومت کا غیر مسلم شہر کا۔
 ذمیمہ (ذمیمہ) (ر) ذمی، ذمی (ر) بڑی چیز
 اخرا بی صبح ذمام۔
 ذباب (ذباب) (ر) چھلا، تینالہ۔
 ذنب (ذنب) (ر) سناہ صبح ذوقن (ذنب)

پونچ، روم صبح آذمنج، ذوا صبح۔
 ذلوب (ذلوب) (ر) پانی کا ڈول، لمبی دم کا گھوڑا۔
 ذور (ذور) (ر) والد، صاحب، خدا، صبح آذور۔
 ذواہر (ذواہر) (ر) بڑے گیسو، کاکل، لٹا صبح آذواہر۔
 ذوات (ذوات) (ر) ذات کی صبح۔
 ذواق (ذواق) (ر) ذوق، مذاق، چکھنا۔
 ذوالباب (ذوالباب) (ر) باب، عقل، والد۔
 ذوالجلال (ذوالجلال) (ر) جلال، والد۔
 ذوالمنن (ذوالمنن) (ر) منن، احسان، والد، اللہ تعالیٰ
 ذوالہ (ذوالہ) (ر) بھڑیا۔
 ذوب (ذوب) (ر) گرمی کی چٹھی، شہد، گلنا، گھسنا۔
 ذویان (ذویان) (ر) گلزار، شیرازی، پھلنا۔
 ذوش (ذوش) (ر) تند خو، بد خلق، بد مزاج۔
 ذو ذناہر (ذو ذناہر) (ر) چوٹا، بڑا، ذو۔
 ذواہر (ذواہر) (ر) مدار ستارہ۔
 ذوقن (ذوقن) (ر) خوشن، کئی فن جاننے والا، بہت مول۔
 ذوق (ذوق) (ر) چاشنی، مزہ، لذت، نشاط، خوشی، چکھنا
 ذوق سلیم (ذوق سلیم) (ر) صبح مذاق، صبح ذوق۔
 ذومعنی (ذومعنی) (ر) ذوق، معنی، کئی معنی والی بات۔
 ذومعین (ذومعین) (ر) ذوق، معنی، دوسری بات۔
 ذوناب (ذوناب) (ر) پھلیوں والا، نیکیے والوں والا۔
 ذوسی (ذوسی) (ر) مڑھانا۔
 ذویاب (ذویاب) (ر) غرقاب، جانا، گلزار (ذویاب) (ر)
 ذہبہ کی صبح۔
 ذہانت (ذہانت) (ر) طبیعت کی تیزی۔
 ذہیب (ذہیب) (ر) سونا، کن جہا ذہانت، ذہیب۔
 ذہیبہ (ذہیبہ) (ر) میٹھا، چھڑھ ذہانت۔
 ذہیل (ذہیل) (ر) ذہیل، ذہیل، ذہیل، کتھ، غفلت،
 ذہولشی۔
 ذہن (ذہن) (ر) ذہن، تیزی صبح، یا ذہن، ذہن
 سبھ صبح آذہیل یا ظن، ذہیل، ذہیل۔

راز در کاظم، بھید۔

راز بان دراز۔ ہاں اور اڑ داں۔

راز دار دراز۔ کاز، ہمزاد، بھیدی۔

راز داری دراز۔ کاز۔ کازیری، بھید رکھا۔

راز وال دراز۔ کاز، بھیدی۔

راز زمین دراز۔ زمین، سبزہ، بھول، بھولی، بھیر۔

رازق دراز۔ رزق، دینے والا۔

رازو بیلا دراز۔ کڑو۔ بیلا، جھت کی پوشیدہ باتیں

راز ہی دراز۔ رزق، شہر سے کیوں منسوب۔

راز پانچ دراز پانہ دراز۔ پانچ، کراڑ۔

کیا۔ سلف، بادبان۔

راس دراز۔ راس، سر، ایک مویشی جو راس

اڑوٹس دراز۔ راس، کچھو راہ۔

راس الجدی دراز۔ راس۔ جیدی، وہ انتہائی

شمالی نقطہ جس پر ۲۷ درجہ کوسورج پوجیتا ہے

راس السرطان دراز۔ راس۔ سر۔ طالع، وہ

انتہائی جنوبی نقطہ جس پر اورجون کوسورج

پوجیتا ہے۔

راس المال دراز۔ راس۔ مال، پونجی، ممول،

تجارتی سرمایہ۔

راسب دراز۔ راس، نشین، گانگا، پنجگوت۔

راسیت دراز۔ راس، دن، اپنا، سیدھا، سچ، ٹھیکہ۔

راسنار، راسنگو دراز۔ راس۔ تہاڑ، راس، تہاڑ۔

گٹھا، سچا، سچی۔

راست مزہ دراز۔ راس، تہاڑ، بیٹھا، بیٹھی۔

راستہ دراز۔ راس۔ تہاڑ، بیٹھا، بیٹھی۔

راستی دراز۔ راس، سچی، سچائی، کوسٹی۔

راسخ دراز۔ راس، سچ، پکا، مضبوط، اصل۔

راسو دراز۔ راس، نیولا۔

راسی دراز۔ راس، درسیانی۔

راسیہ دراز۔ راس، مضبوط پہاڑ جسے راسیہ

راش دراز، امان کا دشمن۔

راشخ دراز۔ شخ، ٹپکنے والا، ترازدہ۔

راشندہ دراز۔ رشند، ہدایت یافتہ۔

راشوق دراز۔ رشوق، شیر انداز۔

راشہ دراز۔ رشہ، بوفی عورت۔

راشٹی دراز۔ راشٹی، رشوت دینے والا۔

راشیدہ دراز۔ رشید، نشتر۔

راصد دراز۔ راصد، بچ، چونکدار، بھرگیر، اڑھکا۔

راصع دراز۔ راصع، شیر خوار، دودھ پینے والا بچہ۔

راصغہ دراز۔ راصغہ، دودھ کا دانٹ جسے راصغ۔

راصنی دراز۔ راصنی، خوش، مشاوری۔

راضی نامہ دراز۔ راضی۔ نامہ، رضامندی کی تحریر

راعدہ دراز۔ رعدہ، لرزہ۔

راعلی دراز۔ راعلی، چرواہا، بادشاہ جو رعایا،

رعایا، رعایان۔

راع دراز۔ راع، مرغزار، پہاڑ کا دامن۔

راعیب دراز۔ راعیب، رعیت کرنے والا۔

راعظم دراز۔ راعظم، آلود ہونیوالا، کرامت کرنے والا۔

راعفت دراز۔ راعفت، مہربانی سے تراکھا۔

راعقد دراز۔ راعقد، عطا کرنا، ملد دینے والا۔

راعضہ دراز۔ راعضہ، وہ گردہ جو اپنے سردار کو

چھوڑ دیوے۔

راعضی دراز۔ راعضی، جو گردہ راعضہ سے ہو

سچے راعضی۔

راعف دراز۔ راعف، لہذا کرنا، پیش کی حرکت دینے والا۔

راعف دراز۔ راعف، چلنے والا۔

راعفہ دراز۔ راعفہ، بین کی زندگی لبر کرنے والا،

ہنس کی مانند ایک گھاس۔

راعقبہ دراز۔ راعقبہ، منتظر، امیدوار۔

راعقدہ دراز۔ راعقدہ، سوچنا، چمڑا، مہر، قند۔

راعقص دراز۔ راعقص، ناپنے والا۔

راقح (کڑا-بج، بیوند سینی والا۔
 راقم (کڑا-بشم، کھینچے والا۔
 راقم (کھروف اور ارجھول۔ قرووف، حرووف کا
 کھینچے والا۔
 راقی (کڑا-تی، یاد دگر آدم کرنے والا۔
 راکب (کڑا-کبت) سوار جم شکار کا اور کھیل کا۔
 راکر (کڑا-کرت) بند پانی۔
 راقع (کڑا-سج) گونگ کرنے والا جم کرکھینچن
 راکل (کڑا-کول) شتر منزع کا پھر جم بریکال۔
 راقم (کڑا-قم) مطیع، تابعدار۔
 راقح (کڑا-بج) بر جھٹھلانے والا۔
 راقس (کڑا-بش) تغنیہ، راگ۔
 راشکریہ رامشی اور میل۔ کڑو۔ را۔ برشی،
 گویا، مطرب، ڈوم، چوراگ کا دوسے۔
 راقق (کڑا-بق) قتل، پادام۔
 راقی (کڑا-چی، تیر انداز۔
 راق (کڑا-ق) جاکھ کڑاں، راق اب کھینچے والا۔
 راقان (کڑا-ق) کڑا، کھانا، چلانا، چیلانا۔
 مضم کرکٹو۔
 رانده (کڑا-ق) کڑو، پانکھا ہوا۔
 رانده (کڑا-بش) کڑو، کھینچے والا۔
 راقین (کڑا-بقین) شہوار، پا جامہ، زردہ۔
 راقوق (کڑا-واق) چھیننا، پر جھا۔
 راقیہ (کڑا-ق) پیر، انکھور کی ایک قسم۔
 راقوقی (کڑا-ق) شراب کا چھیننا، شراب صافنا۔
 راقومر (کڑا-قون) دیدھو، لوہو۔
 راقوی (کڑا-قوی) روایت کرنوالا جم زوات۔
 راقیہ (کڑا-ق) روایت کرنوالی پانی کھینچے والا۔
 راہ (کڑا-ق) رستہ، طریقہ۔
 راہ آورو (کڑا-ق) کڑو، سفر کی لاپا، کٹھ
 راہب (کڑا-بش) عابد، تارک دنیا عیسائی مرد

جم راجہ جان
 راجپر دتاو۔ بڑا، راہ تھانے والا۔
 راجہ بھری (کڑا-ق) بھری، راہ تھانا۔
 راجہ بہ (کڑا-بش) تھاک دنیا میں عورت۔
 راجہ دار (کڑا-ق) ڈانڈ، چوکیدار، دھاریدار کپڑا۔
 راجہ کاری (کڑا-ق) کڑا، برتی یا سپورٹ اور کھیاری
 راجہ و (کڑا-ق) کڑو، راستہ چھینے والا۔
 راجہ زن (کڑا-ق) زن، ٹوگو، اٹھیرا۔
 راجہ زنی (کڑا-ق) زنی، لوٹ۔
 راجہ گان (کڑا-ق) گان، دیکھو رانگن۔
 راجہ گیر (کڑا-ق) گیر، راستہ چھینے والا۔
 راجہ سن (کڑا-ق) سن، چیز گرد کھینچے والا۔
 راہ نامہ (کڑا-ق) کٹھ، سڑک کا نقشہ۔
 راہنما (کڑا-ق) تمنا، راہ دکھانے والا۔
 راہنماقی (کڑا-ق) کٹھ، راہ دکھانا۔
 راہوار (کڑا-ق) کڑو، قدم چال، گھوٹا۔
 راہواری (کڑا-ق) کڑو، برتی، اقدام چھینے والا۔
 راہی (کڑا-ق) راہ چھینے والا، مسافر۔
 راج (کڑا-ق) جیکا رواج ہو، جس کا چلن ہو۔
 راج الوقت (کڑا-ق) راج، وقت کے
 چلن کے مطابق۔
 راجد (کڑا-ق) راج، میر منزل۔
 راجس (کڑا-ق) راج، رئیس، حاکم۔
 راجس (کڑا-ق) راج، شہت کا دال۔
 راجس (کڑا-ق) راج، سوار، گھوڑا کھیر نواہا۔
 راجتی (کڑا-ق) راج، ہنا، صاف چیر۔
 راے (کڑا-ق) راج، تمبر، تھریر، تھریر آراو،
 راجی (کڑا-ق) راج، کھین، کٹھ سے دیکھا۔
 راجت (کڑا-ق) راج، چیر، کٹھ، کٹھ۔
 راجتہ (کڑا-ق) راج، کٹھ، کٹھ۔

ر لوق وفتح رکت - حوالہ - فتح (ق) کھول باندہ

بست و کشاد -

رتعم درتسم - نشانی یادگار -

رتق درتقم - رہنما، فذوق -

رتشا درتشا - شیرانا، برحالی ہم برناٹ -

رتشان درتشان - مینہ کا بھڑپ -

رتجا درتجا - گن رہ، اجانب (رتجا)، امیدیم (رتجا)

رتجان دررتجان - رحل، ارتجان کی جن -

رتجالہ دررتجالہ - دیکھو، زالہ -

رتجال معیت دررتجال - یمنی، بیت، پسند اشاف

رتجبا دررتجبا - ساؤواں اسلامی نوری ہینہ -

رتجان دررتجان - جھوک، جھکا، رجم، رتجات

رتجر دررتجر - اشعار جو میدان جنگ میں خود

پڑھے جادیں، نام بجز شامری دررتج (رتج)

دیکھو رہیں -

رتجس دررتجس - پیدری، نگذگی، ناپاکی -

رتجع دررتجع - لوشنا، پھرننا، گھوسنا -

رتجعان دررتجع - قان، بات کا جواب -

رتجوت دررتج - تخت، بازگشت، واپس -

رتجت القہقری دررتج - عقل، قند، شہرا

ارے یاؤں واپسی -

رتجف ورتجف دررتجف - رتج - فز، بھونچال -

رتجل دررتجل - راج، مروجہ، رتجال، رتجالہ،

رتزال، رتجلہ، رتجلہ، رتجلہ، رتجلہ، رتجلہ،

پاؤں سے رتجلہ، رتجلہ، رتجلہ، رتجلہ،

رتجل، اپیادہ، پیدل -

رتجلان دررتجلان - پیادہ، پیدل، رتجلہ،

رتجلہ دررتجلہ - گڑ، قند، کاسک، رتجلہ، عورت -

رتجم دررتجم - پتھر، سنگساری، رتجم، رتجم،

رتجم، قہر، کنواں، تنور -

رتجو دررتجو - امید، واری، چستی، سازی -

رتجو دررتجو - جھوک، جھکاؤ، رتجان -

رتجوع دررتجوع - بھرننا، لوشنا -

رتجوعات دررتجوعات - لوشنا، لوشنا، لوشنا،

رتجوعہ، رتجوعہ، رتجوعہ،

رتجولن، رتجولین، رتجولین، رتجولین،

رتجولم، رتجولم، رتجولم،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رتجولہ، رتجولہ، رتجولہ،

رزاقی رزق، ذائقہ، رزق دینا۔
 رزائنٹ (رزق) نہتہ پہاٹکی، جو بھل بن، صبح۔
 رزاقی (رزق) روزی، خوراک، جم آرزاقی۔
 رزوم (رزوم) جنگ و جدل۔
 رزمگاہ (رزوم) گاہ، میدان جنگ۔
 رزمہ (رزوم) نمبر، اسباب، لفظ، لکھنوی
 (رزوم) لکھی۔
 رزنامہ (رزوم) نمبر، لکھنوی، رزنامہ
 رزنامہ (رزوم) ڈے، رنگے والا۔
 رزہ (رزوم) لکھی۔
 رزیدن (رزوم) دن، لکھی، معنی رزود۔
 رزیدنی (رزوم) ڈنی، رنگے کے لافنی۔
 رزیدہ (رزوم) ڈے، رنگا ہوا۔
 رزین (رزوم) مضبوط، سکھ، گراٹا ہوا
 آرام پایا ہوا۔
 رزیم (رزوم) یہ، معصیت، جم رزایا۔
 رزڈہ (رزوم) ڈے، لالچی، بڑبڑو۔
 رزس (رزوم) پونج، پونجے والا، درستی،
 جھجھکھی، دل میں کہنا۔
 رزشا (رزوم) پونجے والا۔
 رسالمت (رزشا) نمبر، ہندلیسا، پیامبری۔
 رسالہ (رزشا) کہ، جوئی، کتاب، معنیوں
 نامہ، جم رزشا۔ ان سوا، فوج کا دستہ۔
 رسام (رزوم) سام، نقاش، مستور۔
 رسالی (رزوم) پونچنے والا، دڑس، مسافری،
 رسائی دالا۔
 رساندہ (رزوم) نمبر، حسرت، انیسوس۔
 رسایندن (رزوم) دنی، ڈن، پونج، نا۔
 رساقی (رزوم) ایچی، پونج۔
 رسیس (رزوم) ات، آرزاد، پھوٹا (رزوم) ات
 پیادہ، آگاہ، سخت، مضبوط۔

رستا خیز (رزوم) بٹا، خیر، قیامت۔
 رستخیز (رزوم) ات، خیر، قیامت، دوس، ات۔
 رستخیز، آگاہ۔
 رستکار (رزوم) ات، گاہ، پھینکا، رایا، نے والا۔
 رستکاری (رزوم) ات، گاہ، بری، پھینکا، آغلائی
 رستی (رزوم) ات، ہی، پیادہ دی۔
 رستن (رزوم) ات، پھوٹا، معنی رزوم (رزوم)
 تن، آگاہ، معنی رزوم (رزوم) ات، گاہ، کاشنا
 معنی رزوم۔
 رستنی (رزوم) ات، ہی، ترکاری، ہسری، آگنے کے
 قابل (رزوم) ات، ہی، جوئے کے قابل (رزوم)۔
 رستی، کانٹے کے قابل۔
 رستہ (رزوم) ات، ہی، چھوٹا ہوا، راہستہ (رزوم) ات، ہی۔
 آگاہ، مضبوط (رزوم) ات، ہی، دیکھو رشتہ۔
 رستی (رزوم) ات، ہی، راحت، فراغت، نعمت،
 رزق، روزی۔
 رسالہ (رزوم) ات، غلہ کا قافلہ، حصہ۔
 رسغ، رسغ (رزوم) ات، ہی، ریش، ریش، فدا،
 رشتہ، ہاتھ پاؤں کا جوڑ، جم آرزوم، ہی۔
 رسل (رزوم) ات، ہی، نمبر، رفتار، خیر، ہینا، ریش، ات، ہی،
 خوشی، رزوم، ریش، ات، ہی، رسول، کما، ہی۔
 رسم (رزوم) ات، ہی، عادت، ریت، قاعدہ، قانون،
 وظیفہ، مشاہیر، حصول، نقشہ، جم رزوم، ہی،
 آرزوم، ہی، نمبر، جم رزوم، ہی۔
 رسم الخط (رزوم) ات، ہی، خط، طرز، تحریر، ہی۔
 رسمی (رزوم) ات، ہی، دستور، کے مطابق، جم رزوم، ہی۔
 نوکرا، ٹیکس دہندہ
 رسن (رزوم) ات، ہی، جم آرزوم، ہی، آرزوم۔
 رسن باز (رزوم) ات، ہی، کتا، ہی، باز، ہی۔
 رسندہ (رزوم) ات، ہی، ڈے، پونجے والا۔
 رسوا (رزوم) ات، ہی، ذلیل، خوار۔

رعایت (رعایتین) لحاظ، نگہبانی۔
 رعایتی (رعایتی) منسوب از رعایت۔
 رعیب (رعیب) اذہ، عقبتا، خوف، ڈر۔
 رعیشہ (رعیشہ) شہم بانی۔
 رعیلہ (رعیلہ) بجلی کی کرولک، جگر راج۔
 رعیداس (رعیداس) داء- سنا، بجلی کی کرولک کا نلہ۔
 رعیدہ (رعیدہ) ڈہ، کبھی، شہر شہر ایش۔
 رعیدیلہ (رعیدیلہ) دید، فائدہ۔
 رعیش (رعیش) کاپینا۔
 رعیشہ (رعیشہ) چشما، چمکیا بہت ارزہ۔
 رعینا (رعینا) نا، اچھا، زیبا۔
 رعینائی (رعینائی) آئی، زیادتی، پھانسی۔
 رعینت (رعینت) نیک، غرور، سرکش۔
 رعینی (رعینی) نگہبانی، جبرنا، پسرانا۔
 رعینی (رعینی) گھاس۔
 رعیب (رعیب) خاک۔
 رعیت (رعیت) بیت، دیوڑ، براجہ رعایا۔
 رعیتی (رعیتی) بیچتی، منسوب از رعیت۔
 رعیمہ (رعیمہ) چرند، چرنہ۔
 رعیاب (رعیاب) نرم زمین۔
 رعغام (رعغام) بریلی خاک۔
 رعغام (رعغام) ریشہ کی خش۔
 رعقب (رعقب) ب، ٹوخ، ب، رعقب، خواہش۔
 رعقب (رعقب) بہت سا کھائی خواہش۔
 رعقبیت (رعقبیت) بیجا، خواہش۔
 رعقد (رعقد) عیش، خوشی، نعمت۔
 رعقم (رعقم) جھلسائی، خواری۔
 رعقد (رعقد) دروغ، جھک، پھین۔
 رعقب (رعقب) لوسی، لالچی، بھرت کرنوالا۔
 رعقب (رعقب) بہت کوشش، مرغوب چیز۔
 رعقب (رعقب) جہر غار۔

رعید گاہ (رعید گاہ) اجرام فلکی کی دیکھ
 کھال کیلئے منارہ۔
 رعیب (رعیب) گھاٹ، چپ ترہ۔
 رعیبین (رعیبین) مضبوط، ہیرا، درناک۔
 رعینا (رعینا) خوشنودی (رعینا) خوشنود ہونا۔
 رعیناب (رعیناب) بھوک، ادا، بھکر۔
 رعیناع (رعیناع) رعینا، رعینا۔
 رعینا (رعینا) پختہ کے دوہ پینے کی حالت۔
 رعینا (رعینا) دوہ شربیک۔
 رعینا (رعینا) خوشنود۔
 رعینا (رعینا) رعینا، رعینا۔
 رعینان (رعینان) رعینا، رعینا، رعینا کا
 دربان۔
 رعینوی (رعینوی) رعین، رعین، رعین۔
 رعین (رعین) منسوب از رعینا، رعینا۔
 رعین (رعین) پسندیدہ۔
 رعین (رعین) کوکہ، دوہ شربیک کھانی۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا کی رعین۔
 رعین (رعین) قدرتی پیر، ہمازہ (رعینا)۔
 رعین (رعین) سبزہ (رعین) تازہ پنڈ کھجور۔
 رعین (رعین) رعین، رعین، رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا کا
 پیمانہ ہم از رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا۔
 رعین (رعین) رعین، رعین، رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا۔
 رعین (رعین) رعینا، رعینا، رعینا۔

رماؤ (رکاو) خاکستر، راکھ۔
 رماوی (رکنا) دینی، فانی۔
 رماؤ (رکوم) کار، رمز کہنے والا۔
 رماحہ (رکوم) عہد، پیمانہ یا جو لیکتا ہے۔
 رمال (رکوم) مال، علم رمل کے ذریعہ غیب کی باتیں بتانے والا۔
 رمان (رکوم) مکان، انار۔
 رمانی (رکوم) مافی، منسوب بطن رمان۔
 رمانیدن (رکنا) بی۔ دن بھگانا۔
 رمانیادہ (رکنا) بی۔ دن بھگانا ہوا۔
 رمایہ (رکنا) بی۔ تیر اندازی۔
 رمط (رکمت) شہانہ، ایک چرمی کشتی۔
 رمح (رکوم) رمح، برہیمان، رمح، آزادانہ۔
 رمہ (رکنا) آشوب، ششم۔
 رمز (رکوم) اشارہ، پوشیدگی، چہرہ موڑ۔
 رمش (رکوم) بھگانا۔
 رمض (رکوم) آشوب، چہرہ۔
 رمصا (رکوم) صا، چہرہ، تمید۔
 رمض (رکوم) صا، گرم ریت۔
 رمضان (رکضمان) نواں اسلامی قسری
 مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔
 رمق (رکوم) تھوڑی سی جان، لقیہ جان
 جم (رکماق)۔
 رمکہ (رکوم) کڑھ، گھوڑی جم، رکات۔
 رمل (رکوم) رنگ، ہانوا، نام علم غیب
 دانی جم، رمان، آرزو، رمل، شاعری
 کی ایک بحر کا نام، اٹھلا کر چسپنا۔
 رمندہ (رکوم) دہ، بھانگے والا۔
 رمندہ (رکوم) بیہ، پارک، چراگاہ، گھاس کا میدان
 رمہ (رکوم) کلہ، دیوڑ، (رکوم) مہ، سب،
 ہر، رسی کا ٹکڑا۔

رمی (رکوم) می، ٹھانا، گولی چلانا۔
 رمیدن (رکمی) دن بھگانا سم، رکنا۔
 رمیدہ (رکمی) دہ، بھگانا ہوا۔
 رمیق (رکمی) تیز چہرہ۔
 رمیم، رمیہ (رکیم) رمی، مہ، حیرانا
 جم (رکما)۔
 رن (رکنا) نکت، مشقت۔
 رنبدہ (رکوم) بیہ، خرمکھ کے بال، کھریا۔
 رنج (رکنا) رنج، تکلیف، دکھ۔
 رنخانییدن (رکنا) بی۔ دن بھگانا۔
 رنجش (رکنا) رنج، دکھ۔
 رنجور (رکنا) رنجور، رنگی، بیمار۔
 رنجوری (رکنا) رنجور، رنگی، بیمار۔
 رنجیہ (رکنا) رنج، دکھ، رنج۔
 رنجیہ خاطر (رکنا) رنج، دکھ، رنجیہ۔
 رنجیگی (رکنا) رنجی، دکھ، تکلیف۔
 رنجیدن (رکنا) رنجی، دن، آزرده ہونا
 سفن (رکنا)۔
 رنجیدہ (رکنا) رنج، آزرده۔
 رند (رکنا) دم، دانستہ منکر، شہر، بخارا، جم
 رنکو (رکنا) دیکھو، رندش۔
 رندانہ (رکنا) رند، رند کی طرح۔
 رندش (رکنا) رندش، رند سے کی چھین۔
 رندہ (رکنا) دہ، رند نے کا ادا دار۔
 رندی (رکنا) رندی، ادب، شہر، بخارا۔
 رندیکن (رکنا) رندی، دن، رندہ کرنا
 سفن (رکنا)۔
 رنڈ (رکنا) رنڈ، جادل۔
 رنق (رکنا) رنق، رنگ، گدلا۔
 رنگ (رکنا) رنگ، رنگ، طریقہ، قاعدہ،
 خوشی، پہاڑی، بحری، جنگلی گائے۔

رو پیر پوار (مردو) برسی۔ ذاتی حیران۔
 رو برہا (مردو) برہا، ٹھیک راستہ بردہ۔
 رو برو (مردو) برہا سانسے، منہ در منہ۔
 رو بکار (مردو) بکار، سرکاری کاغذ، سامنا۔
 رو بکاری (مردو) بکار۔ برسی، کارروائی۔
 رو بند (مردو) بند، برسی، نقاب، گھونگھٹ۔
 رو بے (مردو) بے، دیکھو رو باہ (مردو) بے، برو
 کا سہجا، عقل۔
 رو بیدار (مردو) بے۔ تون، جھاڑو دینا، جھاڑنا
 منہ کر ڈیکھو۔
 رو بیدنی (مردو) بے، ذہنی، جھاڑنے کے لایت۔
 رو بیدہ (مردو) بے، دودھ، جھاڑا ہوا۔
 رو بیک (مردو) بیک، رو مانا۔
 رو پوٹا (مردو) پوٹا، نقاب، منہ چھپانے والا
 رو پوٹنی (مردو) پوٹنی، منہ چھپانا۔
 رووشہ (مردو) شہ، گو بر، لید، جم، رووش۔
 رووش (مردو) شہ، دیکھو رووش۔
 رووش (مردو) شہ، جان، جو ہر، کم آرووش
 (مردو) خوشبو، تازگی، آسائیں جو رووشاں
 رووشا (مردو) شہ، آسٹلا۔
 رووشا لائیں (مردو) شہ۔ ایش، حضرت جبرئیل
 رووشا القدس (مردو) شہ۔ جووش، پاک رووش،
 حضرت جبرئیل۔
 رووشانی (مردو) شہ۔ خانی، روحی، باطنی،
 روح سے منسوب۔
 رووشانیت (مردو) شہ۔ خانی، بیت، روحی خاصیت۔
 رووشا جیوانی (مردو) شہ۔ حی۔ ذاتی، زندگی
 قائم رکھنے والی رووش۔
 رووش طبعی (مردو) شہ۔ حی، قوت قائم رکھنے
 والی رووش۔
 رووش مجرد (مردو) شہ۔ مجرد، کوئی روح مطلق۔

روح نباتی (مردو) شہ۔ نباتی، فی انہما کی روح
 روح نفسانی (مردو) شہ۔ نفس۔ نباتی، حی،
 طاقت قائم رکھنے والی روح۔
 روحی (مردو) شہ۔ حی، رووش سے منسوب، روح والی چیز
 روح (مردو) شہ، ایک گھاس، سرگنجا۔
 رووش (مردو) شہ، گندمی، مالہ، میٹھا،
 مانٹ، واڈا۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، دیکھو رووشا۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، صاحب عفت۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، صاحب عفت ہونا۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، جہاں بہت سے ندی
 نائے ہوں۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، دریا، علامہ سیلاب۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، موچ، پانی کی کڑی۔
 رووشک (مردو) شہ، دیکھو رووشک۔
 رووشہ (مردو) شہ، تانتا، استرطی۔
 رووش (مردو) شہ، دن، ریوم۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، ہر ایک دن عیسیت
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، رونی، گرہی بارا
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، بازو، بھروسہ، ت،
 قیامت کا دن۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، روز ازل۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، برادن۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، شباب۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، نام کا دن۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، خیر، نادان۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، روزگار، روزگار، روزگار، روزگار۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، روزگار، روزگار، روزگار، روزگار۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، روزگار، روزگار، روزگار، روزگار۔
 رووشا (مردو) شہ، ذاتی، روزگار، روزگار، روزگار، روزگار۔

روزن درو - وزن (مرد - زن) حور و خجیر و کدو
 جم روزانہ -
 روز نامچہ (مرد - نام - چہ) روزانہ حال
 لکھنے کی کتاب -
 روز نامہ (مرد - نام - نمہ) روزانہ اخبار
 بہی کھانا - کسبیلہ مرد - حشری -
 روزہ (مرد - روز) صوم - برت -
 روزہ شمس (مرد - روز) - شمس ،
 چپ رہے کار روزہ -
 روزہ دار (مرد - روز) - روزہ رکھنے والا -
 روزہ داری (مرد - روز - داری) - روزہ رکھنا -
 روزہ مرہم (مرد - روز - مرہم) - چپ رہے
 کار روزہ -
 روزی (مرد - روز) - رزق ، روزانہ خوراک -
 روزنہ (مرد - روز) - سکے ، یومیہ ، روزانہ تنخواہ -
 روس (مرد - روس) - نام ملک (مرد - روس) ،
 روس کی فتح -
 روسیہ (مرد - روسیہ) - ملک روس (مرد - روس) یورپ
 دشتالی الینیا -
 روسا (مرد - روس) - رئیس کی فتح -
 روسی (مرد - روس) - فی ، فاحشہ -
 روستا (مرد - روس) - گاؤں ، وہ -
 روسٹانی (مرد - روس) - گناہ ، گنوار ، دہقان -
 روسفید (مرد - روسفید) - معزز ، بے اہرام -
 روسفیدی (مرد - روسفیدی) - با عزتی -
 روسیہ (مرد - روسیہ) - ملک روس -
 روسیہ (مرد - روسیہ) - گنہگار ، خطا بار -
 روسیہ (مرد - روسیہ) - خطا داری -
 روش (مرد - روش) - چال ، طریقہ ، چین ، چپن ، چین
 کے اندر راستہ (مرد - روش) - روزن -
 روشناں (مرد - روشناں) - نامزدیوں کے ساتھ سے

روشیم (مرد - روشیم) - چھاپا ، ہر خرم -
 روشناں (مرد - روشناں) - روزن ، روزن جم روزا شین
 روزہ شین ، روزہ شین ، روزہ شین ، روزہ شین
 روشناس (مرد - روشناس) - واقفکار -
 روشناسی (مرد - روشناسی) - جان پہچان -
 روشناسی (مرد - روشناسی) - نامزدیوں میں
 نام روزن -
 روشناسی (مرد - روشناسی) - نامزدیوں میں ، اچالا
 رنگت جس سے کوئی شخص کبھی اچھلائی جاوے
 روشناسی (مرد - روشناسی) - زبان ، روشنی کا سردا
 روشنی دل (مرد - روشنی) - دل ، جس کا
 دل سوز ہو -
 روشنی دماغ (مرد - روشنی) - دماغ ، بیدار
 مفر ، جلاں -
 روشنی راہی (مرد - روشنی) - راہی ، ماتہ سر -
 روشنی ظہیر (مرد - روشنی) - ظہیر ، روشنی دل
 روشنی طبع (مرد - روشنی) - طبع ، تیز فہم -
 روشنی نور (مرد - روشنی) - چمک ، اچالا -
 روشنیہ (مرد - روشنیہ) - باغ ، سبز ، زرد چربیاں
 روشنی -
 روع ، روعیت (مرد - روع) - بحث ،
 براس ، ڈر ، حیرانی (مرد - روع) - بحث ،
 عقل ، دل -
 روع (مرد - روع) - زعفران کا تھہرہ -
 روغن (مرد - روغن) - چکنائی ، تیل ، مکی
 روغن (مرد - روغن) - مکی ، روغن ، کڑھیل -
 روغن جوشن (مرد - روغن) - جوش ، پھانسا
 نام کھانا جو کھانے پر لیا جاتا ہے -
 روغن زبانی (مرد - روغن) - زبان ، روغن زبانی
 روغن زرد (مرد - روغن) - زرد ، مکی
 روغن سیاہ (مرد - روغن) - سیاہ ، روغن کھانے کی تیل -

روغن فردوش درود غنق - فردوش اہیل کا
 روغن فردوشی درود غنق - فردوش شئی اہیل
 کا بیو پارہ۔
 روغن قنارہ مالیدن درود غنق - قنارہ کا۔
 لی - دن جا بوسی کرنا بلتو چو کرنا۔
 روغن کنیر درود غنق - کنیر - جہا میٹھا تیل۔
 روغن گا و درود غنق - گا و گھی۔
 روغنکدر درود غنق - کدر - تیلی۔
 روغنشی درود غنق - غنق - چینی۔
 روغن درود غنق - ہت بہر بان۔
 روغن درود غنق - ہت جھارٹا۔
 روغن درود غنق - کٹھ - شتر مندہ، مقابیل،
 کرلیف، غلاف۔
 روغن درود غنق - کٹھ - شتر مندگ، مقابیل۔
 روگردال درود - گڑہ - دان، رکھا، متھ
 پھرائے ڈالا۔
 روگردانی درود - گڑہ - دان، مخالفت
 رکھائی، متھ پھرائانا۔
 روگردنہ درود - گرن - دنہ، متھ چھایا ہوا۔
 رووم درود - نام شتر علی، یونان قدیم،
 قدیم ترکی سلطنت، رومی کی جمع۔
 رومال درود - مال، متھ پونجھے کا کپڑا۔
 رومالی درود - مانی، باندھنے کا ایک کپڑا۔
 رومان درود - سانج، نادل، فسانہ۔
 رومہ درود - شتر نگاہ کے بال (درود متھ)
 دار الحکومت اطالیہ۔
 رومی درود - رومی، قدیم یونانی، اطالیوی
 جس درود، اڈواہم۔
 رومانس درود - نانس، سردخ پیٹھ۔
 رومہ درود - دہ، جانے والا۔

روغن درود - جگ، زسیا نش۔
 روٹھا درود - متھ، متھ رکھانے والا۔
 روٹھائی درود - جگ - راجی، متھ رکھائی۔
 روٹھ درود - پانس، اجازت نامہ۔
 روٹھن درود - پنی - دن، چھت یا چھپر
 وغیرہ ٹیکنا۔
 روٹھینا درود - جی - نام، ایک فولاد۔
 روٹھراد درود - اڈا، کیفیت حال، حقیقت۔
 روٹھدی درود - رانی، ڈگی، آکارٹ۔
 روٹھدن درود - راجی - دن، آگنا سفن، ڈیڈ۔
 روٹھدہ درود - راجی - دہ، آگنا ہوا۔
 روٹھیں درود - راجی، پٹیل، دالی چیز۔
 روٹھیں دن درود - راجی - دن، پٹیل کے جسم والا۔
 روٹھی درود - مانا، کالنہ، روٹھی، چہرہ،
 سمت، سبب، امید، روٹھی، سیراب،
 تازہ، تافنیہ کا حرف اصلی۔
 روٹھا درود - جگ، خواب، اسپنا، جو رومی درود
 یا، زمین سے اگنے دالی چیز۔
 روٹھا پھدن درود - جگ - دن، آگنا۔
 روٹھی بند درود - جگ - دن، دیکھو رہند۔
 روٹھیت درود - جگ - جگ، دیکھا، جاننا، روٹھی
 جگ، نکل، تامل۔
 روٹھیک درود - جگ، چھوٹا متھ۔
 روٹھینا درود - جگ، سرد، پیٹھ۔
 روٹھیدہ درود - جگ - دہ، اگنے والا۔
 روٹھینگ درود - جگ، سرد، پیٹھ۔
 روٹھیا درود - جگ، طریقہ، دستور، فکر، حاجت
 (درود - جگ) دیکھو روٹیت۔
 روٹھا درود - راہ، رستہ، قاعدہ، نغمہ، آہنگ
 مرتبہ، بار درود، نیکی، سیرت۔
 روٹھا درود - چھوٹا ہوا، خلاص۔

ریات (در کجائی) شروع جوانی -

ریان (ریانج) مہن کی جس، گھوڑ دور کی شرط۔
ریاندن، رہا نہیں ان کھان - کون، رکھا - کجا۔
ریان، پھوڑنا۔

ریانجام (رکھ) - آن - جام، قاصد، تیز سواری۔
ریا آرد (رکھ) - آ - آرد، سوغات، کھنڈ۔
ریائی (رکھا - رانی) چھٹکارا، خلیاھی۔

ریہبان (رکھ) - بان (رکھ) راجہ کی بیٹ، ایک
عیسائی راجہ (رکھ) - بان، ڈرنے والا،
۲۔ راستہ کا لحاظ۔

ریہبانیت (رکھ) - بان - بی، بیٹ، ریہبان ہونے
کا طریقہ۔

ریہری (رکھ) - ہری، راہ نما، ہادی۔

ریہری (رکھ) - ہری، راہ نما، ہادی۔

ریح (رکھ) - ریح، غبار، شور۔

ریہرو (رکھ) - رو، راستہ چلنے والا، مسافر۔

ریہرومی (رکھ) - روچی، راستہ چلنا۔

ریہرہ (رکھ) - رتھ، آستھلا، کم گہرا۔

ریہرن (رکھ) - رن، پتھر، خزاں۔

ریہرنی (رکھ) - رنی، خزاں۔

ریہس (رکھ) - دیوار کی بنیاد، چٹ۔

ریہسط (رکھ) - ط، گردہ، پھیڑ، چم آڑ، مہسط،
آڑ، کھٹ، مہسط، آڑ، مہسط۔

ریہق (رکھ) - رتھ، ایک ہونا، گمراہ ہونا،
بھٹ بولنا، ریت جم جانا، رتھ، ق، ہلم،

تباہی (رکھ) - تباہی، پھوڑنا۔

ریہگلا (رکھ) - گلا، عام راستہ، شہرک۔

ریہگرا (رکھ) - گرا، راہ برماں۔

ریہگیر (رکھ) - گیر، راہ دور، مسافر۔

ریہس (رکھ) - س، پھوڑنا۔

ریہن (رکھ) - ن، گرد، شہر، جو، رکھ، ان، رتھوں

ریہسکہ (رکھ) - س، چوٹے والا۔

ریہسٹن (رکھ) - سٹن، رستہ پر بیٹھے والا۔

ریہسما (رکھ) - سما، دیکھو، راہ نما۔

ریہسما (رکھ) - سما، رانی، دیکھو، راہ نما۔

ریہور (رکھ) - ور، ادبھی یا نشیبی زمین۔

ریہوار (رکھ) - وار، دیکھو، راہ نما۔

ریہوک (رکھ) - ہوک، موٹا، تازہ ہرن۔

ریہی (رکھ) - ہی، غلام۔

ریہیدن (رکھ) - دن، چھوٹا، مضمر، رکھ۔

ریہیدہ (رکھ) - ہدی، چھوٹا ہوا۔

ریہی زادہ (رکھ) - ہدی، غلام بچہ۔

ریہین (رکھ) - ہین، گرد، رکھی ہوئی چیز۔

ریہیس (رکھ) - ہیس، حکمران، سردار، حاکم، مالدار،
شہری، صدر، چھن، جو، کوسا۔

ریہیہ (رکھ) - ہیہ، سردار، عورت۔

ریہی (رکھ) - ہی، سیراب ہونا (رکھ) - ہم، ظہر (فرسان)

ریہاریا، دکھاوا، ظاہر داری۔

ریہات (ریات) - ریا، کی، بیس۔

ریہاج (ریاج) - راج، کی، گون، یاد۔

ریہچھن (ریچھ) - چھن، ریمان کی بیٹ۔

ریہسٹ (ریہا) - سٹ، سرداری، حکومت۔

ریہاض (ریاض) - یاض، کی، حج۔

ریہصت (ریہا) - صت، محنت، درزش، نفس کشی۔

ریہضتی (ریہا) - ضتی، درزشی، نفس کشی، کرنیوالا۔

ریہضتی (ریہا) - ضتی، نام، مسلم، پھیٹھیکس۔

ریہکار (ریہا) - کار، فریبی۔

ریہکاری (ریہا) - کاری، فریب۔

ریہال (ریہا) - ال، کی، حج، ڈوار، ایک سکہ۔

ریہان (ریہا) - ان، سیراب، ترقی تازہ۔

ریہانی (ریہا) - انی، فریبی، مکار۔

ریہب (ریہا) - ب، حاجت، حادثہ۔

ریباری درختی سیا - ریچی (ساڈنی سوار)۔
ریباس درختی یاس (دیکھ ریوانج)۔
ریبال درختی بیان ہشہر، بہادر، ۳۳ زکا پبل۔
ریب المنون درختی - بکلی، بخون، ۱۰۱ دش زمانہ۔
ریبہ درختی - بکے، ششکین، لنے والی چیز، ہنہت۔
ریٹھ درختی، انازہ، ڈھیل درختی دیش،
کابل، ڈھیل دینے والا۔
ریپکار، ریپال (درختی) چار، ریچی پچال
آچار، مری۔
ریج درختی، باس، ہوا، آندھی، مہیٹ کی ہوا
جمہ پریاج، آز پاج، آز کوں؟
ریجان درختی، خان، خوشبودار گھاس، نیانڈو
جمہ کر پاجھتین۔
ریجانہ درختی - کمانہ، ریجان بونگی چیز۔
ریجانی درختی - کمانہ، ریچی، ایک ہری شراب،
ایک بھیا کو نشیدنی۔
ریچی درختی - جئی، مشوب طرف ریج۔
ریچ درختی، پلا گوہ، دست، مہیٹ درختی،
ڈھیلا۔
ریچتق درختی - سن، پیٹنا، بیان مسم ریچرڈ۔
ریچتہ درختی - تپہ، اردو زبان، کچھ ہوا، بیٹا ہوا۔
ریچتہ پل درختی - تپہ، پکا تیز دم۔
ریچتہ دم درختی - تپہ، ڈم، ڈھار رکھ ہوا۔
ریچتہ گہ درختی - تپہ، گروہ، دھات کے ڈھلے
ہوتے برتن بنانے والا۔
ریچن درختی - جرن، ہروت، آداس رینے والا۔
ریدن درختی - ڈن، کمانہ مسم ریچرڈ۔
ریز درختی، ڈالنے والا، بیٹے والا۔
ریزال (درختی) ڈالنے والا، گر آتا ہوا۔
ریزش درختی - زش، بخشش، بکھرن، تاکہ لینا۔
ریزگار درختی (ریز) کمانہ، جی، بھرت۔

ریزگی درختی - ڈرگی، ٹکڑا، چھوٹا سا۔
ریزندہ درختی - ڈن، ڈن، گرانے والا۔
ریزہ درختی - ڈن، ٹکڑا، دروا، کرچ، کنزن۔
ریزہ خوانی درختی - ڈن، ڈن، آواز کا
ادنا چڑھا ڈ۔
ریزہ مرائی درختی - ڈن، تیرا، دیتی، نمہ مرائی۔
ریزہ کاری درختی - ڈن، کار، ریچی، مہین کام۔
ریزیدن درختی - ڈن، پیمان، کرانا۔
ریٹن درختی - ٹن، کمانہ، رونا مسم ریٹن۔
رییمان (درختی) کمانہ، ڈن، درستی۔
رییمان بانہ درختی - کمانہ، کمانہ،
بازیر۔
ریمدہ درختی - ڈن، کمانہ والا۔
ریسیدن درختی - سچی، ڈن، کمانہ مسم ریسید۔
ریسمیرہ درختی - سچی، ڈن، کمانہ ہوا۔
ریٹن درختی، کمانہ، ڈن، سچی (ریٹن)
کمانہ، کمانہ۔
ریٹائل درختی - شتا، ال، ڈھیلالا۔
ریٹ القصب درختی - شتا، قصب،
زرکل کمانہ۔
ریٹ بابا درختی - کمانہ، قسم انگور۔
ریٹ پیر باد درختی - کمانہ، کمانہ، کمانہ۔
ریٹ چیتر درختی - کمانہ، کمانہ، کمانہ۔
آپریٹن کمانہ ہوا۔
ریٹن درختی - کمانہ، کمانہ، کمانہ۔
ریٹن کا مٹی درختی - کمانہ، کمانہ، کمانہ۔
ریٹ گاؤ درختی - کمانہ، کمانہ، کمانہ۔
ریٹم درختی - کمانہ، کمانہ، کمانہ۔
کمانہ ریٹہ۔
ریشمال (درختی) کمانہ، کمانہ، کمانہ۔

ریشمالی دریش - کاساتی، دیوٹی، ایہ تھتی۔
 ریشمی، مارشکینہ (رے - تھی، رے سٹی سٹی) سٹج سٹج
 ریشم کا بنا ہوا، ریشم سے منسوب، ریشم کا، ریشم کی۔
 ریشہ درے - شکو، کس، جڑ کا سوت، زلف،
 طرہ، پیر، جھوٹرا۔
 ریشہ، قلم درے - ش، ریشم، نبت، قلم کا پتہ۔
 ریشیدن درینی ریشی - ڈن، ایک سے دوسرے
 برتن میں ہڈ ملنا درے - سٹی - ڈا، رگنا۔
 ریشیدہ درے - سٹی - ڈو، رنگ ہوا، چکلا، زخمی
 ریشہ، ریشہ، زرخیز - زخی، سٹج، ایک یعنی چادر
 ریشی، ریشی، لنگن، سپا دار۔
 ریشی درینی - خان، آغاز جاتی، اسٹھی جاتی۔
 ریشی درینی - قلم، شکو، ڈبلا، پتلا۔
 ریشی (ریشی) تھوکن، ناشتہ۔
 ریشی (ریشی) نیک نخت۔
 ریشی (ریشی) ریشی، ریشی، مسلم ریل۔
 ریشی رواں (رے - رگ، رڈاں) ریشی جو
 ہر وقت چلتا رہتا ہے، رہتا ہوا ریشی۔
 ریشی زار (ریشی) - ڈا، ریشی کی جگہ۔
 ریشی تان (رے - ریشی تان) ریشی کاسک۔
 ریشی شو (ریشی) - شو، نیارہ۔
 ریشی فرش (ریشی) فرش، چھٹا ہوا کنگر
 ریشی کال (ریشی) - کال، رنگ پھٹانے کا کاغذ
 ریشی ماہی (ریشی) - کال، ریشی کا ایک جانور
 ریل (ریشی) - ریل پتہ۔
 ریشی (ریشی) سفید ہرن جو رام سیکل،
 پینا، رنگ۔
 ریشی درینی - حن، کنگار، دغا با درینی۔
 ریشی (ریشی) میلا کپیل درینی - حن، کنگار ہرن
 ریشی (ریشی) - کس، علم جس کا جاننے والا جہاں
 چلے پھوچ جاتا ہے۔

رین (رین) گناہ کا غلبہ (رین) ایسی جگہ
 - کرنا جہاں سے ٹھکانا سیر نہ ہو۔
 رینو (رینو) مکرو حید، فریب۔
 رینواں، رینواں اس درینی - ڈا، ریشی -
 ڈاس، ایک کھٹ ٹھکانا۔
 رینو درے - ڈن، (د) ایک پیل بناتی دوا۔
 رینو (رینو) بھیڑا جہاں سے ریشی -
 ریشی ٹھکانا درے - ہا، ریشی - ڈن، دیران کرنا۔
 ریشی درے - ریشی - ڈن، ریشی گنا، دیران کرنا۔

ز

زر ڈا، زے، قائم مقام عدد ۷، حرف ثانی،
 اذ، سے، کئی حرفوں سے بدلے ہوا،
 علی الخصوص - ج کے ساتھ مثلاً روزا
 درج - ۲ - ج کے ساتھ مثلاً پز شکو،
 پچنگ - ۳ - کے ساتھ مثلاً سرخ مرزہ
 سرخ مرزہ - ۴ - ژ کے ساتھ مثلاً ڈا غربا
 شاخ - ۵ - س کے ساتھ مثلاً زار دغ،
 سار دغ - ۷ - ش کے ساتھ مثلاً زلوک،
 شوک - ۷ - ش کے ساتھ مثلاً گریز، گریز
 ف - ن کے ساتھ مثلاً زغند، غند - ۹ -
 ۵ کے ساتھ دروازہ، درواہ - ۱۰ - ی کے
 ساتھ مثلاً آوازہ، آدای۔
 زار (زار) پھا ہوا، جیا ہوا۔
 زابل (زار) - ریل، لون آدمی (زار - حیل)،
 زابلستان۔
 زابلی (زار) - پتی، قدیم فارسی زبان کی ایک شاخ۔
 زابلوم (زار) - پتی، خاص سونا۔
 زاج (زار) - چھگری۔
 زاجہ (زار) - چو، چھری کے والا، چو ڈا - چو۔
 زابل (زار) - حیل، ہڈ کی زردی، چو ڈا - حیل

زاج (زاج) زج، لفسا۔
 زاخرف (زاخرف)، جفت، رنگتے والا۔
 زاصل (زاصل)، جہل، ٹھکنے والا۔
 زاخر (زاخرف)، جڑھا ہوا دریا۔
 زاعل (زاعل)، شک، تھوہر۔
 زاو (زاو)، گھانا، گوشہ۔ ۲۔ بیسائرس سال / نسل، پیڑھی، پشت، جنا ہوا۔
 زاویر (زاویر)، بڑا زو، بڑا زو، پشت پر پشت۔
 زاو بود (زاو بود)، ساز و سامان۔
 زاو لوم (زاو لوم)، جو م، جنم، جو م، وطن۔
 زاو راہ (زاو راہ)، راہ، گوشہ راہ، سفر خرچ۔
 زاو دن (زاو دن)، جنسا مسم، زاکبوت۔
 زاوہ (زاوہ)، کوہ، ہر زہد، جنا ہوا۔
 زاو رواج (زاو رواج)، خواہش، خواہ، نا اہل، اردنے والا۔
 زادیق، کنفت کی جگہ، ہوس کی پشاہو گھتھ۔
 زاو ریح (زاو ریح)، کھیتی کرنے والا، زراعت۔
 زاو زالی (زاو زالی)، ڈاکو، گالٹی، پھیری سے رونا۔
 زاو زوار (زاو زوار)، جڑو، زوار، جھلا، نجف۔
 زاو می (زاو می)، روتی، رونا، ہونا۔
 زاو پرن (زاو پرن)، پرنی، زور، اردنا، مضم، زائر۔
 زاو پد (زاو پد)، پرنی، ڈوہ، رو یا ہوا۔
 زاو ری (زاو ری)، ناخوشی، دعا، عتاب کرنے والا۔
 زاو رخ (زاو رخ)، کوہ، گوشہ، کمان، جو زینخان۔
 زاو راد (زاو راد)، ۲۔ کنکھیو نے دیکھنا، پھر جانا۔
 زاو آبی (زاو آبی)، آبائی، جل کوٹا۔
 زاو یار (زاو یار)، پاپا، طعنہ، سرور نش۔
 زاو چشم (زاو چشم)، زارخ، زینش، م، کتھا، کرشما۔
 زاو دل (زاو دل)، زارخ، دل، سخت دل۔
 زاو زار (زاو زار)، عرق، پوٹا، چھینہ، دان۔
 زاو زبان (زاو زبان)، زارخ، زبان، جہکا کوسنا لگے۔
 زاو نول (زاو نول)، نول، کدال۔

زاوہ (زاوہ)، سبب، بھا، پشت۔
 زرافی (زرافی)، آواز کرنے والا۔
 زاگ (زاگ)، زاک، زاک، زاک، دیکھو زانج۔
 زال (زال)، سب سے والا بڑھا یا جڑھیا۔
 زالوک (زالوک)، ٹوک، ٹوک، ٹوک، ٹوک، ٹوک۔
 زامہ (زامہ)، زو، سخت، آواز۔
 زانج (زانج)، زانج، دیکھو زانج۔
 زانف (زانف)، ٹوک، ٹوک، ٹوک۔
 زانہ (زانہ)، ایک پرن ک نام۔
 زانی (زانی)، زانی، حرام کار، زنا کرنے والا۔
 زانیم (زانیم)، زانی، زنا کرنے والی۔
 زاو (زاو)، بناو، رانج، قوی۔
 زاوش (زاوش)، خوش، سنار، مشتہ، ریس۔
 زاو لاند (زاو لاند)، ڈا، بیڑی۔
 زاو می (زاو می)، دھی، گوشہ، کونہ، بڑہ۔
 زاو پیر (زاو پیر)، رویت، خاقا، مسافر خانہ، گوشہ، کونہ، جو زو ایما۔
 زاو یہ (زاو یہ)، کاد، دھ، لوی، درج، کھیا، مازہ۔
 زاو یہ (زاو یہ)، کاد، رویت، کھا۔ لڑکے، ٹوکے درج۔
 زاو یہ (زاو یہ) کا زادیہ۔
 زاو یہ (زاو یہ) سفر جوہ (زاو یہ)، متن، نرقہ، ٹوکے۔
 زاو یہ (زاو یہ) بڑا زادیہ۔
 زاہر (زاہر)، پرن، بگڑ، زارخ، زارخ۔
 زاہرا (زاہرا)، ہذا، اسے زاہر۔
 زاہر (زاہر)، خشک، اڑا، پڑ، خشکی، ک، جس کو عبادت کا لطف نہ آوے۔
 زاہر (زاہر)، پڑ، پڑ، پڑ، پڑ، پڑ، پڑ۔
 زاہر (زاہر)، پڑ، روشن، بلند، جو زو ایما۔
 زاہر (زاہر)، زارخ، زارخ، زارخ، زارخ، زارخ، زارخ۔
 زائد (زائد)، زیادہ، جو زو ایما۔
 زائیر (زائد)، زارخ، زیارت کرنے والا، زو، زارخ، زارخ۔

زائل (ڈا۔ ال) دور ہونے والا۔
 زائیدگی (ڈا۔ ای۔ ڈیگی) پیدا کتنی، جنائی۔
 زائیدن (ڈا۔ ای۔ کن) ہجرت نامہ زائید۔
 زائیدہ (ڈا۔ ای۔ ڈو) جنا ہوا۔
 زای (ڈا۔ ای۔ دیکھو)۔
 زایف (ڈا۔ یعن) حجاب عورت۔
 زائیدہ (ڈا۔ یئ۔ ڈو) پھینے والی۔
 زب (ڈا۔ ای۔ ناگ) بچہ کئی پھلتا (ڈا۔ ای۔)
 زبائل، آسان۔
 زبا (ڈا۔ ای۔ زبیر کی جمع)۔
 زباہ (ڈا۔ ای۔ بڑا جو ہام زباہ)۔
 زباؤ (ڈا۔ ای۔ زباؤ، شک بلائی)۔
 زبان (ڈا۔ ای۔ زبان) چھید، بولی، دروزہ
 زبان آور (ڈا۔ ای۔ آ۔ ڈو) شاعر، فصیح،
 زبانداں۔
 زبان آدمی (ڈا۔ ای۔ آ۔ ڈی) زبانڈانی۔
 زبان سدی (ڈا۔ ای۔ یئ۔ ڈی) بولنے کی ممانت
 زبان وال (ڈا۔ ای۔ ڈاں) شاعر، ادیب،
 زبانوں کا ماہر۔
 زبان دانی (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) زبان جانتا۔
 زبان دراز (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) بیوہ بچنے والا۔
 زبان درازی (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) بیوہ بکواس
 زبان زد (ڈا۔ ای۔ ڈو) مشہور و معروف۔
 زبان فرودش (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) بچی۔
 زبان گیر (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) جاسوس۔
 زبانہ (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) شعلہ، لوہ۔
 زبانی (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) ۱۔ زبہ کی جمع۔ ۲۔ شہد
 بہ زبان۔
 زبانیہ (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) زبہ کی جمع۔
 زباہ (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) زبہ کی جمع۔
 زبہ (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ) جھاگ، پھین (ڈا۔ ای۔ ڈو) دیکھو زبہ

زبدہ (ڈا۔ ای۔ ڈو) خلاصہ، کھن۔
 زبرد (ڈا۔ ای۔ طاقتور) اوپر علامت زبرد (ڈا۔ ای۔)
 زبرد (ڈا۔ ای۔ کتاب) نوشتہ جو زبرد (ڈا۔ ای۔)
 عقل، چنگ، توانا، مضبوط، سخت، مکھڑا۔
 زبرد و زبرد (ڈا۔ ای۔ زبرد) ایک نام۔
 زبردوست (ڈا۔ ای۔ ڈو) دوست، غائب، طاقتور۔
 زبردستی (ڈا۔ ای۔ ڈو) زبرد، زبرد، چھٹی۔
 زبردگان (ڈا۔ ای۔ یئ) برکان، ماہ کابل، چا کا غلا
 زبردہ (ڈا۔ ای۔ زرد) ایک کتاب، نوشتہ جو زبرد
 (ڈا۔ ای۔ ڈو) لوہے کا پڑا، تارہ جو زبرد (ڈا۔ ای۔)
 زبردی (ڈا۔ ای۔ زبرد) مشرب طرف زبرد، زرد۔
 زبلس (ڈا۔ ای۔ ڈو) دیکھو ازبلس۔
 زبیطانہ (ڈا۔ ای۔ ڈو) باندنی، تھک۔
 زبیل (ڈا۔ ای۔ ڈو) لہو، لہو
 زبیل (ڈا۔ ای۔ ڈو) دکھیلنا، دھکا مارنا۔
 زبہ (ڈا۔ ای۔ یئ) امتر و دورح کا کوئل
 جو زبا (ڈا۔ ای۔ ڈا۔ یئ)۔
 زبہ (ڈا۔ ای۔ یئ) زبہ جو زبا نیہ۔
 زبودہ (ڈا۔ ای۔ ڈو) گندنا ہنر، چھی پودینہ۔
 زبور (ڈا۔ ای۔ ڈو) تحریر جو زبور نام کتاب
 جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
 زبول (ڈا۔ ای۔ ڈو) خراب، خوار۔
 زبولی (ڈا۔ ای۔ ڈو) خرابی، خوری۔
 زبہر (ڈا۔ ای۔ ڈو) ہنر، عاق۔
 زبیب (ڈا۔ ای۔ ڈو) خشک، اچھو، خشک، بڑا منقعی
 زبیبہ (ڈا۔ ای۔ ڈو) ہاتھی چڑھنے کی ادھی،
 اد چھینتہ جو زبا، زباہ۔
 زجاج (ڈا۔ ای۔ ڈو) شیشہ، کارخ، زجاج، جاج،
 شیشہ، گرسشیشہ کی پیڑیں بنانے والا۔
 زجاجہ (ڈا۔ ای۔ ڈو) شیشہ، کارخ، آئینہ۔
 زجال (ڈا۔ ای۔ ڈو) جال، نامہ برکت جو زجال، کبر ترانہ۔

زونی (زرکونی) مارے کے لائق۔
 زورن (زرور) دن، ماہینا، صاف کرنا
 معق زرو ایکو۔
 زورودہ (زرور) وہ صاف کیا ہوا، ناجاہدا۔
 زوروکوب (زرور) گول، مارے۔
 زوروشن (زرور) سولیشا۔
 زودہ (زرور) مارا ہوا۔
 زور (زر) سونا چاندی، درپہرہ بیسہ، دولت
 (زر) بٹن، گھنٹی، بوتام۔
 زرابا (زر) سونے کا پانی، زعفرانی
 خراب (زر) راج، ایک خوشبودار گھاس۔
 زراد (زر) زرا، زرہ بنائے والا۔
 زرادخانہ (زر) کاذب، خالص، سلاح خانہ۔
 زراط (زر) راطا، راہ۔
 زراعت (زر) عیش، کھیتی۔
 زراعیتی (زر) عیشی، عیشی والا، منسوب
 بہ زراعت۔
 زراف، زرافہ (زر) زراف، زرا۔ (زر) آمیرلا
 کی جماعت (زر) زراف، زرا۔ (زر) لمبی
 گردن کا ایک جنگل جو پایہ۔
 زراق (زر) زراق، منافق، دودلا۔
 زراق خانہ (زر) زراق۔ خاندان، جہاں
 منافق جمع ہوتے ہوں۔
 زراندد (زر) زرا۔ کن۔ (زر) سونے کا
 جمول پڑھا ہوا۔
 زراوند (زر) زرا۔ (زر) نام دوا۔
 زریاف (زر) زریاف، سنہری۔
 زریقت (زر) زریقت، سنہری کپڑا۔
 زریریست (زر) زریریست، بوجھی، لالچی۔
 زریریستی (زر) زریریستی، بوجھی، لالچی۔
 زرت (زر) زرت، جوار۔

زرج (زر) ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکی۔
 زرجہ (زر) زرج، ڈہائی۔
 زرجیل (زر) زرجیل، کبوتر بھیچنا، کبوتر لانا، ڈالنا۔
 زرجہ (زر) زرجہ، دیکھو زچہ۔
 زرجیر (زر) زرجیر، منگرنے والا، بازار کھنے والا۔
 زرجہ (زر) زرجہ، زچہ، زچہ، عورت سے بچ جتا ہوا۔
 زرخاف (زر) زرخاف، عر، او کی، جہ زرخافات
 زرخام (زر) زرخام، انبوہ، کشت۔
 زرخورہ (زر) زرخورہ، برقع، آٹھانا، نقاب، لنگنا۔
 زرخض (زر) زرخض، رنگ، کھنڈل، پلٹا۔
 زخل (زر) زخل، سنہری تارہ، کیون۔
 زخم (زر) زخم، زخمیت، انبوہ۔
 زخمیت (زر) زخمیت، زخم، زخم۔
 زخیر (زر) زخیر، مرڑا، عیش، مازردہ۔
 زرخ (زر) زرخ، شور، کھنڈل کی آواز۔
 زخار (زر) زخار، لہریز، اسٹلے والا۔
 زخرد (زر) زرخ، پانی چڑھنا۔
 زخرف (زر) زرخ، عورت، زرق برف، خونی، آرائش
 زخرفہ (زر) زرخ، لڑکھ، جموتی طبع کاری کی بات
 زخم (زر) زخم، گھاؤ۔
 زخم کاری (زر) زخم، گھاؤ۔
 زخمی (زر) زخمی، گھاس۔
 زخود (زر) زخود، زخ۔ کن۔ (زر) کھوپا ہوا
 زخمورفہ (زر) زخ۔ کن۔ (زر) کھوپا ہوا۔
 زرد (زر) زرد، مارا، مارا ہوا۔
 زردا (زر) زردا، صاف کرنے والا۔
 زردانیدن (زر) زردا، زرد، دیکھو زورون
 زردایش (زر) زردا، عیش، صفا، جلا۔
 زواہرہ (زر) زواہرہ، وہ صاف کرنے والا۔
 زورن (زر) زورن، مارا معق زورن

زعفران زرع۔ زرع ہوا کا جھونکا، جھکولا۔	زفر (زفر) سختی، بلا، گدھ کی آواز۔
زعرع زرع، نقل کروانا۔	زرق (زرق) سقہ کی مشک۔
زعفران زرع۔ زعفران کیسری۔	زفاق (زفاق) کوچہ، بگلی، اسپٹ۔
زعفرانی زرع۔ زعفرانی کیسری۔	زقوم (زقوم) زرق، قوم، جھوٹے۔
زعفون زرع۔ زعفران، بزرگ، کھل گھوڑا۔	زقونیا (زقونیا) جھوٹے۔
زعم زرع، عمان، عمان۔	زقدہ (زقدہ) قہ، چوکا، گھسی۔
زمنہ زرع۔ زعفران، زعفران۔	زک (زک) بار، الام، کمزور چال۔
زعمیم (زعمیم) ذیل کار، لیڈر، سردار، زعماء۔	زکا (زکا) لالچی، یاکی، بے نیازی۔
زغارہ (زغارہ) چبستا، ارنن جو ایک قند ہے۔	زکاب (زکاب) گھسنے کی روشنی۔
زفانک (زفانک) گھوڑی شاخ۔	زکام (زکام) نام بیماری۔
زغال (زغال) کوئلہ۔	زکوٰۃ (زکوٰۃ) مال کے ایک حصہ کی خدا کی راہ میں اخراجات۔
زعب (زعب) روٹھنا، موسی زد۔	زکی (زکی) پاک، ذہن جو آڑ کیا۔
زغنگ (زغنگ) دیکھو زغنگ۔	زکیک (زکیک) اسپٹ کی چال۔
زغول (زغول) تول، چبت دجالاک آدمی۔	زکیدن (زکیدن) ذول، دیکھو زکیدن۔
زغله (زغله) کر، کلی۔	زکال (زکال) دیکھو زغال۔
زغن (زغن) چیل، خات، غیلواز۔	زک (زک) بھسنا، لڑکھڑانا۔
زغندہ (زغندہ) دیکھو زغندہ۔	زلابیہ (زلابیہ) پیٹھ، چلبسی، زلبیا۔
زغنگ (زغنگ) زغنگ، ابھکی۔	زلائ (زلائ) لاث، زر کی جس۔
زغوتہ (زغوتہ) پیٹھ، پنڈیا۔	زالل (زالل) صاف پیکھا پانی۔
زغیر (زغیر) الی، آستان۔	زالن (زالن) کشت، لزش، خطا۔
زفان (زفان) دولا، دھن کی مہبتی اور دھن کا شور کے گھر آنا۔	زالزال (زالزال) زان، پانا۔
زفان (زفان) زفان، دیکھو زبان۔	زالزلہ (زالزلہ) زلزلہ، جھونکا جہ زلال زان
زفانہ (زفانہ) زخم، دیکھو زبانہ۔	زالف (زالف) ن، لٹ، جٹا۔
زفت (زفت) سخت، موٹا، مضبوط، زفت اتا	زالف پریشاں (زالف) پیرے۔
زفتی (زفتی) کجوس، بزرگان، زنت ات، ایک گوند۔	زلفتی (زلفتی) کجوسی۔
زفرانہ (زفرانہ) زعفران، زعفران۔	زلف (زلف) زعفران، زعفران، زعفران، زعفران۔
زفرانہ (زفرانہ) زعفران، زعفران، زعفران۔	زلفی (زلفی) زعفران، زعفران، زعفران۔
زفرانہ (زفرانہ) زعفران، زعفران، زعفران۔	زلفی (زلفی) زعفران، زعفران، زعفران۔

زلفین (زُلّ فِئِن) زنجیر۔
 زلق (زُلِق) صاف ہموار زمین۔
 زلل (زُلل) خطا، لغزش، نقصان و ترازو کی جلی، پھینکنے کی جگہ، پھسلنے۔
 زلو، زلود، زلوک (زُلُو، زُلُوْد، زُلُوک) چونکہ جو چونچوسنے والا پانی کا ایک کپڑا ہے۔
 زلد (زُلْد) بھسلنے، لغزش، خلابم زلالت (زُلَالَة) بھولنا، بھیسنا۔
 زلیبا دڑے۔ با، چلیبی۔
 زلیبل (زُلِبْل) لٹکھڑانا، ڈھکھکانا۔
 زلیبہ (زُلِبِبَة) قابیلین۔
 زمارد بخ (زُلْمَا) جڑو بخ، لکھو سارو بخ۔
 زماط (زُلْمَط) ہاتھ، شہنائی، لغیر، تری۔
 زمام (زُلْمَام) نیل، باگ جم آزمٹہ۔
 زمان (زُلْمَان) وقت، فرصت، رود کارو آسمان، زمانہ۔
 زمانہ (زُلْمَانَة) وقت جم آزمٹہ۔
 زمانہ ساز (زُلْمَانَسَا) بے اصول، زمانہ کے موافق۔
 زمانہ سازی (زُلْمَانَسَا) بے اصولی، موافقت زمانہ۔
 زمانی (زُلْمَانِي) منسوب بہ زمانہ، لوبدیا۔
 زنج (زُلْمَج) بھڑنا، ٹھہریں ٹھس آٹنا۔
 زنج (زُلْمَج) عضہ پکڑنا، ڈھکھک، ایک شکاری پرند جس کا جوار ایلک شکاری یعنی رگڑ زنج (زُلْمَج) کیسینہ بدرد، لونا۔
 زنجیت (زُلْمَجِيَت) ت، سبیلہ۔
 زمر (زُلْمَر) بالنسب کی بگائیا، خبر ناش کرتا۔
 زمرہ (زُلْمَرَة) ہرگز، ہرگز، ہرگز، ایک ہر جاوہر۔
 زمرہ میں (زُلْمَرِيْن) زمرہ کی مانند۔
 زمرہ (زُلْمَر) رفا، جماعت، گردہ جم زمرہ

زمزم (زُلْم) زمزمہ کا ایک کنواں۔
 زمزمہ (زُلْم) زمزمہ، عقیقت، نغمہ۔
 زمزمہ پرداز (زُلْم) زمزمہ پردہ، زمزمہ ڈاز ہنغمہ گانے والا۔
 زمزمہ پردازی (زُلْم) زمزمہ پردہ، زمزمہ ڈاز ہنغمہ نغمہ گانا۔
 زمزمی (زُلْمِي) زمزمہ کے پانی کا برتن۔
 زمستان (زُلْمِسْتَان) جاگڑا، سرما، شہنا۔
 زمستانی (زُلْمِسْتَانِي) زمستان سے منسوب۔
 زمکی (زُلْمِكِي) کما، دغزہ، پوچھنے کی جڑ۔
 زحم (زُلْم) مضبوط، ارادہ۔
 زمین (زُلْمِيْن) زمانہ وقت، مصیبت جم آزمٹہ، آزمٹہ زمزم، مصیبت کا مارو زم، ارادہ، ماش زمودن (زُلْمُوْدِن) نقش و نگار کرنا۔
 زمپر (زُلْمَر) بہر، سخت جاگڑا، ایک ٹھنڈا کرٹہ۔
 زمین (زُلْمِيْن) بونا، جبان۔
 زمین (زُلْمِيْن) ببادور، درست رائے۔
 زمین (زُلْمِيْن) سبھی۔
 زمی (زُلْمِي) زمین، زمین، ارض، دھرتی۔
 زمیندار (زُلْمِيْن) دار، مالک زمین۔
 زمین دوز (زُلْمِيْن) دوزخ میں کے لئے والا۔
 زمین کینہ (زُلْمِيْن) کینہ، کینہ، کینہ، کینہ۔
 زمین مردہ (زُلْمِيْن) بون، کڑو، کڑو، کڑو۔
 زمین و زمان (زُلْمِيْن) کون، زمان، زمین و آسمان۔
 زن (زُلْمَان) عورت، جو روہ، ناری۔
 زنا (زُلْمَان) حرام کاری، زنا، بے حد زانی۔
 زنا بیر (زُلْمَانِي) پتھر، زنا، کینہ کی جگہ۔
 زنا بیل (زُلْمَانِي) زنا، بیل، زمین کی جگہ۔
 زنا وقتہ (زُلْمَانِي) وقت، زمین کی جگہ۔

زینہار دزین - ہاتھ، ہرگز، پناہ (حفاظت) شکایت -

زینہاری اڑین - کپڑے، پناہ میں آیا ہوا۔ زیور اڑے - ڈونگنا پاتا۔



ژدڑے، مخصوص حرف فارسی، قائم مقام عدد ۷، متعدد حرفوں سے بدل ہے۔ اس کے ساتھ مثلاً ج، کڑ، ۲۔ ج کے ساتھ مثلاً کاج، کاڑ، ۳۔ کے ساتھ مثلاً زاغ، ژاغ، ۴۔ س کے ساتھ مثلاً چھن، چھس، ۵۔ ش کے ساتھ مثلاً ڈ، دھس -

ژا بیز، اڑا - سبز، ہتی کڑی سنگلی ہوئی بوند ژابون، ڈا - بون، جہان (مشرقی ایشیا، ہزار نوان ڈاڈا، چوٹ، باغ، گارڈن - ژاژا، ڈاژا، بد مزہ، بیہودہ، بے بیج دلی سبزی -

ژانڑانی، ڈاڑا - فا - اچی، بہودہ گوئی - ژاژک، ڈاژا - ڈو - کٹ، لوسا، راس - ژاژیدن، ڈاژا - ڈی - ڈن، جو کاس کرنا معتم ژاژوڈ -

ژاغر، ڈاژا - غر، دیکھو زاغر - ژالہ، ڈاژا - کڈ، ادلاہ اوس - ژامانیک، ڈاژا - مانا - نیک جزیرہ جیرکا - ژاژوڈ، ڈاژا - ڈا، خالص، خاصہ - ژیک، ڈاژا، ک، مینہ کی بوند - ژاژ، ڈاژا، مہ، نریاد - ژاژا، ڈاژا، سخی، آدان، لغرہ - ژو، ڈاژا، گولڈ - ژووار، ڈاژا، جہدار -

زیربار دزیر، بیا، کھانے کی ایک قسم - زیر بند، ڈاژا - بچ، دھکھوٹے کے تنگ کاسہ -

زیر جامہ، ڈاژا - جامہ، پاجامہ وغیرہ - زیر جاق، ڈاژا - جاق، محکوم، مغلوب، نرم - زیر دست، ڈاژا - دست، مغلوب، پوشیدہ - زیر فوف، ڈاژا - فوف، گالی -

زیرک، ڈاژا - رک، عقلمند - زیرکی، ڈاژا - کی، دانائی، پیرانی - زیر لب، ڈاژا - لب، ہونٹوں ہونٹوں میں - زیر تین، ڈاژا - تین، حکم کے ماتحت - زیر وچم، ڈاژا - وچم، آواز کا آواز بڑھاؤ - زیر و دار، ڈاژا - دار، زمین آواز - زیر و زبر، ڈاژا - زبر، آواز بڑھاؤ - زیرہ، ڈاژا - رہ، کون، ایک مصلوہ -

زیر، ڈاژا، چھینگر - زیست، ڈاژا - یس، زندگی - زیستن، ڈاژا - یس، جینا معتم زید - زیستی، ڈاژا - یس، مینے کے لایق -

زیغ، ڈاژا، پھر جاننا، ڈے، حصار، ایک دریائی مٹاس - زیغان، ڈاژا - غان، تاریخ کی ج - زین، ڈاژا، کوسا سکہ، آرمینیائی، زینا، ڈاژا، کھلے پن سے سکتہ چلنا -

زیک، ڈاژا، دیکھو زج - زیلاند، ڈاژا - لان، زیلیٹڈ - زیلوچہ، ڈاژا - چو، ڈاژا، قالین - غالیچہ - زین، ڈاژا، سیاہی، خوبی، کیس (زین)، کھوڑے کی کاسھی، ڈاژا، بھلا، سمیلا - (زیسا، انیں، اس سے - زینت، ڈاژا - نت، سادہ، آرائش - زینہ، ڈاژا - نہ، بیٹھی، نوبان -

ژرد میں (ژرد - بین) پرچھا، پرچی، حربه۔ ژورک (ژورک رک) سرخاب۔ ژوش، ژوش، ژوشہ، ژوش، ژوشہ، ژوشہ (ژوشہ) سیہ خارنشت۔ ژول (ژول) سرول، مجھری۔ ژولائی (ژولائی) بسلی، جولائی۔ ژولیدگی (ژولیدگی) دگر، الجھا، الجھن۔ ژولیدن (ژولیدن) دن، الجھنا، سفہ، ژولیدگی۔ ژولیدہ (ژولیدہ) (ژولیدہ) (ژولیدہ) الجھا ہوا۔ ژومیدہ (ژومیدہ) (ژومیدہ) (ژومیدہ) اپنی کا مو اکھت۔ ژون (ژون) (ژون) (ژون) موت، نیت، جون کا حسینہ۔ ژومیدان (ژومیدان) (ژومیدان) (ژومیدان) بارش سے ٹپکنا۔ ژوسی (ژوسی) (ژوسی) (ژوسی) پوکھ، تالاب، جوڑ۔ ژویاں (ژویاں) (ژویاں) (ژویاں) غفیلا، غضبناک۔ ژویر (ژویر) (ژویر) (ژویر) تالاب۔ ژویرہ (ژویرہ) (ژویرہ) (ژویرہ) دیکھو زیرہ۔ ژویرہ (ژویرہ) (ژویرہ) (ژویرہ) گندہ، سردار۔ ژویخ (ژویخ) (ژویخ) (ژویخ) تزئین، زیبک، قطرہ۔ ژویناسیک (ژویناسیک) (ژویناسیک) (ژویناسیک) زیبک، جہنا سنگ۔ ژویہ (ژویہ) (ژویہ) (ژویہ) بارہ، زینتی۔	ژرد (ژرد) (ژرد) لیا، خوردی۔ ژرف (ژرف) (ژرف) (ژرف) تمہرا، عیبی۔ ژرفا (ژرفا) (ژرفا) (ژرفا) گہرا، گہرا، ہونا۔ ژرمانیا (ژرمانیا) (ژرمانیا) (ژرمانیا) نیا، جرمن۔ ژرفی (ژرفی) (ژرفی) (ژرفی) باریک بینی، عیبی خیالی۔ ژرفار (ژرفار) (ژرفار) (ژرفار) سختی، فقرہ، فریاد۔ ژرفالہ (ژرفالہ) (ژرفالہ) (ژرفالہ) غازہ، جٹھ، پینے کی سرخی۔ ژرفاد (ژرفاد) (ژرفاد) (ژرفاد) بچلہ، رندسی۔ ژرفوش (ژرفوش) (ژرفوش) (ژرفوش) زانگ، دانت بکے کی آواز۔ ژرفند (ژرفند) (ژرفند) (ژرفند) سختی، قوی، دباڑ۔ ژرفان (ژرفان) (ژرفان) (ژرفان) تراکیلا۔ ژرفک (ژرفک) (ژرفک) (ژرفک) گید، چھپڑا۔ ژرفین (ژرفین) (ژرفین) (ژرفین) (ژرفین) (ژرفین) گسیلا ہونا۔ ژرفک (ژرفک) (ژرفک) (ژرفک) عفتہ کی بڑھاپہ۔ ژرفکان (ژرفکان) (ژرفکان) (ژرفکان) بڑھانے والا۔ ژرفکس (ژرفکس) (ژرفکس) (ژرفکس) مس، مسعاد اللہ۔ ژرفکفر (ژرفکفر) (ژرفکفر) (ژرفکفر) صبر کرنے والا۔ ژرفکفری (ژرفکفری) (ژرفکفری) (ژرفکفری) صبر۔ ژرفکور (ژرفکور) (ژرفکور) (ژرفکور) چور، کجوس۔ ژرفکین (ژرفکین) (ژرفکین) (ژرفکین) (ژرفکین) (ژرفکین) عفتہ سے بڑھانا۔ ژرفکان (ژرفکان) (ژرفکان) (ژرفکان) (ژرفکان) دیکھو ژرفان۔ ژرفند (ژرفند) (ژرفند) (ژرفند) (ژرفند) زرتشت کی کتاب۔ ژرفدان (ژرفدان) (ژرفدان) (ژرفدان) (ژرفدان) دیکھو ژرفان۔ ژرفدگی (ژرفدگی) (ژرفدگی) (ژرفدگی) (ژرفدگی) پیرا ناپین۔ ژرفدہ (ژرفدہ) (ژرفدہ) (ژرفدہ) (ژرفدہ) گدڑی، گودڑ، حس، پڑنا۔ ژرفزل (ژرفزل) (ژرفزل) (ژرفزل) (ژرفزل) (ژرفزل) جنرل۔ ژرفک (ژرفک) (ژرفک) (ژرفک) (ژرفک) (ژرفک) ہجرتی، ماتنی کی کتاب۔ ژرفکدن (ژرفکدن) (ژرفکدن) (ژرفکدن) (ژرفکدن) (ژرفکدن) گھومگر۔ ژرفکلہ (ژرفکلہ) (ژرفکلہ) (ژرفکلہ) (ژرفکلہ) (ژرفکلہ) کھر۔ ژرفند (ژرفند) (ژرفند) (ژرفند) (ژرفند) (ژرفند) ٹوک۔ ژرفیاں (ژرفیاں) (ژرفیاں) (ژرفیاں) (ژرفیاں) (ژرفیاں) اجواں۔
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س

س (سین) قائم مقام عدد ۶۰ حرف ٹپسی
مشدد حرف سے بدل ہے۔ ۱۔ س کے ساتھ
مثلاً ریواس، ریواج۔ ۲۔ س کے ساتھ
مثلاً خروج، خروس۔ ۳۔ س کے ساتھ
مثلاً باجو، پاس۔ ۴۔ س کے ساتھ
مثلاً ساروخ، زاروخ۔ ۵۔ س کے ساتھ
مثلاً بسک، بکوز۔ ۶۔ س کے ساتھ
مثلاً

کشتی کستی، یہ ص کے ساتھ مثلاً نفس، نقص
 ۸۔ ہ کے ساتھ مثلاً چست، چفت ۵۔ ل کے
 ساتھ مثلاً بیج، بیج۔ ۱۰۔ د کے ساتھ مثلاً
 باتس، باتو۔ ۱۱۔ ہ کے ساتھ مثلاً آنا، آناہ
 سا، سا، مانزا، خراج، گھسنے والا۔
 سا باط (سا۔ باط) چھتہ، کوتا، چم سوا، پڑا
 سا کا طاق۔
 ساج (سا۔ ج) تیراکی، تیز روڑ کا گھوڑا۔
 سا برسی (سا۔ برسی) عمل جو ایک زمین پر پڑا ہے۔
 ساج (سا۔ بیج) سائوں، چم سبوتہ۔
 ساج عشر (سا۔ بیج، عشر) سترھواں پڑا۔
 ساج (سا۔ بیج) پورا، کامل، وسیع۔
 سابق (سا۔ بیج) پہلا، ادلی، ہم سوا، الی۔
 سابقا (سا۔ بیج) پہلے، اول، دہ۔
 سابقہ (سا۔ بیج) پہلی، ہم سوا، الی۔
 ساوس (سا۔ جو، س) اسپوں، بذر، قلوٹا۔
 ساثر (سا۔ تڑ) چھپانے والا۔
 ساگیں (سا۔ گین) محبوب، شہابہ کا پیالہ۔
 ساج (سا۔ ج) سال، ساکھو جو ایک درخت ہے۔
 ساجد (سا۔ ج) سجدہ کرنے والا، ہم ساجد۔
 ساجدہ (سا۔ ج) سجدہ کرنے والی۔
 ساجع (سا۔ ج) جمع، مقفی بات کرنے والا، ہم
 سوا، جع، جمع۔
 ساجور (سا۔ ج) کتہ کا پتہ۔
 ساچنی (سا۔ چنی) بڑی برسی۔
 ساچمہ (سا۔ چم) چھتہ، گولی۔
 ساجہ (سا۔ ج) بھون، چھینا، دنگڑا۔
 ساحت (سا۔ ح) میدان، آئین، صحن۔
 ساحر (سا۔ حر) جادوگر، سحر، سحرین۔
 ساحرانہ (سا۔ حر) جادوگر کی مانند۔
 ساحرہ (سا۔ حر) جادوگرنی۔

ساحری (سا۔ ج) جادوگری۔
 ساحق (سا۔ ج) پھینے والا، رگڑنے والا۔
 ساحل (سا۔ ج) دریا یا سمندر کا کنارہ، ہم
 سوا، جلی۔
 ساحابہ (سا۔ ف) بڑا، سوتا، خلیج۔
 ساخت (سا۔ ج) بناوٹ، گھوڑے کا ساز۔
 ساختگی (سا۔ ج) بناوٹ۔
 ساختن (سا۔ ج) بناوٹ، بنا کرنا، موافقت کرنا،
 بنانا، سمع سا روڑ۔
 ساختہ (سا۔ ج) کتب، بنایا ہوا، مستند، آمادہ،
 درست۔
 ساختہ رو (سا۔ ج) کتب، تشریح، مٹھ پڑا
 بنائے ہوئے۔
 ساخت (سا۔ ج) دل موہنے والا، ہم موہن۔
 سادات (سا۔ ذات) سادگی، ص۔
 سادت (سا۔ ذ) سادگی، ص۔
 سادور (سا۔ و) حیران، بے باک۔
 سادس (سا۔ دس) چھٹا۔
 سادس عشر (سا۔ دس) عشر، سولہواں۔
 ساوکی (سا۔ و) گولی، صفائی، بے بناوٹی۔
 سادون (سا۔ و) خادم، دربان، ہم سکھ۔
 سادہ (سا۔ ذ) امر، بیوقوف، خالص،
 بے نقش۔
 سادہ پرکار (سا۔ ذ) پڑا، کارڈ، شوخ و
 شہیر، معشوق۔
 سادہ دل (سا۔ ذ) ولی، نادان، اجنبی۔
 سادہ دلی (سا۔ ذ) ولی، نادانی۔
 سادہ رو (سا۔ ذ) بے دائرہ، موٹھ کالہ۔
 سادہ روی (سا۔ ذ) روڑ، رانی، بے دائرہ
 موٹھ کا ہونا۔
 سادہ لوح (سا۔ ذ) لوح، بادلا، سیدھا۔

سادہ لوحی (سادہ - لوجی) سیدھا پن -
 سادھی (سادہ - دینی) دیکھو سادس -
 سادوچ (سادہ ذبح) نیز بات دوا -
 سادہ (سادہ) جگہ، مانند کلمہ کثرت، ادبش،
 سہ، ایک کالا پرند، بڑا سادپ -
 سارا (سادہ - ترا، خالص) -
 ساربان (سادہ - بان، اونٹ والا) -
 سارقی (سادہ - رقی، چور، وزدحم سوار رقی) -
 ساروان (سادہ - کان، دیکھو ساربان) -
 سارک (سادہ - رک، دیکھو سارک) -
 سارو (سادہ - رولا، مینا) -
 سارہ (سادہ - رے، پردہ، رشوت) -
 ساری (سادہ - ریحی، اثر کرنے والا) -
 ساریہ (سادہ - ریت، رات کا بادل، سوار ریحی) -
 ساز (سادہ) مانند، موافقت، بنانے والا،
 موافقت کرنے والا، سامان، باجا، گھوڑے
 کا سامان، استعداد، ترکیب، دعوت
 توڑنا، مکر، نفع، منٹ -
 سازش (سادہ - زشن، نگاہ، موافقت جیسے بندگی
 سازشی (سادہ - زشی، سازش کرنے والا،
 سازش سے منسوب) -
 سازگار (سادہ - زگار، موافق، لایق) -
 سازگار (مذہب ساز) - گناہ - مذہب، موافق ہونے
 کے لایق -
 سازگاری (سادہ - گاری، موافقت) -
 سازندہ (سادہ - زند، روئے، رفاہ کے ساتھ
 باپے والا، موافقت کرنے والا، بنانے والا) -
 سازمند (سادہ - مند، منج، د، ساختہ، آراستہ،
 سازگار) -
 سازمندی (سادہ - مندی، رومی، آراستگی) -
 سازیدان (سادہ - زیدی، دن، سازش کرنا،

موافقت کرنا، راست کرنا -
 ساس (سادہ - ساس، کھٹل) -
 ساسان (سادہ - سان، فقیر، گدا) -
 ساسانی (سادہ - سانی، ایک قدیم ایرانی
 شاہی خاندان سے نسبت رکھنے والا) -
 ساسم (سادہ - سم، شیشم کا پیڑ) -
 ساسی (سادہ - سنی، بھکاری، بھیک) -
 ساطر (سادہ - طر، قسانی، تصالب) -
 ساطع (سادہ - طع، بلند، جیکھا ہوا جم سٹوا طع) -
 ساطور (سادہ - طور، چھرا، پھیری) -
 ساطی (سادہ - طی، ایک پرند، قدم باز گھوڑا) -
 ساعاتی (سادہ - غاتی، گھڑی ساز) -
 ساعت (سادہ - رت، گھڑی، لمحہ، منٹ، گھنٹہ، چھ ساعا -
 ساعت یعنی، ساعت - نین، چھٹی گھڑی) -
 ساعت سنگین (سادہ - عت، سنگ، گین، سخت گھڑی
 ساعت عمومیہ (سادہ - عت، عمومی، گھنٹہ گھر) -
 ساعت مجلسی (سادہ - عت، مجلسی، کلاک) -
 ساعلد (سادہ - علد، بازو، کلائی، جم سٹوا علد) -
 ساعور (سادہ - عور، غور) -
 ساعی (سادہ - عی، کوشش کرنے والا، چھی رسا
 چپراسی، جیل خور، چھ سعات) -
 ساعز (سادہ - عز، شراب کا پیالہ) -
 ساعز (سادہ - ز، ساز، اونچی، نوایندہ) -
 سافل (سادہ - فل، نیچے والا، پیندا) -
 ساقفہ (سادہ - فہ، گروا کو دہا، اندھڑ، جم سٹوا فہ) -
 ساق (سادہ - ق، بیڑی، دھنسل، جم سٹوا ق) -
 ساقوق (سادہ - قوق، سیٹھان) -
 ساقطہ (سادہ - قطہ، گرنے والا، دھچا، جم سٹوا قطہ) -
 ساقیہ (سادہ - قیہ، فوج کا پھیلا حصہ، چندا دل) -
 ساقی (سادہ - قی، پلانے والا، جم سٹوا قی) -
 ساقیہ (سادہ - قیہ، پہرہ، بڑھ، چھوٹی ندی، جم سٹوا قی)

ساکب (ساکب، بیٹے والا۔
 ساکت (ساکت، خاموش، کچھ جھسکتا۔
 ساکف (ساکف، کھن، اترنگ، گرا۔
 ساکن (ساکن، کون، باشندہ، بے حرکت جہاں
 سکنتہ، سکنتی، ساکنین، ساکنان۔
 ساکنہ (ساکنہ، باشندہ، حرکت، جم سواری۔
 ساکوہ (ساکوہ، اور کوٹ، بڑا کوٹ۔
 ساکی (ساکے، کئی، چنل خور، سخن چین۔
 سالی (سالی، برس، جم سالیان، سالان،
 کشتی، نام، درخت، ساکو، ساج۔
 سالار (سالار، سردار۔
 سالاری (سالاری، سرداری۔
 سالانہ (سالانہ، سالوار، ہر برس۔
 سالیب (سالیب، بیت، سلب کرنے والا۔
 سالیہ (سالیہ، منتظ میں کلمہ لفظی۔
 سالیج (سالیج، تیراک، جم سواری۔
 سالیج (سالیج، پتھیا، بند۔
 سالیج (سالیج، خرد، بوڑھا، پرانا۔
 سالیسی (سالیسی، شمع، سورت کی
 گردش کے حساب سے سال۔
 سالیف (سالیف، بھلا، گدرا، ہوا، جم سواری۔
 سالی قمری (سالی قمری، چاند کی گردش
 کے حساب سے سال۔
 سالیک (سالیک، راہ چلنے والا، جم سواری۔
 سالیط (سالیط، یور، تندرست۔
 سالیما، وفاقا، (سالیما، ذہن، غائب،
 وہ حالت کہ جس میں سلامتی کے ساتھ
 مال غنیمت لادے۔
 سالیق (سالیق، دیکھو، سالون۔
 سالیما (سالیما، سال، نیک، کھیلندہ، رسالہ کا
 سالانہ نمبر۔

سالوس (سالوس، خوش، فریبی، فریب،
 چرب زبان۔
 سالوسی (سالوسی، خوش، چرب زبانی،
 فریب کاری۔
 سالوک (سالوک، کھن، پھیریلانی، ڈاکو۔
 سالون (سالون، کون، برآمدہ، سلون۔
 سالی (سالی، پرانا، کھن، ہیبت، برسوں کا
 سالیان (سالیان، ہیبت سے برس،
 ایک سال۔
 سالیانہ (سالیانہ، یکا، درماہ، سال بھر
 کی اجرت۔
 سام (سام، چھین اور درد، آگ، موت،
 ہلاکی، سونا، چاندی، سام، زہر دینے والا۔
 سامان (سامان، اسباب، امانہ، قدر۔
 سامانچہ (سامانچہ، سامان، کچھ، ساکب،
 پختہ، نگینہ، کرتی۔
 سامر (سامر، سرد، داستان، گو جم ہسٹا۔
 سامح (سامح، سمجھنے والا، جم سواری۔
 سامعہ (سامعہ، سمجھنے کی قوت، جم سواری۔
 سامن (سامن، فریب، موٹا۔
 سامندر (سامندر، کڑ، دیکھو، سمندر۔
 سامہم (سامہم، کان کے اندر سونے یا چاندی کی تہ، جم سام
 (سام، سمجھ، خاتمہ، ہوگند، عہد، زہر پلا، جالور۔
 سامی (سامی، جم، بلند، اور پچا۔
 سان (سان، حرف تشبیہ، مانند، ملا،
 دھار، نکلنے کا پتھر، سان، باٹھیا، خان ش
 ساریج (ساریج، غلام، ہونے والی چیز۔
 ساریج (ساریج، ناگوار، جم سواری۔
 سادنت (سادینت، مردانہ، ہاد۔
 سادیدن (سادی، ذہن، گھٹنا، چست
 ہونا، صفحہ، ساکو، ڈو۔

ساون دسا - دین، پاری -
 ساہر دسا - پز، بیدار -
 ساہرہ دسا - ہزار زمین -
 ساہی دسا - ہی، غافل، بھولا -
 ساہیان دسا - پیمان، آسارا، چھپر -
 ساہیہ دسا - راجہ، چھوٹا ہوا ساہو، بجا -
 ساخ دسا - راج، روزہ دار مرد -
 ساخ دسا - راجہ، روزہ دار عورت -
 ساک دسا - راج، سردار، استبداد، سادک،
 جم جم سادک -
 ساکر دسا - راج، تمام، مشہور، سیلانی -
 ساکس دسا - راج، گھوڑی کا گھبان، جم سادک
 ساخ دسا - راج، ہضم ہونے والا -
 سالف دسا - راج، تلوار بند -
 سالف دسا - راج، ڈرامور، پیچھے سے چلا ہوا
 جم سواف -
 سالف دسا - راج، پیچھے سے چلا والی -
 ساکل دسا - راج، مانگنے والا، سوال کر والا
 جم ستالین -
 ساکھ دسا - راج، مانگنے والی، سوال کرنے والی،
 ساکھ دسا - راج، جرنے والا، جم سواف -
 ساکھ دسا - راج، ہیر کرنا والی عورت، جم سادک
 سائیدگی دسا - راج، ڈرگی، گھسانی، رگڑائی -
 سائیدن دسا - راج، ڈن، گھسنا، پیسنا،
 رگڑکا، مقہم سا کپڑا -
 سائیدنی دسا - راج، ڈرگی، رگڑائی، لافن،
 گھسنے کے لافن - پیسنے کے لافن -
 سائیدہ دسا - راج، ڈہ، پیسا ہوا، گھسا ہوا -
 ساجی، ساجی، پیسنے والا -
 سلینڈرہ دسا - راج، ڈہ، پیسنے والا -
 سایہ دسا - راج، چھاؤں، پرچھائیں

سایہ دست دسا - سخی، ای - دس، ات، مدد، امانت -
 سایہ دست دسا - سخی، ای - دس، ات، نماز پروردہ -
 سب اسب، گالی اسب، گچھی -
 سب سب اسب، کاپیہ، شہادت کی آنگلی -
 سیات دسب، نیند، آرام، زمانہ، ہنسند
 کی بیماری -
 سبج دسب، بانج، تیراک -
 سباحت دسب، جٹ، تیراکی -
 سبار دسب، زخم میں ڈالنے کی سلائی -
 سبارو اسب، رڈی، کپوتر، جنگلی کپوتر -
 سباط دسب، طہ، گھورا، کاسہ -
 سبارع اسب، راج، سات عدد والا ہونا -
 سباجی اسب، سخی، سید، سپارہ، اسات، سرحول
 والی لقمہ -
 سباق اسب، باقی، سبقت، لجا، والا دسب،
 ہاتھ پاؤں کے چڑھنا، ڈوڑھیں
 آگے بڑھ جانا -
 سبک اسب، بانج، شمار، زرگہ -
 سبک اسب، سبقت کی وجہ -
 سبب دسب، وجہ، باعث، جم اسب،
 سبب اسب، سبب، سبب، جم سببوت -
 سبج دسب، جہ، کالی کالی، کالا کپڑا -
 سبجان دسب، خان، خدا کی یاد باگی ہے -
 سبج دسب، خدا، مالا، سبج، سمن، جم سبج -
 سبج دسب، دسب، سببوت، سحر، زمین
 جم سبج -
 سبج گردانی دسب، جہ، گڑ - دانی، سبب، لہنا
 سبب دسب، ٹوکرا، ٹوکرا -
 سبب دسب، زہ، ہر، سا ڈالا -
 سبزان دسب، ڈان، سبب کی فارسی جس کا
 راج، سبب، دالے -

سبز بخت (سب) از پنج بات خوش نصیب -
 سبز بختی (سب) از پنج بات خوش نصیب -
 سبز با (سب) از یکا، دیکو سبز قدم -
 سبز پوش (سب) از پوش آغی آدی، زشته،
 حضرت خضر علیه السلام -
 سبز رنگ (سب) از رنگ، سانوزی رنگ، گندی
 سبز ظا (سب) از کھا، آوش، کھر، هوا، آسان
 سبز قدم (سب) از قدم، نخوس قدم -
 سبز قدمی (سب) از بند، موی، نخوس ندی -
 سبز کار (سب) از کار، ای کام کرنے والا -
 سبزگ (سب) از رنگ، نیک، کھنڈ، مھران -
 سبز داری (سب) از دوا، ری، بھر، سبز دار
 سے نسبت رکھنے والا -
 سبزہ (سب) ذہ، ہریا دل، ہریالی، مھوڑے
 کالک رنگ -
 سبزہ بیچگانہ (سب) ذہ، را، پے، گانہ (با)
 خود و سبزہ -
 سبزہ رنگ (سب) ذہ، رنگ، دیکھو سبز رنگ -
 سبزی (سب) زینی، ترکاری، ہریالی، ہریالی
 سبزینہ (سب) زینی، کھ، معشوق بیچ و جوان -
 سبب (سب) سبب، جنگل، بیابان -
 سبط (سب) ط، پونا، نواسہ، اسرا، سبلی
 جماعت جم آشنا، ط (سب) ط، سبب،
 سیدھی لٹ -
 سبطانہ (سب) ط، نہ، دیکھو زلفانہ -
 سبطین (سب) طین، ڈو پوتے، ڈو نواسے -
 سبط (سب) رخ، سبب کا سونٹ، سات، بخت،
 ساتواں حصہ (سب) (زندہ جانور جم
 سبب، آسٹھ -
 سبھون (سب) خون، دیکھو سبھین -
 سبھ (سب) فک، سات (۷)

سبھ عشر (سب) عہ، عشر، سترہ (۱۷)
 سبھی (سب) سبھیت، سبھی، سبھو، یث
 در عی، حیوانیت -
 سبھین (سب) طین، ستر، ہفتاد (۷۰)
 سبھ (سب) جو استادے ایک مرتبہ شمار
 پڑھے، مثال، پیش خمہ، تجربہ، بازی
 جم آشنا (سب) آگے نکل جانا -
 سبھت (سب) فتن، آگے نکل جانا -
 سبھ (سب) ہلکا (سب) اک، گلانا -
 سبکیار (سب) ہار، بوجھ سے ہلکا -
 سبکیاری (سب) ہار، ری، بوجھ سے
 ہلکا ہونا -
 سبک یا (سب) پنا، تیز قدم -
 سبک پائی (سب) پنا، اپنی تیز قدمی -
 سبک چولائی (سب) چولائی، تیز رفتار -
 سبکیار (سب) خیر، چالاک، دھست -
 سبکدست (سب) ذہ، ات، چالاک
 چالکدست -
 سبکدستی (سب) ذہ، چالاک، چالاکتی
 سبکدش (سب) ڈولاش، جس کا کندھا
 بوجھ سے ہلکا ہو -
 سبکدشی (سب) ذہ، ذہنی، بوجھ سے کندھا
 ہلکا ہونا -
 سبک رو (سب) ذہ، تیز رفتار -
 سبک روح (سب) روح، ہنسکا، اظرفیاء
 بے تکلف -
 سبک روحی (سب) ذہ، ذہنی، بے تکلفی -
 سبک روی (سب) ذہنی، تیز رفتار -
 سبکسار (سب) سار، فارغ البال، بے تکلف
 سبکساری (سب) سار، ری، بے تکلفی،
 فارغ البالی -

سپاسگاری (سپاس - بزمی، دیگھو سادوک -
 سپارہ (سپاہ - زقہ) سان کا پتھر دسپا زقہ
 قرآن شریف کا م سوال حصہ -
 سپاہی دسپا - رخی، چھایا -
 سپاس دسپاس، تفریف، شکر -
 سپاسنامہ (سپاس) - نا - تہہ لشکر یہ کہ تحریر
 آئی رہیں -
 سپانام دسپا - نامخ، پاک -
 سپاہ (سپاہ) - فوج -
 سپاہان دسپان، امخان (ایران)
 سپاہانہ (سپاہ) - تہہ، سپاہ کی مانند
 سپاہ کالانق -
 سپاہ گری (سپاہ) - گری، فوجی ہونا -
 سپاہی (سپاہ) - ہی لشکر، بہادر -
 سپاہیانہ (سپاہ) - تہہ، سپاہی کی شکل -
 سپہ اسپیڑ ڈھال -
 سپہر (سپہر) - دانت، دھول، سونہ -
 سپہردار (سپہر) - دار، جس کو سونپا جاتا
 سپہرداری (سپہر) - د - دار، رخی، سونپنا -
 سپہردگی (سپہر) - ڈنگی، سونپ، چالی، سونپنا -
 سپہردن (سپہر) - دن، سونپنا، مشہ سپاہی
 اسپر - دن، ہمالی کرنا، راہ چلنا مشہ سپہر
 سپہردنی (سپہر) - دنی، سونپنے کے لائق -
 سپہردہ (سپہر) - سونپنا ہوا -
 سپہر (سپہر) - تلی، مچال -
 سپہر عم، سپہر عم، سپہر عم، سپہر عم،
 مردہ، ریحان -
 سپہری (سپہر) - تمام، آخرا گذشتہ -
 سپہر دسپہر، حرف عطف، بعد، پیچھے -
 سپہر (سپہر) - ایک سرا چارہ -
 سپستان (سپہر) - سان، لھو، ریا -

سپک سمر (سپک) - سز، کینہ، ادھیا -
 سپکسی (سپک) - بزمی، کینگی، ادھیا -
 سپک سنگ (سپک) - کینہ، بے حوصلہ -
 سپکسیر (سپک) - سیر، تیز رفتار -
 سپک عثمان (سپک) - عثمان، تیز رفتار -
 سپک نادر (سپک) - نادر، کینہ، بے حوصلہ -
 سپک گام (سپک) - گام، تیز قدم -
 سپک گامی (سپک) - گامی، تیز قدمی -
 سپک مغز (سپک) - مغز، بے عقل، بے دماغ -
 سپک مغزی (سپک) - مغز، زہی، بے عقل،
 بے دماغی -
 سپک ہمت (سپک) - ہمت، ہمت، کم ہمت -
 سپکی (سپک) - شعلی، ہفت، کئی، ہمایا -
 سپیل (سپک) - سپیل، اناج کی بال، آکھ کا
 جالا (سپیل) - سپیل کی جگہ -
 سپلت (سپک) - تہہ، سکت، اموجہ جم سپال -
 سپو (سپو) - گھڑا، سٹھیا -
 سپوچ (سپوچ) - بے حد پاک، دست (پوش)
 پڑائی کرنے والا -
 سپوچہ (سپوچ) - پتہ، چوٹی، سٹھیا -
 سپوس (سپوس) - بسوس، چوکر -
 سپوسہ (سپوچ) - سہہ، ایفا، گھن، بسوس -
 سپوشم (سپوچ) - پتہ، کال گلوج -
 سپونچ (سپوچ) - پتہ، پونی، باغند -
 سپیر (سپیر) - سکتیہ، دنی، ایشیا -
 سپیچ (سپینچ) - ساواں حصہ -
 سپیل (سپیل) - طریق، راستہ، وقف، پیاد
 جم (سپیل) - بوجھ -
 سپار (سپار) - مچال، سونپنے والا -
 سپارش (سپار) - دیگھو سفارش -
 سپارلہ (سپار) - رن، زقہ، سونپنے والا -

سپش (سپش، جون، ڈیگر۔
 سپیل (سپیل، اونٹ کا ٹھم، نرسن۔
 سپیچ (سپین، اج، عاریت، جہاں خانہ، چراگا، ہینڈ
 سپیجی سراسے (سپین، جج، سزائی، رکھانے
 کی جو بیڑی، دیا۔
 سپینڈا (سپشوں، سپین، واپسین، ڈاں آکا
 واند، رانی، آتشدان۔
 سپوختن، سپوژین (سپوختن، تپ، سپوژینی
 ڈن) چھوٹا، نکال، مقم، سپوژو۔
 سپوختہ (سپوخت، تپ، چھبا ہوا، نکالا ہوا۔
 سپوژندہ (سپوژن، ڈن) نکالو والا، چھونے والا۔
 سپوژیدہ (سپوژینی، ڈن) دیکھو سپوختہ۔
 سپہ (سپہ، دیکھو سپاہ۔
 سپہبد (سپہ، بڑے سردار، سپہسالار۔
 سپہر (سپہ، ر، آسان، بھار دہیر۔
 سپیچ (سپین، تپ، چھوٹن، اجھگ
 سپید (سپید، دیکھو سفید۔
 سپیدار (سپین، ڈاڑ، نام وختن۔
 سپیدخت (سپید، ج، ت، نیک بخت۔
 سپیدکار (سپید، کار، نیک عمل۔
 سپیدہ (سپین، ڈن) نام دوا، آجالان۔
 سپیدہ دم (سپین، ڈن) دم، گردم۔
 سپیدی (سپین، وچی، آجلائی، چٹائی، آجالا۔
 سپیل (سپین، سپی، ہفیر، ملاؤ۔
 ست (ست، استد کا موٹا پھ ۶۱)، گھروالی پرکا
 ستا، ستا، ستار، ستار، شایانہ، قریب کرنے والا۔
 ستاد (ستاد، لوف، اقامت۔
 ستار (ستار، ایک ساز، ست، آت، برا چھپانے
 والا، نام اللہ قاطع۔
 ستارہ (ستار، ڈن) تارہ، شمت، پین، اسطر۔
 ستارہ پیشانی (ستار، ڈن) پیشانی، جس کے

ماتھے پر سفید نشان ہو۔
 ستارہ سحر (ستار، بڑا، سحر، صبح کا ستارہ۔
 ستارہ شناس (ستار، ڈن) شناس، بخوشی۔
 ستارہ شناسی (ستار، ڈن) شناس، بخوشی ہونا۔
 ستارن (ستار، ڈن) ستار کا نوا، اسم کیا ہا۔
 ستاج (ستاج، کونیل، ڈاڑی۔
 ستاج (ستاج، بانجھ، سترون، عظیم، عاتر۔
 ستاک (ستاک، دیکھو ستاج۔
 ستام (ستام، گھوٹے کا زیور، ساز۔
 ستال (ستال، آستان، رچھٹ، اجھگ
 چت لیٹنے والا۔
 ستان (ستال، ڈن) لینا مقم، ستانڈ۔
 ستانڈہ (ستال، ڈن) لینا ہوا۔
 ستانڈہ (ستال، ڈن) لینے والا۔
 ستانڈن (ستال، ڈن) قریب کرنے
 مقم، ستانڈن۔
 ستانڈنی (ستال، ڈن) تعریف کرنے کی لائق۔
 ستانڈیہ (ستال، ڈن) ڈن) تعریف کیا ہوا۔
 ستانڈیش (ستال، ڈن) ستار، پیش، تعریف۔
 ستانڈیہ (ستال، ڈن) ڈن) تعریف کرنے والا۔
 ستبر (ستبر، دیکھو ستبر۔
 ستبری (ستبر، ڈن) دیکھو ستبری۔
 ستجر (ستجر، مالاب، پتھر، پوکھ۔
 ستد (ستد، لین۔
 ستدن (ستدن، لینا مقم، ستدن۔
 ستر (ستر، چھپانا، ستر، نام ورن
 ستر (ستر، پردہ، پوشش، جم، سترون،
 ستا چڑھا، آستار، خون، حیا (ستر،
 ڈھال، چتر۔
 سترت (ستر، رت، کوٹ۔
 سترن (ستر، ڈن) چھپانا، سترن، سترون۔

ستردہ (ستردہ، ڈو، سوئدا ہوا۔)
 ستر عورت دست درخت (کوتہ، رخت) بدن کی شرم کی
 جگر کا چھانا، شرمگاہ کا چھپانا۔
 سترگ (ستر، پنگ، ابرا، کلاں، بزرگ۔)
 سدر (سدر، چکا چونڈ۔)
 سترندہ (ستج، زدن، ڈو، سوئڈے والا۔)
 سترون (ستر، ڈن) بانجھ عورت، عقیم، عاق، ستر
 سترہ (ستر، ڈو، کوٹ، پردہ، ڈھال، ستر، ڈو،
 دیکھو، سترہ۔)
 ستم (ستم، ظلم، نا انصافی۔)
 ستم دیدہ (ستم، ذمی، ڈو، مظلوم۔)
 ستم رسیدہ (ستم، زحمت، ڈو، مظلوم۔)
 ستم زدہ (ستم، ڈو، مظلوم۔)
 ستم ظریف (ستم، ظریفین، مذاق کے پردوں میں
 آستہ ڈھالنے والا۔)
 ستم ظریفین (ستم، ظریفی، ذمی، مذاق خیر کی کرنا۔)
 ستم کش (ستم، آکٹ، مظلوم۔)
 ستم کشیہ (ستم، کٹش، تہ، ظلم سی مارا ہوا۔)
 ستمگار (ستم، کاز، ستم، گر، ظالم۔)
 ستمگرمی (ستم، گرمی، ظلم۔)
 ستمبندہ (ستم، تہ، بھونڈی صورت، انام بھوت
 جو خواب میں ڈراتا ہے۔)
 ستون (ستم، ڈن، دیکھو ستائیدن۔)
 ستودہ (ستم، ذمی، تریف کرنے کے لائق۔)
 ستودہ (ستم، ڈو، تریف کیا ہوا۔)
 ستور (ستم، گھوڑا، چربانہ۔)
 ستورون (ستم، ڈن، دیکھو ستون۔)
 ستوقہ (ستم، ڈو، کھوشیا سکہ۔)
 ستوق (ستم، نگہ، بیلپا، کاظم، دست
 فون، ساٹھ، ۷۶۔)
 ستون چراغ (ستم، زدن، اخبار کا کالم۔)

ستوہ (ستم، لول، عاجز۔)
 ستہ (ستم، ۵، کھوٹا سکہ، دست، تہ، ۶)۔
 ستہ عشر (ستم، اندہ، عشر، سولہ۔)
 ستمی (ستم، فولاد، ستمی، خاتون، بی بی، ۶۔)
 ستمی (ستم، کھال، اسیدھا، المبا، پہاڑ کی چوٹی۔)
 ستمیر (ستم، چھپا ہوا، پر پر کار۔)
 ستمیز (ستم، لطافتی۔)
 ستمیزان (ستم، ڈان، لڑنا ہوا، لڑنے والا۔)
 ستمیزانیدن (ستم، زحمت، لڑنے، ڈن، لڑانا۔)
 ستمیزندہ (ستم، زدن، لڑنے والا۔)
 ستمیزہ (ستم، ڈو، لطافتی، جگر کا۔)
 ستمیز بدن (ستم، زحمت، ڈن، لڑنا، ستمیزہ۔)
 ستمیزدہ (ستم، زحمت، ڈو، لڑا ہوا۔)
 ستمیغ (ستم، لطافتی، ستمیغ۔)
 ستمیم (ستم، اندر دنی مواد۔)
 ستمین (ستم، تہ، ساٹھ، ۷۰)۔
 ستمینش (ستم، پٹش، لطافتی، جگر کا۔)
 ستمیندن (ستم، تہ، ڈن، لڑنا، جگر کا۔)
 ستمیغ (ستم، گول، رخسار، ستمیغ، چوترا، پتھہ
 دتھی، ستمی، گھسٹا۔)
 ستمیغ، دیاپ، ستمیغ، خط کا لفظ۔
 ستمیغ (ستم، جاؤ، بیت زیادہ سجدہ کرنا۔)
 ستمیغ (ستم، جا، ڈو، جاننا، دسی، تاملین
 دتھی، گھٹتہ۔)
 ستمیغ (ستم، سگڑ، سگار۔)
 ستمیغ (ستم، ٹوٹ، ستمیغ۔)
 ستمیغ (ستم، ذن، گھٹنا کرنا۔)
 ستمیغ (ستم، سیم، کیتھ۔)
 ستمیغ (ستم، ڈو، فردوسی، ماتھا، گھٹنا۔)
 ستمیغ (ستم، ستم، نظر تھی، ستمیغ، ستمیغ۔)
 ستمیغ (ستم، پردہ، پردہ، ستمیغ، ستمیغ، کرنا، پتھہ)

سجل (سجّل) ، شجر عدالت کا مکمل ٹیکہ ، عدالتی
 شجر درجوں ، ٹیکہ اور دست اچھا (سجّل) ،
 ڈول جم سجّل ، سجّل - طر
 سبب (سجّل) ، قید خانہ (سجّل) ، کھڑا نا جا
 سجّل (سجّل) ، سجّل ، آئینہ -
 سجود (سجود) ، سجود کرنا -
 سجور (سجور) ، سجور -
 سجیدان (سجی) ، سجی - سجی نا جا طر نا
 سجیل (سجیل) ، کھنگر ، کچا پھیر -
 سجین (سجین) ، دوزخ کی ایک گھائی ،
 سجیل خانہ (سجین) ، قیدی -
 سجیہ (سجی) ، یہ عمارت سج سجایا ، سجیانا -
 سجقان (سجق) ، سجق ، چوہا ، سوش -
 سجکا ، سجکا ، دیکھو سجکا -
 سجاب (سجاب) ، بادل ، ابر جم سجابت ، سجبت -
 سجارہ (سج) ، سجا ، رُہ ، گورکھ دھندا -
 سجان (سجان) ، سہل کی بیماری -
 سجاقہ (سج) ، سجاقہ ، چوٹی باز عورت -
 سجالہ (سج) ، سج ، لوہے کا برادہ ، اچون -
 سجب (سج) ، سج ، کھینٹنا ، کھینٹنا -
 سجت (سج) ، سج ، کھڑچنا ، پھیلنا (سج) ،
 حرام کا مال -
 سج (سج) ، سج ، آنت کی ایک بیماری -
 سجدر (سجدر) ، سج جم آسجادر (سجدر) ، جادو
 سجدر (سجدر) ، سجدر ، سجدر ، سجدر ، جادو ،
 اعلیٰ کلام -
 سجدر گاہ ، سجدر گاہاں ، سجدر گاہ ، سجدر گاہ -
 سجدر (سجدر) ، سجدر -
 سجدر (سجدر) ، سجدر کی سج (سج) ، سج (سج) ، سج (سج) ،
 سجری (سجری) ، سجری ، سجری ، سجری ، سجری ، سجری ،
 سجری (سجری) ، سجری ، سجری ، سجری ، سجری ، سجری ،
 سجریہ (سجریہ) ، سجریہ ، سجریہ ، سجریہ ، سجریہ ،

سجل (سجّل) ، سورتی چنے کپڑے ، چاندی کا کسے
 جم اسجّل ، سجّل ، سجّل ، سجّل ، سجّل ،
 سکوت (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجسمہ (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجسمہ (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سج (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجور (سجور) ، سجور ، سجور ، سجور ، سجور ،
 سجیق (سجیق) ، سجیق ، سجیق ، سجیق ، سجیق ،
 سجیل (سجیل) ، سجیل ، سجیل ، سجیل ، سجیل ،
 سجکا (سجکا) ، سجکا ، سجکا ، سجکا ، سجکا ،
 سجافت (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجادت (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت جان (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت سا (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت کمان (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت کوش (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 کوشش کرنے والا -
 سجنت گہر (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت گہری (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنت مہر (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنتن (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنتہ (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجنتی (سج) ، سج ، سج ، سج ، سج ، سج ،
 سجدر (سجدر) ، سجدر ، سجدر ، سجدر ، سجدر ،
 سجدرت (سجدرت) ، سجدر ، سجدر ، سجدر ، سجدر ،
 سجدرہ (سجدرہ) ، سجدر ، سجدر ، سجدر ، سجدر ،
 سجدری (سجدری) ، سجدر ، سجدر ، سجدر ، سجدر ،
 سجریہ (سجریہ) ، سجریہ ، سجریہ ، سجریہ ، سجریہ ،

سخن (سخن) سخن، ط، غصہ۔

سخن (سخن) ، کم ظرفی ، اوجھاپن ۔

سخن (سخن) ، سیاہی ، کلوٹن ۔

سخن (سخن) ، سخن ، سخن ، کلام ، بات ، گرم ۔

سخن پر دراز سخن ۔ پز ، ڈاز ، شاعر ، ادیب ،

فصد گو ، سخن کو سنانے والا ۔

سخن پر درازی سخن پزے دار یعنی ادب ، شاعری

سخن پر دراز سخن پزے دار شاعر ، ادیب ، بات

کی بیخ کرنے والا ۔

سخن پر درازی سخن پزے دار یعنی بات کی بیخ کرنا ۔

سخن چیس سخن چیس ، چغلوں ، عجیب جو ۔

سخن چینی سخن ۔ چینی ، چیل خوری ۔

سخن دان (سخن) ، دان ، شاعر ، فصیح ،

زبان دان ۔

سخن دانی (سخن) ۔ دان ، (نی) ، شاعری ،

زبان دانی ۔

سخن ساز ، سخن ساز ، بات بنانے والا ۔

سخن سنج (سخن) ، سنج ، شاعر ۔

سخن طرازی (سخن) ، طرازی ، فصاحت ۔

سخن بزم (سخن) ، بزم ، کلام سمجھنے والا ۔

سخن بھشی (سخن) ، بھشی ، کلام سمجھنا ۔

سخن گستر (سخن) ، گستر ، شاعر ، فصیح ۔

سخن گو ، سخن گو ، شاعر ، سخن کہنے والا ۔

سخن نر (سخن) ، نر ، فصیح شاعر ، سخن والا ۔

سخن خوری (سخن) ، خوری ، شاعری ، فصاحت ۔

سخن ط (سخن) ، ط ، مجرور ، گھناؤنا ۔

سخن (سخن) ، دیکھو سخن ۔

سخن نت (سخن) ، نت ، گرمی ۔

سخن (سخن) ، نیا ہی جم آٹھواں ۔

سخن (سخن) ، ادب ، ہلکا ، تنگ ، کم ظرفی ۔

سخن (سخن) ، گرم پانی ۔

سد (سد) ، ادب ، روک ، چ اسد (سد)

دیکھو سد ۔

سداب (سداب) ، ایک گھاس ۔

سدابی (سدابی) ، ہری رنگت ۔

سداد (سداد) ، طرازی ، سداز ، ناک کی ایک

بجاری ، سداز ، کردار اور گھناؤں راستی

سدیاب (سدیاب) ، باپ ، دروازہ کی روک ، در ، کنا

سد (سد) ، درستی ، راستی ۔

سدر (سدر) ، سیری (سدر) ، حیرت کی دیکھیں

پھٹا جو (سدر) ، چکا چوندھ ، المہرا ۔

سدر نق (سدر) ، رقیق ، آخری سانچ ۔

سدرہ (سدرہ) ، سیری ، سدرہ ، رستہ کی روک ۔

سدرۃ المکتبی (سدرۃ) ، مکتب ، سنہ ، تہا ، آسمانی

سیری جو اتھار سے کسی چیز کی آخری حد ۔

سیدس (سیدس) ، سیدس ، چھٹا حصہ ۔

سیدی (سیدی) ، ترکش ۔

سدل (سدل) ، پردہ ، ڈانٹا ، بال بھینا

سدری (سدری) ، لڑھی

سدم (سدم) ، پشیمانی ۔

سدنہ (سدنہ) ، ساون کی بیج ۔

سدوم (سدوم) ، نام شہر حضرت لوط علیہ السلام

سدومی (سدومی) ، بیج ، سدوم والا ، لوطی ، بیغل ۔

سدو (سدو) ، بند ، گانٹھ ، چوکت ، جم

سدو ۔

سدھی (سدھی) ، انانا ، فرت ، قتلت ۔

سدیڈ (سدیڈ) ، مضبوط ، ٹھیک ۔

سدیس (سدیس) ، چھٹا حصہ ۔

سدر (سدر) ، نگر ، خیال ، خواہش ، سردار ، ہم کا

ادب کا حصہ ، اوپر ، ستر ، بھیدم ، اجیرا

سدر (سدر) ، خوشی ، نات ، تندی ۔

سرا (سرا) ، مکان ، ایک درخت ، گانے والا ۔

سرخبال (سرخ-بال) پستاندار، پیراہن۔
 سرخال (سرخ-خال) بلندہ سر۔
 سرخکش (سرخ-کش) پخت، خش، حصہ، بڑا حصہ۔
 سرخسیر (سرخ-سیر) سر بلند، کامیابا۔
 سربراہ (سرخ-براہ) مختل، ہنتم۔
 سربراہ کار (سرخ-براہ کار) کام کا ہنتم۔
 سربراہی (سرخ-براہی) اجتام، اختتام۔
 سربرگر (سرخ-برگر) بڑا بڑا، غیر سطح، سرکش۔
 سربرکت (سرخ-برکت) نیک، نیکو۔
 سربرکتہ (سرخ-برکتہ) نیک، پوشیدہ، سر بندھا ہوا۔
 سربرسر (سرخ-برسر) تمام، باطل۔
 سربرسر (سرخ-برسر) سر پر ہر لگا ہوا،
 مکتفہ بند۔
 سر بلند (سرخ-بلند) داناور، کامران۔
 سر بلند کی (سرخ-بلند کی) دینی، ناموری، کامرانی۔
 سر بلند (سرخ-بلند) جس کا سر بند ہوا، اختیارا
 آگاہی۔
 سرپرست (سرخ-پرست) خدمت گزار
 خبر گیری، مرفی۔
 سرپرستی (سرخ-پرستی) قنی، خبر گیری، مرفی ہونا۔
 سرپرستی (سرخ-پرستی) بکلی، آذر، سختت، علم۔
 سرپرستی (سرخ-پرستی) بچہ، بچہ، کٹل،
 طاقتور۔
 سرپردہ (سرخ-پردہ) وہ اسپتھی کا ایک طریقہ۔
 سرپرست (سرخ-پرست) بھک، چھنی۔
 سرپرست (سرخ-پرست) وہ، کنواری لڑکی۔
 سرپرستی (سرخ-پرستی) بھوک، پاؤں کا سر۔
 سرپرستی (سرخ-پرستی) سرپرستی، سرپرستی،
 گلوئی میں باہر سے کا ایک لڑکھو۔
 سرستانی (سرخ-ستانی) عدول، حکمی، سرپرستانہ۔
 سرمنج (سرخ-منج) سردار۔

سرناسر (سرخ-ناسر) تمام، کمال۔
 سرناقت (سرخ-ناقت) بانی، مجرم۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) ناقہ فرمانی کرنا۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) فریبی، دعا باز۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) ہکا، ہکا، ہننا۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) سرکش، جنگجو، لاکدار۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) زہ، سنگین۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) بزمین۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) فریبی، انصر۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) صاف، خلاصہ۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) سرغ، سرغ، سرغہ، سرگرد۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) نام بیماری جس سے بدن
 سفید پڑ جاتا ہے۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) پان، ایسیبل،
 ٹوند، ایسی۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) سوت، سوت۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) دینی، لہذا، تلب۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) دھول، دھیا، تھپڑ۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) خلاصہ، چنبندہ۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) آسانی، چنے والا چوپایہ۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) موم، پرمکھ، سخن۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) درندہ، بھیڑیا
 چم سرناقتن۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) آخری حد۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) آگاہ، خبردار۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) سد دار۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) حمام کا گرم کمرہ۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) کھیل، شغال۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) لان۔
 سرناقتن (سرخ-ناقتن) ایک آبی پزندہ
 گلوند۔

سرخ بید دھترہ بخ بہ بید ، بید کی ایک قسم ۔
 سرخ پوسن ، سرخ پنجوش ، لال لباس والا ۔
 سرخ چھہ (جڑ) ، خسرو جو ایک بیماری ہے ۔
 سرخ خرد ، سرخ رڈ ، کامیاب ، خوش ۔
 سرخ خردنی ، سرخ رنج - روج - لونی ، کامیابی ، خوشی ۔
 سرخ حفا ، سرخ خط ، گر ایہ نامہ ، یادداشت ،
 مزدوری ، تنخواہ کے حساب کا کاغذ ۔
 سرخ مرد ، سرخ مرز ، سرخ رنج - مرز ،
 سرخ رنج ، ہرز ، لال چولائی ۔
 سرخوش ، سرخ پش ، جس کو نشہ کا سرور ہو ۔
 سرخوشی ، سرخ حشی ، نشہ کا سرور ۔
 سرخود ، سرخ - خرد ، خود سے ۔
 سرخوبہ ، سرخ حہ ، گو یا بخشی ، خود کھڑے کھڑے نکلتی ہے
 سرخی دھترہ ، جئی ، لالی ۔
 سرخیسل (سرخ حجل ، سردار ، امیر ۔
 سرد (سرود ، حشر ، آزرہ ۔
 سرداب ، سردار ، سردار (رٹ ، سرد - ڈا -
 بیہ ، تہ خانہ ۔
 سردار ، سرود ، ڈان ، امیر ۔
 سرداری دھترہ - ڈا - رینی ، امارت ، فراک کوٹا
 سردار دھترہ - ڈو ، سردل ، دروازہ کا پتلا ۔
 سردار حشی ، سرخ - ڈراغ - و - رینی ، بھڑکی بیلاؤں
 سردار کی دھترہ - ڈو - رینی ، محنت ، تکلیف ۔
 سردنت ، سرد - ڈس - ات ، اتی حال ، ابھی
 حقیقہ
 سردنتی دھترہ - ڈس - رینی ، حاضر جو کچھ
 حاضر ہو ۔
 سرد سپر ، سرود ، سرخ ، ٹھڈی اٹی ہوا کی جگہ ۔
 سرد رقت ، سرود - روت - بیڑ ، ہیرڈ کلرک ۔
 سرد ہر (سرود - ریت - رے ، بیہ حمت ۔
 سرد ہری ، سرود - ریت - رینی ، بے محبتی ۔

سردی (سرودنی) ، ٹھڈیک ۔
 سردین دھترہ - رین ، سارڈین بھیل ۔
 سردو (سرود) ، جی ، کادائی دھترہ ، سرد
 کی صغ ، سرود ، سرد ر کی صغ ۔
 سرد ران دھترہ - رانہ ، ارامت کے ہرے پر ۔
 سرد رشتہ ، سرود - رشن - رتہ ، حکمہ ، تالیفیتا ،
 خواہش ، اختیار ۔
 سردو (سرود) ، رانہ ، واقع ۔
 سردوہ (سرود) ، رانہ ، بے ظہر ، اچانک ۔
 سرد زمین دھترہ - رین ، زمین ، ملک ۔
 سرد زان دھترہ - زان ، سرکش ، انفرمان
 سرد زانش دھترہ - زانش ، علامت ، چھڑکی ۔
 سرد زنی دھترہ - زانی ، سرداران ۔
 سرد زور دھترہ - زور ، باغی ، نافرمان ۔
 سرد زوری دھترہ - زوری ، بغاوت ، نافرمانی ۔
 سرد سار ، سرود - سارم ، نام دوائی بیماری ۔
 سرد سال دھترہ - سال ، شروع سال ۔
 سرد سبز دھترہ - سب ، از ، ہر بھر ، آباد ،
 کامیاب ۔
 سرد سبزی دھترہ - سبزی ، ہر بھرین ۔
 سرد سجدہ ، سرود - سجد ، ڈو ، سناڑکی ٹھہر بھر
 شیعہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں ۔
 سرد سستی دھترہ - سستی ، ہند ، بہت ۔
 سرد سخن دھترہ - سخن ، عنوان ، سرخی ۔
 سرد سری دھترہ - سری ، بے توہی کا کام بھڑوہ
 سرد سکاہ دھترہ - سکاہ ، منجھال ، سنگٹ کا پاپ ۔
 سرد سور دھترہ - سور ، دانے بزرگ ۔
 سرد شار دھترہ - شار ، لباس ، لہریز ۔
 سرد شاری دھترہ - شاد ، رینی ، لہریز ۔
 سرد شام (سرک شام ، شام کا ٹھٹھا ۔
 سرد شتا دھترہ - رشت ، سمبھاد ، خلقت ، ضمیر ۔

سروا دستور - نام موسم جاننا۔
 سروانی دستور - اسی، منسوب طرف سروا۔
 سروا سے تلخ دستور - نام۔ اسے تلخ (خ) کھانا کہا جاتا ہے۔
 سروا یہ (سور - نام) پوچی اسیوں۔
 سروا یہ وار دستور - نام - پوچی والا۔
 سروا یہ وارانہ دستور - نام - یہ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ -
 جو سروا یہ وار سے نسبت رکھے۔
 سروا یہ دارمی دستور - نام - یہ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ -
 مالدار می، دو ہند می، پوچی والا ہونا۔
 سروا کے گل دستور - نام - راستہ - گل - گلانی جا رہا۔
 سروا دستور - ہمیشہ - دارم۔
 سروا می دستور - پوچی - اسیوں - اسیوں - اسیوں -
 سروا سے دستور - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ -
 سروا سے دستور - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ -
 سروا سے دستور - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ -
 سروا سے دستور - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ -
 سروا سے دستور - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ -
 سروا سے دستور - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ -
 سروا سے دستور - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ -
 سروا سے دستور - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ -
 سروا سے دستور - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ -
 سروا سے دستور - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ -

بہت، عنوان۔
 سروا می دستور - نامی، دیکھو سروا۔
 سروا سے دستور - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ -
 سروا سے دستور - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ -
 سروا سے دستور - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ -
 سروا سے دستور - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ -
 سروا سے دستور - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ -
 سروا سے دستور - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ -
 سروا سے دستور - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ -
 سروا سے دستور - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ -
 سروا سے دستور - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ -
 سروا سے دستور - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ -
 سروا سے دستور - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ -
 سروا سے دستور - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ -
 سروا سے دستور - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ -
 سروا سے دستور - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ -
 سروا سے دستور - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ -
 سروا سے دستور - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ -
 سروا سے دستور - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ -
 سروا سے دستور - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ -
 سروا سے دستور - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ -
 سروا سے دستور - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ -

سجا و شمند (سجا - دوت - مرن - د) ، مبارک -
 سجا و شندی (سجا - دوت - مرن - دوتی) ، مبارکی -
 سجال (سجان) ، کھانسی -
 سجالہ (سجا - دوت - مرن) ، خول بیابانی ، سجاہلی -
 سعایت (سجا - دوت) ، چٹوڑی ، برگوئی -
 سعوت (سجت) ، تراخی ، گنپاش -
 سعتر (سج - دوت) ، ایک گھاس مانند زلف -
 سعتر باز (سج - دوت) ، باز ، چپٹی باز -
 سعتری (سج - دوت) ، تری (سج) ، بدکار -
 سعدر (سج - دوت) ، نیک ، چھوڑو (سج - دوت) ،
 ناگرموختا -
 سعدان (سج - دوت) ، وان ، بندر -
 سعلیک (سج - دوت) ، نیک ، میں آپ کی مدد کیلئے
 بار بار حاضر ہوں -
 سعلیل (سج - دوت) ، زین ، زہرہ ، دستری ، بوونیک -
 سعلیہ (سج - دوت) ، وی (سج) ، سجدی کا جزار -
 سعری (سج - دوت) ، بھادہ ، نزع ، چھوڑا -
 سعفہ (سج - دوت) ، سچ کی بیماری -
 سعلات (سج - دوت) ، چڑیل ، مادہ خول -
 سعور (سج - دوت) ، نیک ہونا -
 سعہ (سج - دوت) ، چڑائی ، پستانی ، ندرج -
 سعی (سج - دوت) ، کوشش -
 سعید (سج - دوت) ، نیک نعت ، مبارک -
 سعیر (سج - دوت) ، روزی کا چوٹھا طبقہ ، جیتی
 ہنک ، لپیٹ -
 سعیب (سج - دوت) ، سب ، بھوک -
 سعیان (سج - دوت) ، بیان ، بھوکا -
 سعیبہ (سج - دوت) ، بے فریفتہ ، بچی چیز -
 سعز (سج - دوت) ، نشیبی زمین -
 سعزی (سج - دوت) ، قدیم فارسی زبان
 کی ایک شاخ جو آب متروک ہے -

سفر (سج - دوت) ، سہیہ ، خاریفت -
 سفراق (سج - دوت) ، تراقی ، بڑا سیالہ (سج - دوت) ،
 شراب کا سیالہ ، شراب -
 سفری (سج - دوت) ، رچی ، ہیمائی ، سخت روئی ،
 کیمت یعنی دو چٹا چوڑو تھوڑی کھال پر بنا ہوا پتلا
 سفاج (سج - دوت) ، زنا کاری (سج - دوت) ، فاج ،
 خونریز ، سردار ، فصیح -
 سفاد (سج - دوت) ، جوہات کی جفتی -
 سفارت (سج - دوت) ، رسالت ، ایلی گری -
 سفار کٹانہ (سج - دوت) ، خا - دتہ ، کوشلانیہ -
 سفارش (سج - دوت) ، ترقی ، تفریق ، کلمہ ، خیر ، سہریگی -
 سفاف (سج - دوت) ، خاک ، خوئی ، خونریز ، قائل -
 سفالی (سج - دوت) ، قاریگی ، خونریزی -
 سفال (سج - دوت) ، ٹھیکری ، مٹی کا برتن ، سفالی ،
 بیج بن (سج - دوت) ، ایک بیج -
 سفالی کھر (سج - دوت) ، گڑ ، کھار -
 سفالی (سج - دوت) ، بی ، سفال والہ -
 سفالین (سج - دوت) ، بین ، سفال کی مانند
 سفالینہ (سج - دوت) ، بی - دتہ ، منوب بہ سفال ،
 مٹی کا مٹی کی -
 سفان (سج - دوت) ، نان ، ناخدا ، لاج -
 سفانت (سج - دوت) ، جہاز سازی -
 سفاہت (سج - دوت) ، کیمبہ بن -
 سفالین (سج - دوت) ، ان ، سفینہ کی جتیب -
 سفنت (سج - دوت) ، پھیر ، سفنت ، بلا
 انوشی (سج - دوت) ، موٹھا -
 سفنتھ (سج - دوت) ، جتیبہ ، ہندی -
 سفنتون (سج - دوت) ، میندھنا ، پرناسم سفنتھ -
 سفنتہ (سج - دوت) ، دتہ ، میندھنا ، ہوا ، سفنت - دتہ
 ہندی ، ہندی ، تحفہ ، ہدیہ (سج - دوت) ،
 ہونی اور درختوں پر -

سکینز لہ (سکینہ - زین - ڈوہ) - آٹھ پھلے کو ولے والا
 سکینہ (سکینہ - ڈوہ) - گود پھاند، لات کود -
 سکینہ بڑا (سکینہ - زین - ڈوہ) - آٹھ پھلے، گودنا
 ستم سکینہ -
 سکینہ بڑا (سکینہ - زین - ڈوہ) - گود پھاند، لات کود -
 سکین (سکین - کیون) - جافو، چھری، تم سکینا، کیون
 سکینہ، سکینت (سکینہ - زین - ڈوہ) - سکینہ -
 آرام، آستنگی -
 سگ (سگ - سگ) -
 سگ چہ (سگ - چہ) - کا بوس -
 سگال (سگال - اندیشہ کرنے والا، خیال،
 اندیشہ -
 سگال (سگال - بڑھ) - فکر، اندیشہ، مشورہ -
 سگال لہ (سگال - بڑھ) - ڈوہ، اندیشہ کرنا والا -
 سگالیدن (سگال - بڑھ) - بڑھ کرنا، قصد کرنا،
 اندیشہ کرنا، ستم سکال لہ -
 سگالیدہ (سگال - بڑھ) - ڈوہ، اندیشہ کیا ہوا -
 سگالین (سگال - بڑھ) - بڑھ کرنا، ستم سکال لہ -
 سگ بچہ (سگ - بچہ) - بچہ، بچہ، بچہ، بچہ -
 سگ جان (سگ - جان) - سخت جان، لاپچی، لوجھی
 سکڑی (سکڑ - زین) - دیکھ سکڑی -
 سکسار (سگ - سار) - سار، کتھ کی مانند، کتھوس -
 سگ غرچہ (سگ - غرچہ) - بچہ، لہندی کتا -
 سگھی (سگ - گھی) - گھنٹے، گھی، گھی، نام واؤں -
 سگلاب (سگ - لاپ) - لاپی کا کتا، بیدستز -
 سگ (سگ) - بھیس پڑے کی ایک بیماری، لطفہ،
 برہما (سگ) - بڑا، رنگ کا، ٹٹا، تلوار، توتا -
 سلا (سگ) - لانا، نامی سرب، ملا جواب گانے والا -
 سلاب (سلاب) - ماتھی، کپڑا، جام، سلاب -
 سلابیت (سلا - بیت) - ایک درانی جو پھرتے
 حاصل ہوتی ہے -

سلاح (سلاح) - ہتھیار، جام، ہتھیار، سلاح (سلاح)
 گود، پافانہ -
 سلاح حدست (سلاح - ڈوس) - ہتھیار بند -
 سلاح حدستی (سلاح - ڈوس) - ہتھیار بند -
 سلاح شور (سلاح - شور) - ہتھیار بند،
 بیدل سپاہی -
 سلاح حنف (سلا - حنف) - سکھات کی جمع -
 سلاحی (سلاح - جی) - سپاہی، ہتھیار بند -
 سلاح رسل (سلا - رسل) - کھال، آٹا، رنے والا -
 سلاحی رسل (سلا - رسل) - کھال، آٹا، رنا -
 سلاسی (سلاسی) - بہوشی -
 سلاست (سلا - ست) - درانی زبان، نام
 آسان، ہوار -
 سلاسل (سلا - سل) - سلسلہ کی جمع -
 سلاطین (سلا - طین) - سلطان کی جمع -
 سلاف (سلاف) - شراب، انگور کا دھ -
 سلاق (سلاق) - کھجور، کھجور کی بیماری -
 سلاک (سلاک) - جاندی سونے کا نام، کھڑا -
 سلالہ (سلا - لہ) - لطفہ، بچہ، خلاصہ، بچہ، بچہ
 سلا لہ -
 سلام (سلا - م) - نام اللہ تعالیٰ، گود نش
 دعا، بے عیبی، حفاظت، چین -
 سلامانہ (سلا - مانہ) - سلام سے منسوب -
 سلامت (سلا - مت) - حفاظت، سلامتی -
 سلامت رومی (سلا - مت) - رومی
 کفایت شجاری، سلامتی کی چال -
 سلامتی (سلا - متی) - حفاظت -
 سلامتی (سلا - متی) - دھوان، سلام کی حالت
 سلام کرنے والا، منسوب، سلام -
 سلامتی (سلا - متی) - سلیقہ کی جمع -
 سلب (سلب) - ب، ایک بیجان، نیست کرنا

تالیبت اسودہ بیکہ ، زہن جم اسودہ -
 سواد اعظم سوزا - زنج ، نظم ، طبری ، نسبی -
 سوار سوزا ، گنگن جم اسوزا ، آساورہ
 سوارق ، راکب ، سواری پر چڑھا ہوا -
 سوارق سوزا - برق ، سارقی کی جمع -
 سواری سوزا ، رتی ، چہرہ چڑھ کر کہیں جاوے
 سواط سوزا ، کوطے باز ، جاگک دالا -
 سواطع سوزا ، طبع ، ساطع کی جمع -
 سواتی سوزا ، تھی اساقیہ کی جمع -
 سواف سوزا ، موت ، جا با یوں کی ایک
 سخت بیماری ہے جس میں برگ نام پھیل جاتی ہے -
 سواق سوزا ، کوفین (سوزا دانق)
 ساقی کی جمع -
 سواک سوزا ، نرم رفتار (سواک سواک -
 سواکن سوزا ، کنز ، ساکن کی جمع -
 سوال سوزا ، پوچھ جو اسوزا ، سوالت پوچھا
 سوالف سوزا ، لفظ ، سالف سلف -
 سوالی سوزا ، ای ، سوال کرنے والا -
 سواخ سوزا ، رخ ، ساسخ کی جمع -
 سواخم سوزا ، زخم ، ساسخ کی جمع -
 سواکے سوزا ، سوا ، علاوہ -
 سوچ سوزا ، دیکھ سوز -
 سوچی سوزا ، چی ، پناہ بہر ، ساقی ، کلال -
 سوخ سوزا ، پیاز سوزا ، گھٹنا -
 سوخت سوزا ، جلائی ، جلین ، جلاوٹ -
 سوخکی سوزا - بگڑ ، جلین -
 سوختن سوزا ، پت ، جلا ، جلا ، صم سوزا -
 سوختنی سوزا ، پتی ، جلنے یا جلانے کے لائق -
 سوختہ سوزا ، پت ، جلا ہوا ، جلا یا ہوا -
 سود سوزا - فانکہ لفظ ، بیاج ، گھاسانی
 رگڑائی ، ملک سوئڈن (شمال یورپ) ۲۱ - سود کی جمع

سنگی سنگی کن ، پھر لہا ، پھر کا ، پھر کی -
 سنگ بین سنگی کن - بگین ، عقین ، اعلیٰ -
 سنگین سنگی کن ، بھاری ، سخت ، ایک ہتھیار -
 سنگین دست سنگی کن - دست ، کام چور -
 سنگین دل سنگی کن - دل ، ظلم ، بیرحم -
 سنگین دلی سنگی کن - دل ، ظلم ، بیرحمی -
 سنگینی سنگی کن - بٹی ، سختی -
 سنگینیت سنگی کن - بٹی ، سختی پن ،
 بھاری پن -
 سنہار سوزا ، چاند ، ماہ ، مانج -
 سنن سنن سنت کی جمع -
 سنور سوزا ، شور ، بلی -
 سنوٹ سوزا ، کھوسا ، بے ڈاڑھی موٹھوں والا -
 سنون سوزا ، دانٹوں کی درہ -
 سنوھی سوزا ، سالانہ -
 سنہ سنہ سنہ ، سنیت ، سال جم سنہ سنہ سوزا
 سنہ ، آدھ (سن ۵) ، دانہ ، دراند
 سنہ ، سنہ ، دیکھو سنہ (سنہ) ، ہوا بیٹ
 کی چوٹی سنہ ، سنہ ، آھن کا جو -
 سنہار سنہ ، ہار ، ہوا کتہ ، بیلین -
 سننی سننی ، اہل سنت (اجماعت مسلمان
 سننی) ، دیکھو سنہ (سننی) ، گرہ کھونا -
 سنہینہ سننی - سنہ ، بھولی ، ہمن -
 سنہینہ سننی ، پید ، آد چھا ، روشن -
 سوزا سوزا ، ۱ - طرف ، جانب ۲ - پانی ، شراب
 (سوزا) ، برائی ، خراب -
 سوا سوزا ، علاوہ ، غیر ، زیادہ ، بہتر سوزا ،
 برابر ، برابر -
 سوابق سوزا ، سابق کی جمع -
 سواصل سوزا ، جل ، ساحل کی جمع -
 سواد سوزا ، نواحی ، حوالی شہر ، سیما ہی ، پڑھائی ،

سودا (سودا) ایک غلط، دیوانگی، محبت و خواہش
 کالی عورت (سودا)، طرید و فرودخت -
 سوداگر (سودا) - گلو، تاجر، بیوپاری -
 سوداگری (سودا) - گرتی، تجارت، بیوپار -
 سودان (سودان) - گائے آدمی، نام
 ملک (افریقہ)
 سودا و می (سودا) - و می، سودا کی غلط سے
 نسبت رکھنے والی چیز -
 سودائی (سودا) - حاکمی، سودا کی غلط سے
 نسبت رکھنے والا آدمی، دیوانہ، پاگل -
 سودوت (سودا) - دین، ہرزاری، مہتری -
 سودون (سودا) - دن، گھنٹا، پینا، رگڑا
 ستم سنا کر -
 سووہ (سودا) - گھسا ہوا -
 سودی (سودا) - و می، بیاجی -
 سور (سودا) - دعوت، جشن، لال، بھوسلا،
 شہر بنانا، جھون، تلک کی دیوار -
 سوراج (سودا) - راج، جمید -
 سورت (سودا) - کرت، قرآن پاک کا ایک حصہ
 راہ، مشرف، بزرگی، شہور، شور -
 سورنجان (سودا) - جان، نام، دوائی -
 سورہ (سودا) - زہ، کسی چیز کی تیزی، بادشاہ
 کی ہیبت (سودا) - دیکھ سورت -
 سورسی (سودا) - رہتی، ہر لال، بھول -
 سوریا (سودا) - ریکا، ملک شام، سیریا، ایشیا و ایک
 سوز (سوز) - جلنے والا، جلن -
 سوزا (سوز) - ڈاک، سردوں کی ایک
 ناپاک بیماری -
 سوزان (سوزا) - جلنا، جلنا ہوا -
 سوزانیدن (سوزا) - بنی، دن، جلنا -
 سوزش (سوزش) - جلن

سوزن (سوزن) - آسوی -
 سوزنمہ (سوزن) - ذہ، جلائے والا -
 سوزن کاری (سوزن) - کا - رہی،
 سوزنی کا کام -
 سوزنی (سوزنی) - کپڑا، آسوی کا کام کیا ہوا -
 سوزیدن (سوزنی) - دن، جلنا -
 سوس (سوس) - اہل، طبیعت، کپڑا، گلن،
 لہنی، کپڑا، سوس، کپڑن لگنا -
 سوس الفم (سوزنی) - قم، ح، شہری -
 سوسرہ (سوزنی) - میرہ، ملک سوزن میں رہتی ہو
 سوسمار (سوس) - تاز، گواہ، جانور -
 سوسن (سوزنی) - سوزن، ایک نیلا پھول جسکی
 پتھیری مثل زبان ہوتی ہے -
 سوسن نمط (سوزنی) - نمط، سوسن کی طرح -
 سوسنی (سوزنی) - نیلا، سوسن سے منسوب -
 سوسہ (سوزنی) - گلن -
 سوط (سوط) - جاگنا، گوراج، اسوط، اسیٹا
 سوغات (سوزنی) - نمٹ، ۴ -
 سوف (سوزنی) - حکمت -
 سوفار (سوزنی) - فار، سوزنا - زہ، تیرکا
 ذہین، سوزنی کا ناکہ
 سوفتہ (سوزنی) - گلن -
 سوسطاط (سوزنی) - کلام، فلسفہ، دہیات -
 سوسطائی (سوزنی) - کلام، ریحی، دہیات کا
 مستند حکیم -
 سوق (سوزنی) - بازار، اسواق، ساق کی جی
 اسوق (سوزنی) - روانی -
 سوقی (سوزنی) - بازار، دوکاندار -
 سوزیا (سوزنی) - ک، بازار کے لائق -
 سوگ (سوزنی) - ماتم، مصیبت، غم -
 سوگنامہ (سوگ) - ماتم، ماتم اور غم کا خط -

سوگند (سُوگند) کن، کھن، غم۔
 سوگوار (سُوگوار) جنگ، جاکم، سوگدار
 سوگواری (سُوگواری) سوگ۔ کوا۔ بری، ماتم۔
 سوگیا نہ (سُوگیا نہ) سوگ، ماتم، پڑھے۔
 سول (سُو) آؤں، بہت زیادہ سوال کرنے والا۔
 سوم (سُو) تم، بس تم، تیسرا (سُوتم)،
 گراں فرشتی، بھگوان۔
 سولہ (سُو) ملے، پیالی۔
 سومی، سومین (سُو) آؤں، آؤں، آؤں
 سوسو بہ سوم، تیسرے سے بہت رکھنے والا۔
 سوش (سُو) رش، دعوات کا برادہ۔
 سوہان، سوہن (سُو) کان، سُوہن
 ری، چھٹی۔
 سوہان گیر (سُو) کان، گیر، نرم، ملائم۔
 سوہا، سوہا، خرابی، بگاڑ، بدی (سُو) کن
 بد، عملیں کرنا۔
 سووت (سُو) آؤ، برائی، شرنگاہ۔
 سوو المراج (سُو) آل، مزاج، مرض، بیماری۔
 سوو طریق (سُو) آؤ، طریق، برائی، بری، راجھا
 سوو رنگ (سُو) آؤ، رنگ، گمان بد۔
 سوو طئی (سُو) آؤ، گئی، بدگمانی۔
 سووی (سُو) آؤ، طرف، پانی (سُو) ٹھیک،
 درست (سُو) آؤ، دیکھو سو۔
 سوویت (سُو) آؤ، بہت، برابری، اعتدال۔
 سوو پرا (سُو) آؤ، کالافطر، دوسرا ہوتا ہے
 سوو قی (سُو) آؤ، سو۔
 سہ (سُو) آؤ، تین
 سہا (سُو) آؤ، ایک نہایت نچھانا مارا۔
 سہا (سُو) آؤ، بے خوابی، تین چاٹ ہونا۔
 سہا (سُو) آؤ، تین تیز طبع والا۔
 سہا (سُو) آؤ، سہم کی جمع (سُو) آؤ، تین

گرمی (سُو) آؤ، تاریکی، چہرہ کا تغیر اور اپن
 (سُو) آؤ، تیر انداز
 سہپ (سُو) آؤ، جنگل، سہا، ہموار زمین۔
 سہ لیدر (سُو) آؤ، دم، بانی، چوڑائی، گہرائی۔
 سہ پیر (سُو) آؤ، تیسرا پیر، بعد دو پیر۔
 سہ چنر (سُو) آؤ، چوڑا، دو، تین گنا۔
 سہ پندر (سُو) آؤ، سوئے والا (سُو) آؤ، جاگنا۔
 سہ پندر (سُو) آؤ، زمین، دروازے والا۔
 سہ پندر (سُو) آؤ، بیداری، (سُو) آؤ، جانکوی بیماری
 سہ پندر (سُو) آؤ، دلہا کے چہرے پر ڈالنے کا پار۔
 سہ روح (سُو) آؤ، روح، روح حیوانی نباتی
 د جاوی۔
 سہ شفیہ (سُو) آؤ، شکر، بیک، منگل۔
 سہف (سُو) آؤ، ایڑیاں، گڑنا، سہف (سُو) آؤ
 سخت، ساس۔
 سہ فصلہ (سُو) آؤ، تین فصلوں والا۔
 سہ قبیلہ (سُو) آؤ، قبیلہ، خانہ کعبہ، بیت المقدس
 د بیت المعور۔
 سہ گال (سُو) آؤ، گال، سہ۔ گال، سہ۔
 سہرا، تیسرا، تین سے نسبت رکھنے والا۔
 سہل (سُو) آؤ، آسان، ہموار زمین۔
 سہل (سُو) آؤ، انکار، آسان، آسانی، آسانی۔
 سہل (سُو) آؤ، آسان، آسانی، آسانی، آسانی۔
 آسان پسندی۔
 سہل پسند (سُو) آؤ، پسند، جس کو آسانی
 اچھی لگے۔
 سہل پسندی (سُو) آؤ، پسند، وحی، آسانی
 اچھی لگنا۔
 سہلہ (سُو) آؤ، دریا، کاریت۔
 سہم (سُو) آؤ، حصہ، بجز، تیسرا، سہا، سہا، سہا
 طرز، وہم، خوف۔

سیاہ دست (سیاہ - دُست) ، گھوس ، بخیل
 سیاہ دستی (سیاہ - دُست) ، بخیل ، گھوس
 سیاہ روز (سیاہ - روز) ، خراب دن ، بخوس دن
 سیاہ روزی (سیاہ - روز) ، بخیل ، بدبختی
 سیاہ زبان (سیاہ - زبان) ، بخیل ، بدعاطف لوگ
 سیاہ سال (سیاہ - سال) ، غلط کام برس -
 سیاہ سوختہ (سیاہ - سوخت) ، تھ ، ہاکھل ، بلا حوا -
 سیاہ فام (سیاہ - فام) ، کالی رنگت -
 سیاہ لکھ (سیاہ - لکھ) ، بالکل کالی تصویر -
 سیاہ کار (سیاہ - کار) ، بدکار ، گھنگھار -
 سیاہ کاری (سیاہ - کاری) ، بدکاری -
 سیاہ کاسہ (سیاہ - کاسہ) ، بخیل ، گھوس
 سیاہ کام (سیاہ - کام) ، بد بخت ، نامراد -
 سیاہ گلیھ (سیاہ - گلیھ) ، بد قسمت ، کھگال -
 سیاہ گوش (سیاہ - گوش) ، نام حلو -
 سیاہ مست (سیاہ - مست) ، نشہ میں چور -
 سیاہ مستی (سیاہ - مستی) ، نشہ میں چور ہونا -
 سیاہ نامہ (سیاہ - نامہ) ، گھنگھار ، فاست -
 سیاہ رس (سیاہ - رس) ، مسکری آمد و خرچ کا روز نامہ -
 سیاہی (سیاہ - ہی) ، گلوس ، کالی روشنائی -
 سیب (سیب) ، دیکھو سیو (سیب) ، داد دہش
 سلیمہ (سی - یہ) ، مورچہ -
 سیب ارہ (سی - یا) ، زہ ، نسوان حقد -
 سیبازہ (سی - جا) ، زہ ، سگریٹ ، سگار -
 سیبچرن (سی - چن) ، دُن ، اہیا کرنا ،
 کالو تریمب دینا -
 سیحون (سی - حون) ، نام دریا (وسطی ایشیا) ،
 سیخ (سیخ) ، سلاخ ، بلی -
 سیخ پا (سیخ - پا) ، بچھلی ٹانگوں پر کھڑا
 ہونے والا -
 سیخ پرہ (سیخ - پرہ) ، پرہ کا ننھا بچہ

جس کے ہر لک کی تازہ لکھیاں نکلی ہوں -
 سیخ جاروب (سیخ - رخ) ، جا - رُو ب ، جھار
 کی تیل -
 سیخچہ (سیخ - چہ) ، چوٹی سلاخ -
 سید (سی) ، پڑا ، سید ، سردار ، پیشوا ، سید ، پھیرا
 سیدی (سی) ، سوچی ، سلطان کا باسفندہ
 (سی) ، پیرتی ، ہیرے سردار -
 سیر (سی) ، شہ ، ارتقا ، گشت ، اسیز ، سودہ
 سیرار ، رنجیدہ (سیر) ، طسن (سیر) ، ایت
 کی حج ، علم سوانح علمی -
 سیراب (سی) ، ناب ، اسیز ، حج ، جس کی میں
 بچھی ہوئی ہو -
 سیرابی (سیر - آبی) ، سی - ترا - (سی) ،
 پیاس بھینا -
 سیران (سی) ، زان ، سیران ، سیر کرنا -
 سیرا شنگ (سیر - شنگ) ، لہذا آواز -
 سیرت (سی) ، زت ، عادت ، منتقلی ، ہم سیرت
 سیرتچھ (سیر - چھ) ، غنی نگاہ والا -
 سیر حاصل (سیر - حاصل) ، زرفیز زمین -
 سیرو (سی) ، قزو ، گھن -
 سیرری (سی) ، طبیعت بھر جانا -
 سینوہ (سینو - وہ) ، تیرہ (۱۱۳)
 سینو دھم (سینو - دھم) ، تیر حواں -
 سینوئی (سینوئی) ، سخی ، رنج ، درد -
 سیار (سی) ، سا ، پہرہ پشت ہم سیار -
 سیبان (سیس - بان) ، سہنا لو اذہ سنتہ
 آصاف
 سیبان (سیس - بان) ، نام صوبہ رجنوبی ایران
 (سیخ) ، دیکھو سیخ
 سیف (سیف) ، تلوار ، آشیان ، ایلوون
 (سیف) ، ساحل ، ادرا یا سمندر کا کنارہ -

سیفور (حجی) ٹوڑا کالا ریشمی کپڑا۔
 سینہ (حجی) - ڈنڈ، جلد ساز کے کتاب کاٹنے کا آلہ۔
 سینفی (حجی) - بے شوب بہ سینف، جھوٹی توار۔
 سینق (سیخ) بے پانی کا بادل۔
 سینقہ (حجی) (بٹیکہ) بیڑہ۔
 سینکورتا (حجی) گورنما، پیہ۔
 سیکلی (حجی) سکی، سے (حجی) شراب جو چکنے
 پتے آدھی رہ جائے۔
 سیل (سیل) ردیم جو بول۔
 سیلاب (حجی) - لاج، پانی کی زد۔
 سیلابی (حجی) - لاج، شوب سیلاب۔
 سیلان (سیلان) - حجی - لاج (حقیق چیز ہینا
 (حجی) لاج، جسزیرہ لکھا۔
 سیلابی (حجی) - لاج، زائر، گشت کا شوقین۔
 سیل عزم (حجی) - لاج، زور کا سیلاب۔
 سیلی (حجی) - لاج، لاج، چھڑا، چائنا، پھیڑا۔
 سیم (سیم) چاندی۔
 سیمکار (حجی) - لاج، پیشانی، نشان (حجی) لاج،
 خاص، خاصکر۔
 سیماب (حجی) - لاج، سیم، آب، پارہ، زریق۔
 سیمابی (حجی) - لاج، شوب بہ سیماب۔
 سیمابنک (حجی) - لاج، سیماب، لکڑیا، تشار، لکھار۔
 سیمبیر، سیمپلن (سیم) - لاج، سیمپلن، چاندی
 ساجسم والا جس کا بدن بہت گورا چٹا ہو۔
 سیمرخ (حجی) - لاج، سیمرخ، ایک اور (حجی) بہت بڑا پرند۔
 سیم سوختہ (حجی) - لاج، سیم سوختہ، خالص چاندی۔
 سیم قنار (حجی) - لاج، سیم، قنار، (حجی) درہ،
 روپہ جو خوراک کے خرچ کے لئے دیا جاسے۔
 سیمکار (سیم) - لاج، دلفریب۔
 سیمکاری (حجی) - لاج، سیم، دلفریبی۔
 سیمکش (سیم) - لاج، سیمکش، نفعو طرح۔

سیم گل (سیم) - لاج، پونا، لاج، پندر دل۔
 سیمی (حجی) - لاج، شوب بہ سیم، چاندی کا۔
 سیمپا (حجی) - لاج، سیم، دہی چیزیں جن کا
 فی الواح کوئی ردو نہ ہو، نیالی اور دھکیلیں۔
 سیمیں (حجی) - لاج، چاندی کا، شوب بہ سیم۔
 سینا (حجی) - لاج، نام بہاؤ شمالی و شرقی ہنر
 سینتہ (حجی) - لاج، چھاتی۔
 سینتہ افکار (حجی) - لاج، آف، سکار، لاج، سیمینہ لکھ
 سینتہ باز (حجی) - لاج، سیمینہ لکھ، ہا، بلند۔
 سینتہ بلند (حجی) - لاج، سیمینہ لکھ، چولی، انگلیا۔
 سینتہ چاک (حجی) - لاج، چھاتی، مصیبت
 زدہ، دھکیلا۔
 سینتہ چاک (حجی) - لاج، چھاتی، مصیبت، ادکھ۔
 سینتہ زانی (حجی) - لاج، زانی، مصیبت میں
 چھاتی پھینا۔
 سینتہ زور (حجی) - لاج، زور، طاقت پر مزور۔
 سینتہ زوری (حجی) - لاج، زور، (حجی) جبر
 زبردستی۔
 سینتہ سوختہ (حجی) - لاج، سیم سوختہ، مصیبت زدہ۔
 سینتہ فگار (حجی) - لاج، فگار، زخمی دل۔
 سینتہ کوبی (حجی) - لاج، کوبی، چھاتی کوٹنا۔
 سینتہ لینی (حجی) - لاج، لینی، خصال، خوان۔
 سینتہ لین (حجی) - لاج، مبارک، ہیون۔
 سینتہ سینڈ (سیم) - لاج، سیم، نام ہیون۔
 سینتہ غالی (حجی) - لاج، غالی، انعام،
 مدد، سانش۔
 سینتہ سینڈ (سیم) - لاج، سیم، نام ہیون۔
 سینتہ سینڈ (سیم) - لاج، سیم، نام ہیون۔
 سینتہ سینڈ (سیم) - لاج، سیم، نام ہیون۔
 سینتہ سینڈ (سیم) - لاج، سیم، نام ہیون۔

شادوہ (شا۔ ڈوہ خوش)۔
 شادی (شا۔ دمی خوشی)۔
 شادیاہ (شا۔ دمی۔ کیا۔ بیکہ خوشی کا باجا گاجا)۔
 شادیچھ (شا۔ دمی۔ چیمہ بالا پوش)۔
 شادی مرگ (شا۔ دمی۔ ہڑاگ، موت جو شذت خوشی سے واقع ہو)۔
 شاذ (شا۔ ڈ) اکیلا، تنہا، کم، جلاہ، شو اڈو۔
 شاذاب (شا۔ ڈاب) دیکھو شاذاب۔
 شاذب (شا۔ ڈب) اپنی جگہ سے دور جانے والا شاعر (شا۔ ڈ) ہستی، شہر، تاج، ساری جواکے پاس ہے، راستہ، بڑا سانب۔
 شارب (شا۔ رب) پینے والا، جہ مغرب جہ مشرق ہے۔
 شارح (شا۔ رح) شرح کرنے والا، جہ شارحین شاردو (شا۔ رو) جہانگیر والا، برہان جہ مشرق و شاردوہ (شا۔ رو) جہانگیر کے ذالی، جہاں گئے والی خیرینی جہ شوارو۔
 شارسان (شا۔ سان) شہر، شہرستان۔
 شارستان (شا۔ رستان)۔ تان، شہرستان، وہ جہتی جس کو چاروں طرف باغات ہوں شارع (شا۔ رع) رعایا، شاعریت جہ شاعرین بازار چڑا راستہ جہ شوارو۔
 شارح (شا۔ رع) جہ شوارو، دستار۔
 شارف (شا۔ رف) بڑھی ادبھی۔
 شارقی (شا۔ رقی) پھیلنا، روشن، سورج۔
 شارفہ (شا۔ روفہ) روشن چیز، سورج کی روشنی جہ شوارو۔
 شارک (شا۔ راک) زنگ، مینا، ایک باتیں کرنے والی چڑیا۔
 شارمار (شا۔ مار) بڑا سانب۔
 شارو (شا۔ رو) دیکھو سارو۔
 شارجوف (شا۔ روف) دیکھو جادوب۔

شارہ (شا۔ ر) چھٹی اسٹری۔
 شارین (شا۔ رمی) دن، رتنا، پینا، پیشا۔
 شارب (شا۔ رب) روشن، سوکھا ہوا، ڈولا۔
 شاش (شا۔ شش) پیشاب، بول۔
 شاشدان (شا۔ شش۔ دن) پیشاب کرنا، برتن۔
 شاشدن (شا۔ شش۔ دن) دیکھو شاشیدن۔
 شاشندہ (شا۔ شش۔ دن) موٹے وال۔
 شاشنہ (شا۔ شش) پیشاب، موت۔
 شاشیدن (شا۔ شش۔ دن) پیشاب کرنا، صفحہ شاشا۔
 شاطر (شا۔ طر) جلاک، شوخ، خطر، باز۔
 شاطن (شا۔ طن) خبیث، بدکار۔
 شاطی (شا۔ طی) کھارہ، سناصل۔
 شاع (شا۔ ع) آشکارا، ظاہر۔
 شاعر (شا۔ ع) شو، کہنے والا، جہ شاعرانہ۔
 شاعرانہ (شا۔ ع)۔ جہ شاعر کی مانند، شاعر کے لائق، شاعر سے منسوب۔
 شاعری (شا۔ عری) شکر، کہنے کا علم۔
 شاعلی (شا۔ علی) آگ جلائے والا۔
 شاعلی (شا۔ علی) بخول ہو، والا، شکر، والا۔
 شاعلی (شا۔ علی) شفاعت کرنے والا۔
 شاقوہ (شا۔ قوہ) شفاعت کرنے والی۔
 شاقوی (شا۔ قوی) حسنی مسلمانوں میں ایک جماعت جہ شوارو۔
 شاقوہ (شا۔ قوہ) شکرگاہ یا مقصد میں کہنے کی دوا، دکان، کپڑا، شیف، نہ، زخم، گھاؤ، پہلو۔
 شاقوی (شا۔ قوی) شفا دینے والا۔
 شاقوہ (شا۔ قوہ) مشکل، دشوار۔
 شاقول (شا۔ قول) راج کی سہا، سابلی۔
 شاقوہ (شا۔ قوہ) مشکل، دشوار۔
 شاک (شا۔ ک) کرتی، انگلیا۔
 شاکار (شا۔ کار) دیکھو شیکار۔

شاگرد شاہ کرد، شکر کے دلاجم شکوڑ
 شاکر پین ڈوکر چاکر۔
 شاکل رشا۔ بکل، کان یا گال کے بچ کی سفیدی
 جم شو اکل
 شاکلوک رشان۔ ٹول، بلا نوش، بھڑکی۔
 شاکلی رشا۔ کچی، شکایت کرنیوالا، گلہ مند
 جم شکاکت۔
 شاگرد رشا۔ گرد، خادم، تلمیذ۔
 شاگردی رشا۔ گرد، دینی، کسی سے طلبہ کی صفات۔
 شاکلک رشا۔ کھٹ، وہ آدمی جو کسی مفرد
 کے عوض میں بکڑ لیا جاوے۔
 شاہنگ رشان۔ بھنگ، نکر، ظلم، رتن۔
 شام رشانم، دن کا آخری حصہ، شام کا
 کھانا، نام ملک، مغربی ایشیا،
 شامات، رشا، شام، ملک شام۔
 شامخ، شامک، رشا، شامخ، شامک
 انگلیا، سالاں جو ایک نھا انا ہے۔
 شامت رشا۔ سنت، بدنامی، بیگونی (شامیت)
 دوسرے کے بگاڑ پر خوش ہونے والا
 جم شکاکت
 شامخ رشا۔ رخ، بند، منکر، جم شو، رخ
 شامل رشا۔ پل، یکجا، بچڑے والا۔
 شاملات رشا۔ پلاٹ، شامل کی جمع
 بجائی چیزیں۔
 شامہ رشانم، نت، سوچنے کی قوت۔
 شامی رشا۔ بچی، منسوب بہ شام۔
 شامیانہ رشا۔ سیا، نہ، کپڑے کا سیاہ ان۔
 شان رشان، مرتبہ، ٹھاکھ، جم شو، شان
 کی پہل رشا، دن، حال، کام، دھندام
 شعور، شان رشان، دن، شام، کرنا، نکھس کرنا۔

شانزودہ رشان، زودہ، سولہ (۱۶)
 شانزودہ حکم رشان، از، دھیم، اسولواں۔
 شانہ رشانہ، مونڈھا، نکھس، گوج۔
 شانہ بہا رشا۔ نہ، بہا، تھوڑا بول۔
 شانہ بین رشا۔ نہ، بین، نالی دیکھنے والا۔
 شانہ مسر رشا۔ نہ، مسر، ہڈ، نکھس، پتا۔
 شاننی رشا۔ نہ، دشمن، ہسری، شانت
 شانیدن رشا۔ نہ، دن، نکھس کرنا۔
 شان و دن، شان، خاص، بے لونی، کھری چیز۔
 شان ویش رشا۔ ویش، سا، جنت۔
 شاہ (شاہ)، بادشاہ، عمدہ، بہتر۔
 شاہ آلور شاہ۔ آ، تو، اچھ، زرشک۔
 شاہ بانہ رشا۔ بانہ، بادشاہ کے مانند۔
 شاہ باز رشا۔ باز، بہادر۔
 شاہ بازی رشا۔ بازی، ہادی۔
 شاہ لوط رشا۔ لوط، نام کورخت۔
 شانترج، شاہترج، رشا۔ ترج، شاہ۔
 ترے، ایک گڑوی دوا۔
 شاہ خاور رشا۔ خا، ڈر، سورج۔
 شاہر رشا۔ پڑ، حاضر، گواہ، اچھا، خوب،
 محبوب جم اچھنا ڈر، شو، پڑ، شہود۔
 شاہراندہ رشا۔ پڑ، شاہر کی مثل۔
 شاہر باز رشا۔ پڑ، باز، برکار، محبوب کا شوقین
 شاہر باز رسی رشا۔ پڑ، باز، رسی،
 رندی، بیہواہ بازار، محبوب۔
 شاہر حال رشا۔ پڑ، حالی، واقف کا گواہ۔
 شاہر روز رشا۔ پڑ، روز، سورج۔
 شاہرہ رشا۔ حور، عام راستہ،
 بادشاہ کا راستہ۔
 شاہ عادل رشا۔ پڑ، عادل، سچا گواہ۔
 شاہد غیب رشا۔ پڑ، غیب، اللہ تعالیٰ۔

شاہد ہی رشا۔ ہرچی، محبوبی، گواہی۔
 شاہراہ رشا۔ رشا، عام راستہ۔
 شاہزادی رشا۔ شا۔ کوچی، شہزادہ پنہا۔
 شاہزادہ رشا۔ شا۔ دہ، بادشاہ کا بیٹا۔
 شاہنیزہ رشا۔ زری۔ زری، کالی زیری۔
 شاہسوار رشا۔ سوار، مسدہ سوار۔
 شاہتی رشا۔ ہتی، بلند، ادبھی عمارت جو
 شہو اہن۔
 شاہکار رشا۔ کار، بہترین کام۔
 کارنامہ، کوئی استوارانہ مظاہرہ کمال۔
 شاہنگام رشا۔ گام، گھوڑے کی ایک چال۔
 شاہنگال رشا۔ گال، دیکھو شاہنگال۔
 شاہنعم رشا۔ نعم، حسن، رسول اکرم۔
 شاہمغرب رشا۔ شاہ، رخ، رجب، چاند۔
 شاہنامہ رشا۔ نامہ، عمدہ کتاب، بادشاہ
 سے نسبت رکھنے والی کتاب۔
 شاہنخل رشا۔ نخل، یسویہ۔
 شاہنشاہ رشا۔ ہن۔ شاہ، بادشاہوں کا
 بادشاہ۔
 شاہنشاہی رشا۔ ہن۔ شاہی، بادشاہوں پر
 بادشاہی۔
 شاہنشین رشا۔ نشین، صدر عمارت۔
 شاہہوار رشا۔ ہوار، شاہی۔
 شاہوار رشا۔ وار، بادشاہوں کے لائق۔
 شاہی رشا۔ ہتی، حکومت، راج۔
 شاہیدین رشا۔ ہن۔ دن، بزرگ کرنا۔
 شاہین رشا۔ ہن، ایک شکار سی پرند
 جو شہو اہن، شہو اہن، ڈنڈی پرند
 شاہ رشا۔ راجہ، آمیزش، طوطی جیٹو اہن
 شاہنشی رشا۔ ہن۔ کوچی، لیاقت۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ لائق، بہتر۔

شاہ رشا۔ راج، عام، ظاہر، مشہور۔
 شاہ رشا۔ راج، مشرقی، مشرقین، شاہنشین
 شاہ رشا۔ راج، اکائٹوں والا پیر۔
 شاہیدین رشا۔ ہن۔ دن، دیکھو شاہین۔
 شاہی رشا۔ ہتی، چاند، کالی کریشی کی لیکھتی۔
 شاہیاں رشا۔ ہیاں، لائق، شہزادار۔
 شاہید رشا۔ ہن۔ کلمہ شک۔
 شاہنشی رشا۔ ہن۔ لیاقت۔
 شاہنشین رشا۔ ہن۔ لائق، ہونا، ہن۔ شاہین
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ لائق۔
 شاہنشاہ رشا۔ شاہ، گاہ، بہتر، بادشاہ کے لائق۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ دشت، پھکڑی، جنگ۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ شروعات، جوانی، شاہ کی حج
 عیش و نشاط، شاہ، شاہ کی حج۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ بہ، اغوزہ، توٹک۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ دن رات، آخرومان
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ راتوں رات
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ رومی ہمینہ کا نام۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ روز، زربفت جس کی
 زمین رو بہلی ہو۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ رندھی باز۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ سوار، کنو، لا، شاہن، ہان،
 کھڑکی، جھوک، شاہن، شکہ کی حج۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ شاہن کی حج۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ گزریا، چرواہا، شاہن، ہان،
 شاہن کی حج، شاہن، شاہن کی خلاف
 قیاس ہے۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ روز، شاہن، شاہن، روز۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ گاہ، شاہن، شاہن، شاہن،
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ منسوب ہے شاہن۔
 شاہنشد رشا۔ ہن۔ یکساںیت، مانڈ ہونا۔

شباب (شباب) تازہ دودھ -
 شکار (شکار) چینی اعلیٰ اگھار -
 شکاریدن (شکار) ری - دن، شکار -
 رتی - دن، رتی کرنا، گھاس کرنا -
 شنبہ (شنبہ) دھار -
 شنبیدن (شنب) ری - دن، دیکھو شنبیدن -
 شخص (شخ) ص، بدن جسم، ذات جسم
 شخص (شخ) ص، شخص، شخص -
 شخص (شخ) ص، ذاتی، جیسی -
 شخصیت (شخ) ص، جی، بیت، ذات -
 شخ کمان (شخ) کمان، قوی بازو -
 شکل (شخ) ص، فریاد، فوج، آواز، ناخن
 سے نوچنا، پیکھی لینا، ٹھونگ مارنا -
 شکیلیدن (شخ) ری - دن، شکیلیدن -
 شخوون (شخوون) دن، نوچنا، کھر دینا، ایلگوں
 سے ڈاڑھی میں خٹال کرنا -
 شخوونہ (شخوونہ) دن، ناخن سے کھر دینا ہوا -
 شخوون (شخوون) ص، کھلی لگانا، نظر کا لڑکھینا
 شخول (شخول) شکل، پڑمردگی -
 شخولیدن (شخول) ری - دن، کھلانا، فریاد کرنا -
 شخول (شخول) خزا، خزا -
 شکیل (شکیل) شکل، پڑمردگی -
 شکیلیدن (شخی) دن، پھلنا، پینا -
 شد (شد) گیا، گزارا ہوا، جانا (شد) -
 فوج، تان -
 شداد (شداد) شدید کی وجہ -
 شداد (شداد) شداد، اد، شدید کی وجہ -
 شداد (شداد) ہر حرف شناسی -
 شدت (شدت) دن، سختی -
 شدخ (شدخ) دن، موٹا ہونا -
 شدخ (شدخ) دن، پیشانی کی سفیدی، شدخ -

ادھورا بچہ -
 شدق (شدق) ادھورا بچہ، جم شدق -
 شدق (شدق) کج دین، باجھ -
 شدکار (شدکار) کاد، ناپ نوال، ٹھینہ -
 شدن (شدن) جانا ہونا مضم شکر -
 شدنی (شدنی) ہوتی، ہونے کے لائق -
 شدومد (شدومد) کد، کھلف، زور شور -
 شدہ (شدہ) کد، کرم کا علم، شدہ، سختی
 شدہ (شدہ) جیرانی، بچو دی، شدہ، ہوا -
 شدیار (شدیار) جوتی ہوتی تیار زمین -
 شدیاریدن (شدیار) ری - دن، جوت
 مانگنا، زمین جوتنا -
 شدید (شدید) سخت، بہادر، جم شداد،
 اشداد -
 شدیدہ (شدیدی) سختی، جم شداد -
 شدرد (شدرد) کد، کد، کد، کد -
 شدر (شدر) بدی، برائی، جم شدور، شدر، عیب،
 گھنا دنی چیز، شدر، سلطان، سموت، نظیری -
 شدر (شدر) مزید فروخت -
 شراب (شراب) بادہ، دارو، پیے کی چیز،
 شراب -
 شرابا (شرابا) کد، بیات، جرابیں -
 شراب بنفشہ (شراب) کد، کد، کد -
 شربت بنفشہ -
 شراب پشدار (شراب) کد، کد، کد -
 مقوی دواؤں کا شربت -
 شراب خانہ (شراب) کد، شراب کا مکان
 شراب خوار (شراب) کد، شرابی -
 شراب خوار کی (شراب) کد، شرابی، شرابی -
 شراب زدگی (شراب) کد، شراب
 کالشہ -

شکرک (شکرک) خدا کا سہی بنانا (شکرک)

شکرک، عام راستہ۔

شکرکار (شکرکار) شکر کی وجہ۔

شکرگت (شکرگت) کتھ اپنی، اس جہاں تباری تہہ عت۔

شکرگم (شکرگم) اراج احیا، جھینپ (شکرگم) ہفتا۔

شکرگمشترمی (شکرگمشترمی) شکر۔ جی، شکرگم سے

نیور ہو کر۔

شکرگم آلود (شکرگم) آلود، خجل، شکرگم۔

شکرگم جہاں (شکرگم) جہاں، اندام بنانی۔

شکرگم زدہ (شکرگم) زدہ، شکرگم۔

شکرگم ساحتہ (شکرگم) ساحتہ، جوت

موت کی شکرگم۔

شکرگم سار (شکرگم) سار، شکرگم۔

شکرگم ساری (شکرگم) ساری، شکرگم۔

شکرگم گاہ (شکرگم) گاہ، شکرگم کی جگہ۔

شکرگم گیس (شکرگم) گیس، شکرگم۔

شکرگم ناک (شکرگم) ناک، قابل شکرگم۔

شکرگم منگی (شکرگم) منگی، جھینپ، مجالت۔

شکرگم سندہ (شکرگم) سندہ، جمل۔

شکرگم موٹہ (شکرگم) موٹہ، بیسوا۔

شکرگم مہ (شکرگم) مہ، شکرگم، جمل۔

شکرگم (شکرگم) مفضل، پھر پھر دوا، اندازن۔

شکرگم (شکرگم) ڈاٹ، دراز، لیا۔

شکرگم (شکرگم) نافیہ، ہم شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکر کی بیسوا۔

شکرگم (شکرگم) رونی، طویع، آفتاب۔

شکرگم (شکرگم) ای، مال، بن۔

شکرگم (شکرگم) پھر گنے، دالی رگ

شکرگم شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) لوہڑا۔

شکرگم (شکرگم) چکین، پیٹکا۔

شکرگم (شکرگم) ڈن، چکینا۔

شکرگم (شکرگم) لایج، نشاط جونی (شکرگم)

لاچی (شکرگم) لچی۔

شکرگم (شکرگم) بدج، شکرگم، شکرگم،

آشکرگم (شکرگم) بہت بد۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، لایج، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) لایج، شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) اسلامی تالان، راہ

رشن، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، جھلا مال، شکرگم

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

شکرگم (شکرگم) شکرگم، شکرگم۔

ششدرہ رشتن - ڈکڑہ ہلاکی کی جسگہ
 عاجزی، حیرانی، پچھ در دالا -
 شش سرسی رشتن - سرسی، خالص سونا -
 رشتن رشتن - چھٹا -
 شش او بیج رشتن - بیج، سوچ، بکار -
 شش رشتن - ششتم ماہ رمضان کے بعد چھ دن -
 شش (شش) - جھلی کھولنے کی ہنسی
 شہرت (شش) - شہرت، ساٹھ (۶۰)
 (شش) - شہرت، جھلی کھولنے کا کاشا اور پچھتر
 ششتم رشتن - ششتم ماہ رمضان -
 ششدر رشتن - رشتن پھیرنا، سونے کی کھانے لگانا -
 شطرنج (شط) - سائل، دریا، ندی، ہم شطرنج -
 شطرنج (شط) - کھانے، بے جیا، خلاف شروع
 کئے دالا -
 شطرنجی (شط) - کھا، جی، بے حیائی، خلاف
 شروع کیا -
 شطرنج (شط) - پ، قلم زد کرتا -
 شطرنج (شط) - یہ، ایسی عورت -
 شطرنج (شط) - ح، خلاف شروع کواں، بے حیائی -
 شطرنج (شط) - ح، کھا، بڑی بازی، خلاف
 شروع بڑا، کواں کی باتیں -
 شطرنج (شط) - ر، آدھوں آدھ، جزو، جانب، طرف
 شطرنج (شط) - ر، ح، نام کھیل -
 شطرنجی (شط) - ر، ح، جی، بساط، شہ نرش -
 شطرنج (شط) - ح سے بڑھ جانا، نظم کرنا -
 شطرنج (شط) - ایسی رشتی، بیجا لڑی، ہم آشتیان
 شطرنج (شطرنج) - دور بونا -
 شطرنج (شطرنج) - دور اندر تک -
 شطرنج (شطرنج) - دانہ، دندانہ، کھڑا، ایشہ
 پھانس شطرنج کیا -
 شمار (شمار) - دردی، نشان، علامت،

اشارہ، عادت، رسم، طریقہ، قاعدہ، ہم
 شعلہ، شعلہ -
 شعرا را مع رشتا - کار، نہ، شمار کے طور پر -
 شعاری رشتا - رشتی، منسوب بہ شعاری -
 شعاع رشتا - کرن، ہم آشتی، قطع
 رشتا - انان کی بال کا نور -
 شعاعی رشتا - رشتی، منسوب بہ شعاع -
 شعاف رشتا - دیوانگی، لڑی، لڑی، لڑائی
 سر کے بخور سے بال -
 شعرا رشتا - رشتی، شیعہ کی جمع -
 شعوب رشتا - ب، غار، شگان، دربار، گروہ
 بڑا خاندان، ہم شعوب رشتا - ب، درہ
 ساڑھی راستہ، ہم شعاب -
 شعبان رشتا - بان، آنکھوں اسلامی
 قمری مہینہ -
 شعبدہ رشتا - بڈہ، جادو، یانن کے ذریعہ
 سے بازی -
 شعبدہ بازی رشتا - بڈہ - بازی، بازیگر -
 شعبدہ بازی رشتا - بڈہ - بازی، بازیگر -
 شعبدہ رشتا - بڈہ، حکم، شاخ، علم، ہم شعبدہ
 شعباب رشتا - بڈہ، دیکھو، منسوب -
 شعور رشتا - ر، موزوں، مقفی، کلام، ہم آشتیان
 رشتا - ر، بال، رشتا، شعور -
 شعور رشتا - ر، شاعر کی جمع رشتا، بڑا، ہنفا، لولا
 بچھی کھلی، سخت بلا -
 شعور لجن رشتا - حوں، حوں، پریا، رشتا
 ہنرا -
 شعور رشتا - حوں، شرمگاہ کے بال -
 شعوریت رشتا - حوں، رشتی، حوں، شعور -
 شعور رشتا - حوں، حوں، حوں، حوں، حوں
 شعور رشتا - حوں، حوں، حوں، حوں، حوں

شفا ہنگ - شفا ہنگ ہا کشی کا جنر
 شفق (جنت) رع کسی چیز کی خواہش
 جنت اور جوار - شفق کی جنت -
 شفقہ شفق - مگر ما زمین کا حق ہاگی
 شفق (جنت) ان کی سستی، خسرابی
 ہم اشفاق - جنت اہربانی، غمخواری
 جنت اشفاق
 شفق زار (شوق) زار، شفق کی جگہ -
 شفقستان (شفقت) بیان، شفق کی جگہ -
 شفقہ (شوق) گزرتا شفق کی جگہ -
 شفق (شوق) منسوب بشفق، سترج -
 شفقین (شفق) بی - دن، دیکھو شفقین
 شفق (شوق) ان، دانا عقلمند -
 شفقوی (شوق) ہونٹھ سے نکلنے والے
 حردن (ربان) م -
 شفق (شوق) سفارشی، خواہش کرنیوالا،
 شفق کرنے والا ہم شفقکار -
 شفق جار (شوق) رع - جاز، پردس
 کی زمین کا شفق کرنے والا -
 شفق خلیط (شوق) رع - خلیط، شرکت کی
 زمین کا شفق کرنے والا -
 شفقہ (شوق) رع سفارش کرنیوالی، خواہش
 کرنیوالی، شفق کرنے والی -
 شفق (شوق) اہربان ہم اشفاق -
 شفقہ (شوق) جنت اہربانی کرنے والی -
 شفق (شوق) درز، شکان ہم شقوق
 (شوق) موطا، کنارہ، بھائی، دوست -
 شقا (شقا) بد بختی -
 شقا (شقا) نفاق، مخالفت، دشمنی -

شقاقل (شقا) بخل، جنگلی گاجر -
 شقاوت (شقا) زوت، بد بختی، سنگدلی -
 شقاقت (شقا) اقل، لالہ، پھول، شقیقہ
 کی جنت -
 شقار (شوق) دارم، حاکم علاقہ -
 شقارسی (شوق) ذرا، ریحی، حاکم علاقہ کا
 عمدہ، گھبراہٹ -
 شقار (شوق) دن، ادٹ کا کجاوہ،
 گھٹا ٹوب -
 شقار (شوق) لالہ کو ہی -
 شقرا (شوق) بران، نیل کنٹھ، سبزک -
 شقرا، شقرا (شوق) دن، اشق، زوہ،
 سیندور، سنگدلی -
 شقرا (شوق) دن، ادٹ کی بلہاٹ کے
 دن صحت کا تھرا -
 شقوت (شوق) دن، بد بختی، سنگدلی -
 شقوق (شوق) گفتنی پا -
 شقہ (شوق) پرد، پردہ، مٹرا، پھر سیا -
 ہم اشقق -
 شقی (شوق) بد بخت، سنگدل ہم اشقی -
 شقی (شوق) بھج، جبر -
 شقی (شوق) آدھا مٹرا، سکا بھائی -
 شقی (شوق) کنپٹی، آدھا سی کا درد -
 شک (شقا) گمان ہم شکوتک
 شکار (شقا) بھلی جانور مارنے کا عمل، جانور
 جس کو مارا ہو -
 شکار بند (شقا) بند، شکار بانڈھو کی چیز
 شکار گاہ (شقا) جگہ، شکار کھیلنے کی جگہ -
 شکارسی (شقا) ریحی، شکار کھیلنے والا -
 شکال (شقا) بکر، جیل، پھارسی (شقا)
 کال، ظریف، خوش بختی -

شکی (شک) کی ایک کڑواہٹ۔

شکیب (شکب) صبر۔

شکیبا (شکبا) صبر کڑواہٹ۔

شکیبائی (شکبائی) صبر۔

شکیبائیدن (شکبائیدن) صبر کڑواہٹ۔

شکیندہ (شکیندہ) صبر کرنے والا۔

شکیتیدن (شکیتیدن) صبر کڑواہٹ۔

شکینیدہ (شکینیدہ) صبر کیا ہوا۔

شکیند (شکیند) صبر کا پتھر۔

شکیتفتن (شکیتفتن) صبر کڑواہٹ۔

شکلی (شکلی) خوبصورت، اچھی شکل والا۔

شکلیہ (شکلیہ) اچھی شکل والی۔

شکی مزاج (شکی مزاج) صبر کڑواہٹ۔

شکیرہ (شکیرہ) صبر میں شک ہو۔

شکینہ (شکینہ) صبر کڑواہٹ، طبیعت، برشت۔

شکک (شکک) صبر کڑواہٹ، ڈر، ڈراڑھا، ڈھیرا۔

شکک کرنے والا۔

شکک فتن (شکک فتن) صبر کڑواہٹ، پھنسا، پھاڑنا۔

شکک فتنہ (شکک فتنہ) صبر کڑواہٹ، ڈھیرا، ڈھیرا ہوا۔

شکک فتنہ (شکک فتنہ) صبر کڑواہٹ، ڈھیرا، ڈھیرا ہوا۔

شکک فتنہ (شکک فتنہ) صبر کڑواہٹ، ڈھیرا، ڈھیرا ہوا۔

شکک فتنہ (شکک فتنہ) صبر کڑواہٹ، ڈھیرا، ڈھیرا ہوا۔

شکک فتنہ (شکک فتنہ) صبر کڑواہٹ، ڈھیرا، ڈھیرا ہوا۔

شکک فتنہ (شکک فتنہ) صبر کڑواہٹ، ڈھیرا، ڈھیرا ہوا۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شکفت (شکفت) صبر کڑواہٹ، صبر کڑواہٹ۔

شہر میٹر (شہر) - کھیتی کی زمین۔

شہر میٹر یکن (شہر) - بے - زمینی - دن کھیتی کرنا، زمین جو تنہا۔

شہر مند (شہر) - سبب، باعث، مادہ جسم شہر میدان۔

شہر مند (شہر) - کا، سننے والا، شنوا۔

شہر مند (شہر) - ڈھ، جانے والا، ہونے والا۔

شہر مند (شہر) - شہر، گلوبھی۔

شہر مند (شہر) - ایک کا لائینر۔

شہر مند (شہر) - ہاؤس، عاوند، میاں۔

شہر مند (شہر) - ہیرا، بھولو نیا سہرہ۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - دن، دیکھو شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - دن، دھونے والا۔

شہر مند (شہر) - بادشاہ، بڑا، شہر کی ایک چال۔

شہر مند (شہر) - کلمہ، نفرت، ذکر، اہت۔

شہر مند (شہر) - اسے بادشاہ۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - با، دھکا کا ہمد و شہر نو اور۔

شہر مند (شہر) - بڑا، بوڑھی عورت، ہم شہر مند بڑا۔

شہر مند (شہر) - بڑا، پرنس کے یازد کا سب سے بڑا اور۔

شہر مند (شہر) - مبطوط پر۔

شہر مند (شہر) - باجے کا موٹا تار۔

شہر مند (شہر) - بڑا، دیکھو شہر مند۔

شہر مند (شہر) - بڑا، ایک مہل۔

شہر مند (شہر) - بڑا، بڑی کڑھی، لٹھ۔

شہر مند (شہر) - امرت، انجلیں، مٹھاس۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - آوارہ، مدد رخص۔

شہر مند (شہر) - ڈا، بھنگ کا بیج۔

شہر مند (شہر) - دن، شہر کی تصنیف۔

شہر مند (شہر) - ا، بیہنہ، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - آبادی، بستی، کھیرہ۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شہر مند (شہر) - شہر، شہر، شہر، شہر۔

شیب و بال (شے - بوا - با - لا) نشیب و فران
 بندھی چستی -
 شیب و ب (شے - بوا - برب ، سرگنتہ ، مدہوش -
 شیبیدن (شے - بوا - دان) دیوانہ ہونا ، شیدا ہونا
 شیبو (شے - بوا) دیکھو شکو -
 شیبور (شے - بوا) نام تاجہ ، نفیری -
 شیبیت (شیت) ، دیکھو شینہ -
 شیبو (شے - بوا) ، اہمنہ ، ایک دوا -
 شیبو (شے - بوا) ، بڑھاپا ، بزرگی ، بڑھاپا -
 شیبو (شے - بوا) ، ڈینگ ، سن ترانی -
 شیدا (شید) ، مکو فریب (شید) سورج ، روشنی
 (شید) ، پائی جستانی کا سالہ -
 شیدار (شے - دان) دیوانہ ، پریشان -
 شیدان (شے - دان) ، دیکھو شیلان -
 شیدائی (شے - دان) ، دیوانہ ، دیوانگی
 شیدہ (شے - دان) ، روشن چیز -
 شیدھی (شے - دان) ، صحتی -
 شیدہ (شے - دان) ، خدا ، اللہ -
 شیدمان (شے - دان) ، بھیریا -
 شیدبیر (شے - دان) ، دیکھو شیدر -
 شیر (شیر) ، نام درندہ (شیر) ، دودھ -
 شیرابہ (شے - دان) ، پہ ، خفاش ، شیر خفاش -
 شیراچی (شے - دان) ، ناکا ، ٹھکریال -
 شیرازہ (شے - دان) ، چڑھی ہوئی دہی جہ
 شوا - چڑھی نام شیر (شمالی ایران)
 شیرازہ (شے - دان) ، کتاب کی جز بندی -
 شیرازگن (شیراز) ، گن شیر کو زبرد کرنے والا -

شیراز (شیر) ، آن ، دودھ بھروسے پستان یا سخن -
 شیرانہ (شے - دان) ، مثل شیر (شے - دان) ، نہ ، منسوب
 بہ شیر ، دودھ بولنے کی رٹی -
 شیربا (شیر) ، بگا ، کھیر -
 شیربہا (شیر) ، بگا ، محض پرچڑھاوا ، ساچھا
 دودھ کی قیمت -
 شیرج (شے - دان) ، پھانسیل -
 شیرخانہ (شیر) ، خانہ ، شہر ، خانہ -
 شیرخشک (شیر) ، خشک ، ایک گوگرد ، نام دوا -
 شیرخوردہ (شیر) ، خوردہ ، دودھ پیا ہوا -
 شیردار (شیر) ، دار ، دودھ داری ، دودھ والی -
 شیردان (شیر) ، دان ، کھیری ، امین -
 شیرولی (شیر) ، ولی ، بہادر ، سورما -
 شیروہ (شیر) ، وہ ، دودھ پلائی ، دتا -
 شیرزاد (شیر) ، زاد ، ایک سہری دوا ، بوزیدان -
 شیرزنج (شیر) ، زنج ، جھگڑ کا دودھ -
 شیرشاہ (شیر) ، شاہ ، شہ - دان
 شیر کی شعور پرورش یا پروردہ پر -
 شیرشہ (شے - دان) ، شہ - دان ، شہیر جو
 دانہ نکالے ہوئے ہو -
 شیرقابین (شے - دان) ، قابین ، بے عمل ،
 بیخوبی بان ، قالین پر بیٹھ کر ڈینگ بانے والا -
 شیرگرم (شیر) ، گرم ، نیم گرم ، لگنا -
 شیرگیر (شیر) ، گیر ، نیم مست آدمی ، مستانہ -
 شیرلغاب (شیر) ، لغاب ، شہد -
 شیرمال (شیر) ، مال ، ایک روشنی روٹی جو دودھ
 سے بنتی ہے -
 شیرماہی (شیر) ، ماہی ، اسیل مھلی -
 شیرمرغ (شیر) ، مرغ ، تاپا ب -
 شیرمرد (شیر) ، مرد ، بہادر -
 شیرمست (شیر) ، مست ، اتانگلیں کرنے والا -

دودھ چٹا بچہ (شیر - مس) ات بہار۔
 شیر و شکر (شئی - رُو - شکر) بہت زیادہ میل ملاپ۔
 شیر و شکر (شئی - رُو - شکر) جیسے علم بہت المقدس۔
 شیر و شکر (شئی - رُو - شکر) یہ بہار۔
 شیر و شکر (شئی - رُو - شکر) اس عرق، نئی شراب۔
 شیر و شکر (شئی - رُو - شکر) جہاز کا ایک حصہ، شوبہ
 شیریں (شئی - رُو - شکر) بیٹھا، مزیدار۔
 شیریں ادا (شئی - رُو - شکر) اکڑا، خوش مزاج والا۔
 شیریں زبان (شئی - رُو - شکر) زبان، پیشی
 بائیں کرنے والا۔
 شیریں زبانی (شئی - رُو - شکر) زبان، پیشی
 بایں کرنا۔
 شیریں ک (شئی - رُو - شکر) مہاسہ۔
 شیریں کار (شئی - رُو - شکر) کار، مخرہ خوش بلیقہ۔
 شیریں کاری (شئی - رُو - شکر) کار - (رئی)
 خوش سیلیگی۔
 شیرینہ (شئی - رُو - شکر) مہاسہ، گنج۔
 شیرینی (شئی - رُو - شکر) مٹی، مٹھائی، مٹھاس،
 رشتہ۔
 شیر، شیر می شیر، شیر، شیر، زئی، آبنوس۔
 شیشاک (شئی - رُو - شکر) چاکر، کار کا رباب،
 سال بھر کی بھری پاکیرا۔
 شیشک (شئی - رُو - شکر) شئی، شئی، شو،
 تیز تیز ہو۔
 شیشہ (شئی - رُو - شکر) کاریج، آئینہ، دل، حلقہ۔
 شیشہ باز (شئی - رُو - شکر) باز، مکار،
 دعا باز، باز بکر۔
 شیشہ بازی (شئی - رُو - شکر) با - (زئی)
 بازیگری، بھاری۔
 شیشہ جان (شئی - رُو - شکر) جان، نازک دل۔

شیشہ ساعت (شئی - رُو - شکر) (سا - عت)
 ایک گھڑی جو دوشیشوں میں رین بھر
 بنائی جاتی ہے۔
 شیشہ گر (شئی - رُو - شکر) گڑ، شیشہ بنانے والا۔
 شیشہ گرمی (شئی - رُو - شکر) گرمی، شیشہ بنانا۔
 شیشی (شئی - رُو - شکر) شئی، چھوٹا شیشہ۔
 شیشیک (شئی - رُو - شکر) شئی، شیشیک، دیکھو شیشیک۔
 شیطان (شئی - رُو - شکر) کان، دیو، سرکش، شر
 جہ شیطانی۔
 شیطانی (شئی - رُو - شکر) کان، شوبہ شیطانی۔
 شیطنت (شئی - رُو - شکر) شرارت، شیطانی پن۔
 شیش (شئی - رُو - شکر) شیش، شیشک۔
 شیعہ (شئی - رُو - شکر) شئی، مسلمانوں کا ایک فرقہ جو
 حضرت علی کا پیروں ہے۔ شیش، اتباع، انصار۔
 شیشی (شئی - رُو - شکر) شئی، شیشی کی طرف شوبہ شیشہ۔
 شیشکی (شئی - رُو - شکر) شئی، عاتقی، مہوشی۔
 شیشکن (شئی - رُو - شکر) شئی، فریفتہ ہونا مضم
 شیشک (شئی - رُو - شکر) شئی، شیشک۔
 شیعہ شیش (شئی - رُو - شکر) شئی، عاتقی، مہوش۔
 شیشک (شئی - رُو - شکر) شئی، شیشک، ابا نچ۔
 شیشکار (شئی - رُو - شکر) شئی، شیشکار۔
 شیشک (شئی - رُو - شکر) شئی، شیشک، شیشک میں پڑنا۔
 شیشان (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، شئی، کان، دستروان
 کھانا، عتاب جو ایک صرخ چھوٹا سا پھل ہے۔
 شیشاپچی (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، چچی، داروغہ، باد چچا۔
 شیشانہ (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، عتاب۔
 شیشم (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، ایک گھاس جو دوا ہے۔
 شیشونہ (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، کھوا۔
 شیشی (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، ملک چلی (جسٹونی امریکہ)
 شیشہ (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، سولی چلی۔
 شیشہ (شئی - رُو - شکر) شئی، کان، طبیعت، خواجہ شیشم۔

شین (شین، عیب، برائی، جم، ششویں)

شین، پیچہ -

شیناب (رشق، ناپ، تیراکی -

شینغز (شئی، زنگ، دیکھو شوینز -

شیبو (شیبو، شیب، شیب -

شعبو (دشے - ۱۵، نصیح و بیخ -

شیدوا زبان (دشے - ۱۵، زبان، فصیح -

شعیوان (دشے، دان، لرزاں -

شعیوانیدان (دشے - ۱۵، برنی، دن)

کیکیانا، لٹا، ملانا -

شیبوط (شیبوط، ردہ پھلی -

شیبوع (مشیبوع، خبر لگنا، خبر آشکارا ہونا -

شبیون (دشے - دن، لوتہ، نالہ، نام، شیون)

شان کی جمع، شین کی جمع -

شہوندہ (دشے - دن، دہ، برہم زدہ، لرزاں

شہیوہ (دشے - دہ، طریقہ، عادت، رسم،

روش، ناز، کوشہ، ہنر -

شہبہ (دشے - ہنہ، ہنسنا ہٹ، صہیل -

ششیہ (دشے، دہنا، نشان، چھینٹ -

ص

صل (صاڈ، مخصوص حرف عربی، حرف لیس،

تاکم مقام عدد، ۵، چند حرف سے بدل کر

دش کے ساتھ شلاً چنڈل، صندل - ۲۰ - سن

ساتھ شلاً نفس، نقص -

صاہر (رضا، برہ) صبر کرنا، لاجہ صابرینا -

صاہون (رضا، بھون، دھلائی صفائی کیلئے

ایک مرکب -

صاہوٹہ (رضا، بونہ، ستر برس کی بڑھیا عورت -

صاہونیمہ (صا، بونہ، دن، بونہ، برنی -

صاہہ (صا، بونہ، دیوانگی -

صاہنی (صا، بونہ، مذہب جدید کرنے والا -

صاحب (صا، چہ، مالک، دوست، ساتھی

جم، صحت، چھٹائی، چھٹائی، چھٹائی،

جم جم، آٹھٹاپ، آٹھٹاپ، آٹھٹاپ -

صاحب اختیار (صا، چہ، رخ، بیکار، اختیار والا

صاحب الامتياز (صا، چن، رام - بیکار،

لائسنس دار -

صاحب البحریدہ (صا، چن، بحرئی، دہ)

مالک اخبار، برہ پرانہ -

صاحبان (صا، چان، صاحب کی فارسی جمع -

صاحب ایمان (صا، چہ، رخی، مان،

سپاسدانا، ایمان والا -

صاحب تخت (صا، چہ، تخت، بادشاہ -

صاحب جمال (صا، چہ، بجان، خوبصورت -

صاحب حال (صا، چہ، حال، چہرہ ذوق و

شوق کی بجزومی کا غلبہ ہو -

صاحب خانہ (صا، چہ، خانہ، ملک، مکان

صاحب خون (صا، چہ، خون، مقتول کا وارث -

صاحب درد (صا، چہ، درد، نرم دل -

صاحب دل (صا، چہ، دل، اچھا آدمی، نیک

صاحب دیوان (صا، چہ، دیوان، ارجنٹا -

صاحبزادہ (صا، چہ، زاد، دہ، حسدز

آدمی کا بیٹا -

صاحبزومی (صا، چہ، زوم، دیوان، محرز

آدمی کی بیٹی -

صاحب فرانس (صا، چہ، فرانس، بیابان

چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو -

صاحب قرآن (صا، چہ، قرآن، خوش قسمت،

مستبشاہ -

صاحب قلم رضا۔ جب شکم، ادیب، شاعر،
 نقشی، مضمون نگار۔
 صاحب کمال (رضا)۔ جیت، کمال، کمال، بہتر۔
 صاحب نظر (رضا)۔ جب - نظر، تیز کرنے والا،
 نظر والا۔
 صاحب نفوس (رضا)۔ نفوس، باروش۔
 صاحب ولا بیت (رضا)۔ جب - ولا - بیت، دلی،
 نیک آدمی۔
 صاحبہ (رضا)۔ جہ، مالک، بیوی، سہیلی، صاحبہ۔
 صاحبی (رضا)۔ جہ، مالک، ہونا۔
 صاحبی (رضا)۔ جہ، ہیشیا، روشن دن۔
 صاحب (رضا)۔ دین، نکلنے والا، پھرنے والا۔
 صادق (رضا)۔ وقت، سچا، ٹھیک، نرنیوالی بات۔
 صادق القول (رضا)۔ وقت، قول، بات کا سچا۔
 صادقہ (رضا)۔ وقت، سچی، ٹھیک۔
 صادقہ (رضا)۔ کھیت۔
 صادق (رضا)۔ رخ، چلانے والا، فریادی،
 فریاد رس، مرغ۔
 صادق (رضا)۔ رین، حادثہ، گردش زمانہ،
 پھرنے والا، سادہ شراب پینے والا۔
 صادق (رضا)۔ رحم، بہادر آدمی، تلوار کا ڈالی۔
 صادق (رضا)۔ روح، چونکا، باہم ملا ہوا۔
 صادقہ (رضا)۔ حاجت۔
 صادق (رضا)۔ بری، جہاز کا ستون۔
 صادق (رضا)۔ شہی زمین، نام وزن ہم موضوع
 خصوصاً، آفتواریج۔
 صادق (رضا)۔ برنال، زکوٰۃ کھانوالا۔
 صادق (رضا)۔ پدم، ابر کو چھڑھنے والا۔
 صادقہ (رضا)۔ جھڈ، گڑک، بجلی جو کوا لک۔
 صادق (رضا)۔ خالص، بے بوٹی، جھنڈا
 صادق (رضا)۔ ہفت ہاندھنے والا، جم صاحبان

صاف (رضا)۔ بڑی کی ایک رنگ کا نام۔
 صافی (رضا)۔ بڑی، صفا، خالص،
 صاف کرنے والا۔
 صاف (رضا)۔ بڑی، روشن، صاف کرنے۔
 صافورہ (رضا)۔ تھوڑے، کھوپڑی کا اندر کا
 حصہ، کھپڑی کا شورخ۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، تپ گرم۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، نیک، نیکو کار، اچھا، صفا
 صاحبہ (رضا)۔ بڑی، نیک، اچھی، صفا
 صاحبہ (رضا)۔ بڑی، چمکا، چاندی سونا۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، نیک، دہاں۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، خشک، ہونکا۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، بنا، نوالا، کار، جہ صاحب
 صاحب (رضا)۔ بڑی، سیدھا، رسا، پونچھے والا۔
 صاحبہ (رضا)۔ بڑی، سیدھی، پونچھے والی۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، سنار، زرگر۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، حمل کرنے والہ۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، روزہ دار، نام آنت۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، روزہ دار، ہمیشہ
 روزہ رکھنے والا۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، ہچانے، شانے (شانے)
 صاحب (رضا)۔ بڑی، دینا، بھیرنا، عاشق۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، ہوا، ہونا، پھین۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، صبح، اچھا، صبح، باغ،
 بہت سفید۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، چٹان، خوبصورتی۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، بڑا، صبر کرنے والا، صبر
 باز، صبر، دلی، ترمندی۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، باغ، رنگین۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، آنتار، نشیب۔
 صاحب (رضا)۔ بڑی، سویرا، فجر، صبح، صبح

صندوق النسا (صن - ڈو - قش) - پشاور

گراسونون باجہ جوگاتا ہے۔

صندوقی رکن - ڈو - قش - چھوٹا صندوق۔

صندوقی رکن - ڈو - قش (صندوق کی مانند۔

صندوقی رکن - ڈو - قش - سردار بہادر شریف

صنوع (صنوع) کام کرنا، پیدا کرنا، بنی کرنا۔

صنوع (صنوع) کا نام شہر دینا،

صنعت (صنوع) - عت، پیشہ، ہنر، کاریگری۔

صنعت (صنوع) ان اقسام کے فنون و صناعات

صنعت۔

صنعت (صنعت) کوٹ، چادر کا کنارہ۔

صنوع (صنوع) میں کی سخت بدبو (صنوع) گندی

در باری کی چیز۔

صنوع (صنوع) - صورت، ہم آہنگی۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صنوع (صنوع) - صنف، فن، فنون۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

صوائف (صنوع - رفق) - صوائف کی جمع۔

ض

ض اِضَادَةٌ مخصوص حرف عربی / قائم مقام

عبارت ۸۰۰ حرف تہی۔

ضباب (ضباب) ہتھوڑ کی قسم کا ایک پتہ۔

ضابطہ (ضابطہ) فوجی امر، انتظام کرنے والا۔
ضابطہ (ضابطہ) بظاہر، قاعدہ، دستور، گز

جمع ضوابط

ضابطی (ضابطی) گرم راکھ، بھول۔

ضاجر (ضاجر) مضطرب، غم سے بیکل۔

ضاحک (ضاحک) ہنسنا، ہنستا ہوا۔

ضاحکہ (ضاحکہ) ہنستی ہوئی، ہنسور عورت

جمع ضاحکات۔

ضاحی (ضاحی) ضاحکہ (ضاحی) ہنسنے والی۔

ضاحک (ضاحک) ہنسنے والی۔

ضار (ضار) مضر، ضرر پہنچانے والا۔

ضار (ضار) مضر، ہارنے والا۔

ضارور (ضارور) ضرورت، ناگزیر۔

ضارحی (ضارحی) نیکارے پیچھے دوڑنے والا۔

ضارخط (ضارخط) ایک درخندید۔

ضارخط (ضارخط) کا بوس۔

ضال (ضال) گمراہ، ضالین (ضالین) (ضالین)

جمع ضالین۔

ضالہ (ضالہ) گم شدہ چیز، ضال کا سونٹ

ضامن (ضامن) پزیرنار، کفیل۔

ضامنی (ضامنی) ضمانت۔

ضامن (ضامن) بھیر، پیش، آدمی کے

بدن کی بدلو۔

ضامی (ضامی) راز، تلف، اکارت، کھو ہوا۔

ضامن (ضامن) زمیندار، زمیندار، زمیندار

ضباب (ضباب) آگاہ، سوسار، جہ ضباب۔

ضباب (ضباب) گہری سردی سے زمین کی کھات

ضباب (ضباب) لومڑی کی آواز۔

ضبارہ (ضبارہ) زو، پشتارہ۔

ضبیح (ضبیح) ح، خاک، راکھ۔

ضبران (ضبران) چوکڑی بھرنا۔

ضبط (ضبط) انتظام، نگرانی، قابو، قبضہ

ضبطی (ضبطی) انتظام، قبضہ۔

ضبطیہ (ضبطیہ) انتظام، قبضہ۔

ضبیح (ضبیح) کال کا سال، بچو، کفشار

ضبیح (ضبیح) بزد، بغل۔

ضبیحان (ضبیحان) تر بچو۔

ضبیحی (ضبیحی) غلام، ہوا۔

ضبیح (ضبیح) شیر۔

ضبیح (ضبیح) پتہ۔

ضبیح (ضبیح) خون یا پانی جاری ہونا

ضبیح (ضبیح) بدی، ایک سفید گوند سٹا

ضبیح (ضبیح) شور و فریاد

ضبیح (ضبیح) سنگدل، غمگین، (ضبیح)

ضبیح (ضبیح) بے آرامی۔

ضبیح (ضبیح) دل تنگ۔

ضبیح (ضبیح) شوہر کی مخالف عورت، بیوی

ضبیح (ضبیح) شور مچا، ہنچ بکار۔

ضبیح (ضبیح) ہم خواب، بہیستر۔

ضبیح (ضبیح) دھوپ، سورج۔

ضبیح (ضبیح) بڑا ہنسور۔

ضبیح (ضبیح) بڑی ہنسنے والی۔

ضبیح (ضبیح) چاشت کا کھانا، کلیو۔

ضبیح (ضبیح) کھلا کھلا، تہقہ۔

ضبیح (ضبیح) ایک دفعہ ہنسنے والی۔

ضریح (ضریح) قبر جم غفرا ریح -

ضریح (ضریح) اندھا، صبر، رشک، غیرت -

ضریح (ضریح) بہت بھوکا -

ضریح (ضریح) ایک سخت زہریلی دریا کی گھاس -

ضریح (ضریح) عجب، بڑے پستان والی عورت -

ضریح (ضریح) کنگال، اتیت، گندہ

جم غفرا ایک -

ضریح (ضریح) جلا ہوا، سوختہ -

ضریح (ضریح) چیکا چونا، چیکا چونا چپیدہ ہونا

ضریح (ضریح) سڑ، مونی -

ضریح (ضریح) گلا گھونٹا -

ضعف (ضعف) نشستی، کمزوری (ضعف) ان

دونا جم اضعاف (ضعف) ان، تہہ پتہ کی عقل

ضعیف (ضعیف) کمزور، بوڑھا جم اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) -

ضعیفہ (ضعیفہ) بوڑھی عورت -

ضعیفی (ضعیفی) بی، بڑھا یا کمزوری -

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف -

ضعف (ضعف) ب، ڈرانا -

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعیفہ (ضعیفہ) نشستی، کمزوری جم اضعاف

ضعف (ضعف) بہ حال اور کنگال آدمی -

ضعف (ضعف) بزرگ، بزرگ جم اضعاف

ضعف (ضعف) بہ گوڑھا -

ضعف (ضعف) تنگی، سختی، کثرت اولاد -

ضعف (ضعف) ذمہ، بیماری، تنگی -

ضعف (ضعف) دریا کا کنارہ -

ضعیفہ (ضعیفہ) ذمہ، گندہ ہے بال جم اضعاف

ضعیفہ (ضعیفہ) اضعاف، اضعاف، اضعاف

ضعف (ضعف) باطل، غلط -

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضلال (ضلال) ضلالت، ضلالت، ضلالت

ضمیہ (ضمیمہ) - مذہم بیماری۔
 ضموں (ضمور) - ضعف، لاغری (ضمور)، ڈبلا، بلاغہ۔
 ضمہ (ضم، ۳) - حرکت پیش (وہ)۔
 ضمیر (ضمیر) - دل میں جو بات گذری، اندیشہ، خاطر،
 بھید، اس کا قائم مقام لفظ ہم حکما کرتے۔
 ضمیر الٰہی (ضمیمہ) - حیران، نگرہ جہلک، پھلواری ہے۔
 ضمیر (ضمیر) - لاہوت،
 ضمیر (ضمیر) - مہ، رحیم، جوی دوسری چیز پر بھی لکھا
 ضمیر (ضمیر) - خاص، تکلیف دہ۔
 ضنک (ضنک) - موٹی عورت (ضنک، دکام
 ضنک) جس کے چوتھے سوتے ہوں۔
 ضنا نہ (ضنا) - مذہم بیماری۔
 ضننت (ضنن) - وقت، گتوے۔
 ضنک (ضنن) - کہ تنگ چیز، تنگی۔
 ضنو (ضن) - دل، بچہ، فرزند۔
 ضنی (ضنی) - ضنی (ی)، ڈبلا، پتلا۔
 ضلیک (ضلیک) - ضعیف لائے، بدن کا کمزور۔
 ضنن (ضنن) - گھونٹ۔
 ضو (ضو) - روشنی، لہب، رضو، آسمان، سورج۔
 ضوا (ضوا) - رضو (لہ)، ضابطہ کی جمع۔
 ضوا (ضوا) - رضو، حجت، ضاحکہ کی جمع۔
 ضواع (ضواع) - آلہ کی آواز۔
 ضویر (ضویر) - سخت بھوک، بے قدر آدمی
 رضویر، کالی گھٹا۔
 ضوع (ضوع) - آواز اور آواز جہتتہ آواز۔
 ضویر (ضویر) - رضویر، رضویر، رضویر، رضویر، رضویر۔
 ضہد (ضہد) - حصہ کرنا۔
 ضہول (ضہول) - کنواں، گھوڑے پانی کا۔
 ضہوہ (ضہوہ) - وہ پانی کا حوض۔
 ضہی (ضہی) - مانڈ۔
 ضہیا (ضہیا) - کیا کہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو۔

ضحیا (ضحیا) - روشنی
 ضیاح (ضحیا) - دودھ کی گھسی، پانی کا
 مواد دودھ۔
 ضیاط (ضحی) - کاپڑ، درخت مزاج آدمی۔
 ضیافت (ضحی) - بھائی، دعوت۔
 ضیح (ضحی) - دیکھو ضیاح۔
 ضمیر (ضحی) - تکلیف، صغیر، نگرہ۔
 ضمیر (ضحی) - زکا، بے اعتبار، ناراست۔
 ضیم (ضحی) - دیکھو ضیم۔
 ضیط (ضحی) - نگاہ رکھنا۔
 ضیطار (ضحی) - خانہ، موٹا کنواں اور پٹیہی آدمی۔
 ضیح (ضحی) - ضاح، دہلاک ہونا
 ضیہہ (ضحی) - غم، حقیقت کی زمین، اول قسم کی زمین،
 قنارت، حرفت، پیشہ، صنعت، ہائی، جو ضیہہ،
 رضیح، ضیحان، جو ہم ضیہہ نجات دلاک ہونا،
 ضاک ہونا، تعلق ہونا، گھوٹا، گھوٹا، گھوٹنا۔
 ضیم (ضحی) - غم، پھارگھا، ڈبلا شہ، کلکتا۔
 ضیمہ (ضحی) - غم، پھارگھا، ڈبلا شہ، کلکتا۔
 ضیف (ضحی) - جوان، بہت سے بہانہ جو
 ضیفی، افسانہ، افسانہ، ضیف، پہلو۔
 ضیفان (ضحی) - جوان، بہانہ۔
 ضیفین (ضحی) - جن میں لایا بہانہ جو ضیفی کہ۔
 ضیفین (ضحی) - جنگ، فتنی، بانی، گھونٹ، تنگ۔
 ضیفہ (ضحی) - غم، شگفتگی، بد حالی، درد، دہشی
 جو ضیفی۔
 ضیق (ضحی) - فتن، فتن، س،
 ذمہ کی بیماری۔
 ضیکل (ضحی) - جنگ، جو پڑھنے کو نہ ہو۔
 ضیل (ضحی) - ڈبلا، چھوٹا، سختی، زبان۔
 ضیم (ضحی) - پھارگھا، ڈبلا، شہ، کلکتا۔
 ضیوں (ضحی) - دن، ڈبلا، جو ضیوں۔

ط

ط (دکار، ط، محفوس حرف عربی، قائم مقام عدد ۵، حرف شمسی، چند حرف سے بدل کر ۱۔ ت کے ساتھ مثلاً طبرزد، تبرزدو۔ د کے ساتھ مثلاً خطشہ، قدرتہ۔

طاب (دکات، خوشبو۔ طابع (دکا۔ بئج، جھاننے والا، زمانہ دار، برشت (دکا۔ بئج، انگوٹھی، جگٹ، جس پر چھاپا جاوے جم طوا بئج۔

طابن (دکا۔ بئج، تو، تانبہ۔ طابن (دکا۔ بئج، زبرک، عقلمند۔ طاہور (دکا۔ بئج، پٹن کا ایک حصہ۔

طابہ (دکا۔ بئج، شراب، سمجور، نمبرہ منورہ۔ طاثر (دکا۔ بئج، گاڑھا دودھ۔ طاجن (دکا۔ بئج، کر دھانی، قرانی پان۔ طاحون (دکا۔ بئج، طاحون، دکا۔ بئج، بچنی۔

طاریف (دکا۔ بئج، تازہ اور اچھا مال۔ طاریق (دکا۔ بئج، صبح کا ستارہ، سخت حادثہ، رات کو پھینڈا والا جم طوارق۔

طارم، طارمہ (دکا۔ بئج، ریمہ، کھڑی کا مکان، بالاخانہ، بلند مکان۔ طاری (دکا۔ بئج، ظاہر ہونے والی چیز، نیچے اترنے والی چیز۔

طاس (دکا۔ بئج، طشت۔ طاسک (دکا۔ بئج، چھوٹا سا طشت۔ طاسہ (دکا۔ بئج، ایک چھوٹا ڈھول۔ طااط (دکا۔ بئج، دست اونٹ، بلند پھلنگر، الو آدمی۔ طااطا (دکا۔ بئج، نشیبی زمین۔ طاعت (دکا۔ بئج، بندگی، عبادت جم طاعات۔ طاعن (دکا۔ بئج، طنز، زن جم طعان۔

طاعون (دکا۔ بئج، مہلک اور مگ عام اور بانی بخار، زہر، سخت مہلک سے جم طواعین۔ طاع، طاعنی (دکا۔ بئج، کھانسی، حکومت کا نامزد، بھد گنگار۔

طاعت (دکا۔ بئج، بت، شیعان جم طواعیت۔ طاعونی (دکا۔ بئج، شیطانی۔ طاعیہ (دکا۔ بئج، سنگسار، بجلی، زیادتی کرنا والا۔ طاعت (دکا۔ بئج، طمان کرنا والا، گشت لگانا والا۔

طاع (دکا۔ بئج، شراب بنی کریدست۔ طاعی (دکا۔ بئج، پٹی پیر پانی پر تیرا آنے والی۔ طاق (دکا۔ بئج، خریدار چیز، اکرلا، عدد چودہ سے تقسیم نہ ہو، بناوہ جم طاقان، طاقات۔ طاقت (دکا۔ بئج، قوت، زور، توانائی، بجگا، طاقت دیوار جم طاقات۔

طاقمہ (دکا۔ بئج، چھ، چھوٹا طاق۔ طاقتہ (دکا۔ بئج، قیامت، سختی، توانائی، کپڑے وغیرہ کا تھان۔

طاقی (دکا۔ بئج، ایک ٹوٹی، دورنگی آنکھ والا۔ طالب (دکا۔ بئج، ڈھونڈنے والا جم طالب، طالب علم، طلبہ، طلبہ، طلبت، طالبات۔

طالب علم (دکا۔ بئج، طلبہ، علم کا طلبگار۔ طالب علمی (دکا۔ بئج، طلبہ، علمی حاصل کرنے کی حالت، علم کی طلبگاری۔ طالع (دکا۔ بئج، بدکار، بد آدمی۔

طالع (دکا۔ بئج، انجمن، طسوع کرنے والا۔ طالع آزمائی (دکا۔ بئج، آرزو، کائناتی قسمت آزمائی۔ طالع شناس (دکا۔ بئج، بھٹاس، نجومی۔ طالع شناس (دکا۔ بئج، قسمت در۔

طالع شدی (دکا۔ بئج، بئج، درجی، قسمت درسی۔ طالعور (دکا۔ بئج، درج، خوش قسمت، دولت مند۔

طالع دوری دکا - ریح - کردی خوش تسبیح -
 طالعہ دکا - ریح - روشنی ، طلوع کرنے والی
 جم طوا - ریح
 طالق دکا - ریح - بے روک ، رہا ، طلاق دی
 ہوئی عورت جم طوا ریح -
 طامات دکا - مات (بنا دینی صوفیوں کے ہتھکنڈے
 اور ن ترانیاں -
 طامت دکا - ریح ، حیض والی عورت -
 طامح دکا - ریح (سرکش ، ہند -
 طامح دکا - ریح ، لالچی جم طامح -
 طامہ دکا - مات ، نہ سختی ، بلا ، قیامت -
 طاووس دکا - طاووس ، دیکھو طاووس -
 طاولہ دکا - ولہ ، مینہ ، مین -
 طاوی دکا - ریح ، بھوکا -
 طاہر دکا - چہرہ پاک ، جم اظہار -
 طاری دکا - ہی ، بارہی -
 طاکھ دکا - ریح ، مہلک حادثہ ، ہلاک شدہ
 جم طوا ریح -
 طاکر دکا - ریح ، پرند ، فال بد ، عمل ، پتنگ
 جم طیر جم جم اظہار ، طیر -
 طامح دکا - ریح ، فرماں بردار جم طوا ریح -
 طائف دکا - ریح ، طوفان کرنے والا ، حال جو نیندیں
 متحمل ہو کر نظر آئے ، نام شہر (حجاز)
 طاقتہ دکا - ریح ، آدمیوں کی کوئی چیز کا ٹکڑا
 جم طوا ریح -
 طائل دکا - ریح ، بے باک ، بے تیر ، فائدہ ،
 افزودنی ، مالدار -
 طاویں دکا - ریح ، مورجم طوا ریح ، طایمان
 طائی دکا - ریح ، عریضی کے کی طرف منسوب -
 طب ریح ، ریح ، عسلان جسم اور جاں کا
 نرمی ، جادو -

طبابت ریح - بٹ ، طب ، عسلان کا علم -
 طبایح ریح ، کتب ، باغ جم بارہی -
 طبایحہ ریح ، کتب ، باغ ، باورجن ، مانا -
 طباشیر دکا - شیر ، منسوجین ، کھرباشی -
 طبایح ریح ، کتب ، باغ ، تیز طبیعت ، سہلے میں کھائی
 دالا ریح ، طبیعت کی جح -
 طباحت دکا - ریح ، عشت ، چھائی -
 طباعی ریح ، کتب ، باغ ، طبیعت کی تیزی -
 طبایق ریح ، کتب ، بڑی رکابی -
 طبائی ریح ، کتب ، قحی ، حوالی سواہی -
 طبایل ریح ، کتب ، بان ، طبعی -
 طبائی ریح ، کتب ، کتا ، ریح ، طبع ، بجائے کتا ہنر -
 طبایہ دکا - ریح ، نہ عقلمند ہونا -
 طبایح دکا - ریح ، طبیعت کی جست -
 طبع ریح ، کتب ، پکانا -
 طبع خشت دکا - ریح ، خش ، ت ، خاک کی رنگ کا
 ایک گوگرد -
 طبر زو دکا - ریح ، ریح ، مصری ، ایک سفید پتھر -
 طبع ریح ، کتب ، ریح ، سرشت ، مزاج جم اظہار
 چھائی ، نقش کرنا ، چھاپنا ، ٹھیس لگانا
 ریح ، رنگ ریح ، دن بہت جم اظہار
 ریح ، کتب ، پکانا ، منگ ، مری ، رنگ ،
 میں جم اظہار -
 طبعی ریح ، کتب ، منسوب بہ طبیعت ریح -
 منسوب بہ طبع -
 طبق ریح ، کتب ، کتب ، طبع ، دستور
 ٹیڑھی دل ریح ، کتب ، طبع ، برابر
 عورت کی شرمگاہ ، رکابی جم اظہار
 اظہار -
 طبقہ ریح ، کتب ، کتب ، خواہجہ -
 طبق زن ریح ، کتب ، زن ، چھٹی پڑانے والی -

طبقة زینقہء طبقات منزل در جہیم طبقات -
 طبل در عقب ال، ہونک، ڈھول، نقارہ
 جہ آطبائل، اطبویل -
 طبلق (طبقت) لقم، کاغذی بندن، قیدک -
 طبلک (طبقت) کاک، چھوٹا ڈھول -
 طبلہ (طبقت) لہ، ایک قسم کا ڈھول -
 طبلین (طبقت) عقلمندی -
 طبی (طبقت) بینی، منسوب بہ طب (طبقت) ہی، تھن -
 طیبیب (طبقت) معالج جہ اطبائل، اطبیلہ،
 طیبیان -
 طیبسی (طبقت) بینی، منسوب بہ طیبیب -
 طبع (طبقت) بوج (خریزہ، خرزوزہ) (طبقت)
 طبقات (طبقت) غایت، علم، موجودات، فزکس -
 طبیعت (طبقت) طبیعت، مزاج، نحو، عادت،
 پیدائش جہ طیبیان -
 طبیعی (طبقت) بینی، خلقی، پیدائشی، منسوب بہ طبیعت -
 طب (طبقت) بقدراری، ہر شکل، بکار -
 طبا (طبقت) دکھان، بقدر ہوتا ہوا -
 طبیان (طبقت) دکھان، نہ، چاہنا، چھپنا -
 طبیان (طبقت) دکھان، نہ، چاہنا، چھپنا -
 طبقتش (طبقت) بقدراری، بگری -
 طبقتہ (طبقت) نہ، بقدر ہونے والا -
 طبیان (طبقت) بینی، نہ، بقدر ہونا، مضم، طبقتہ
 طبقتہ (طبقت) نہ، بقدر ہونے والا -
 طبائل (طبقت) طبی، دکھان، طبی کی ایک بیماری -
 طبائے (طبقت) نہ، بقدراری، بسنے والی -
 طحلل (طبقت) غضبناک، طحلل، ہی، بڑھانا -
 طحلل (طبقت) نہ، طبقت، نہ، ہی، کائی -
 طحمہ (طبقت) نہ، بڑھی چیز، طاحت (طبقت) نہ،
 سخت، لڑاک -

طحن (طبقت) نہ، آٹا، دھن، آٹا، مینا -
 طحین (طبقت) نہ، لیسا ہوا -
 طحینہ (طبقت) نہ، مہ، ٹکڑوں، ناک کی چھک کی -
 طخوہ (طبقت) نہ، ہڈی، ہڈی کا ٹکڑا -
 طر (طبقت) نہ، سب، اکل، تمام، قطر، کاٹنا، پھانڈنا
 چاڑھنا، مسین، بھیگنا -
 طرالیس (طبقت) نہ، پھنس، نام شہر (مشیم)
 نام ملک (شمالی افریقہ) -
 طراح (طبقت) نہ، ڈور، قطر، کارج، نقاش -
 طراحی (طبقت) نہ، کارج، نقاشی -
 طرار (طبقت) نہ، جیلہ، گریز، گھٹکٹا -
 طرارہ (طبقت) نہ، تیز، تیزی سے تھکر -
 طرارمی (طبقت) نہ، تیزی، تیزی -
 طرارڑ (طبقت) نہ، نقش، بھار، نقش کرنے والا -
 طرارندہ (طبقت) نہ، زن، زن، نقش کرنے والا -
 طرارین (طبقت) نہ، زین، زن، نقش کرنا
 سہم، طرارڑ -
 طراریدہ (طبقت) نہ، زین، زن، نقش کرنے والا -
 طراق (طبقت) نہ، دھماکا، تڑا، تھا -
 طراوت (طبقت) نہ، تازگی -
 طرائف (طبقت) نہ، رہنمائی کی جگہ -
 طرائق (طبقت) نہ، رہنمائی کی جگہ -
 طرایہ (طبقت) نہ، دیکھو، تلا -
 طرب (طبقت) نہ، خوشی، نشاط، شوق
 جہ طرب -
 طربالی (طبقت) نہ، لمبہ سارہ -
 طربوش (طبقت) نہ، پوش، ترکی ٹوٹی -
 طربوزہ (طبقت) نہ، زین، مینا، طاوول، طبل،
 طرب (طبقت) نہ، کول، بنیاد، نقاشی،
 ہی عمارت کا نمونہ، ڈرائنگ، تمام کرنا
 طرب (طبقت) نہ، در، نقاشی، طور، طرز -

طرموش (طرح نمونہ، چابل۔
 طرنو (طرس۔ نو، چال، روش۔
 طرح (طرن، رون)، زلف، نیش، بھیندنا بھی، کلنی،
 چھبھہ جم طرکہ، آطرار۔
 طری (طری، سنا، تازہ۔
 طریان (طریان، حادث ہونا، وارد ہونا۔
 طریہ (طریہ، ہنکا یا ہوا۔
 طریہ (طری۔ ذہم حملہ، راہزن، پیرا۔
 طریہ (طریہ، خوبصورت اور ظہار، جم طرا،
 طریف (طریف، کمائی، اونکھی چیز، طریف،
 طریف۔
 طریق (طریق، ڈھنگ، راہ، راستہ، مذہب،
 تیز مندیہ جم طریف، طریف، اطرقت،
 اطرقت، طریف، وقت، راہ، ترکیہ باطن۔
 طریفہ (طریف، ڈھنگ، راہ، روش، مذہب،
 طریف، برسی، قد، شستی، کزوری۔
 طست، طس، ت، دیکھو طشت۔
 طسوج، طس، سوچ، کنارہ، کونہ، یاد،
 دانگ، زوجہ جم طس، سوچ۔
 طشت (طس، ت، تنہال، چلبھی۔
 طشت از باہم طشت، ت، از تہ، باہم، افشا کرنا۔
 طحام، طقام، کھانا، خوش جم اطمحہ۔
 طحان (طحان، طامن کی جمع۔ م،
 طعم، طعم، م، مزہ، لذت، طعم، م،
 آخوراک، جو کھا۔
 طعمہ (طعم، تہ، روزی، خوراک جم طعمہ،
 طعم، تہ، ایک دفعہ کھانا۔
 طعن (طعن، ن، عیب پسند، اور چھابازی۔
 جم مظالمین بر چھاندنا، عیب نکالنا۔
 طعنہ (طعن، تہ، عیب پسندی، قرح۔

طرح افشاندن (طرح۔ ان۔ نشان دہن)
 بنا ڈالنا، بڑوں ڈالنا۔
 طرح واون (طرح۔ ڈا۔ ڈن، پہلو بجانا۔
 طرحدار (طرح۔ ڈا، ڈن، خوبصورت، باوضع۔
 طرحداری (طرح۔ ڈا۔ برسی، خوبصورتی۔
 طرحخان (طرح، خان، نام ساگ، جسکو خدمت سوانہ ہو
 طرحون (طرح، خون، نام درخت، جسکو طاقرقمان
 طرو (طرح، ایک پینڈہ، جم طرو، طرو، طرو،
 کپڑے، کپڑے، ہنگانا۔
 طرو (طرو، طرہ کی جمع۔
 طرز (طرز، روش، تاعدہ، طریقہ۔
 طرس (طرس، نامہ، کاغذ، صحیفہ۔
 طرش (طرش، بہرین۔
 طریب (طریب، طریقت، بڑی چھتیاں لگی ہوئی۔
 طرف (طرف، کنارہ، جانب، ٹھکانا، حصہ،
 مقابل، حریف، وقت جم اطرقت،
 طرف، آنکھ، آنکھیں، جو انزرد، کریم۔
 طرفا (طرف، خا، جھاڑ، کاپیر، گز۔
 طرفہ (طرف، طرف، متعل۔ عین، ایک مرتبہ
 آنکھ کی جھپک۔
 طرف ثانی (طرف، ثانی، مقابل۔
 طرفدار (طرف، ڈا، جانب دار۔
 طرفداری (طرف، ڈا۔ برسی، جانبداری
 طرفہ (طرف، ڈا، ایسی چیز، اونکھی چیز جم طرف
 طرف، آنکھ میں چوٹی، برسی، پلک کی جھپک۔
 طرف (طرف، نے، جگہ، اندک، بیوہنی سا۔
 طرفین (طرفین، دونوں جانب۔
 طرفی (طرفی، طرفی، طرفی کی جمع۔
 طرفوا (طرف، رفق، رسد، جوڑو، مٹ جاؤ۔
 طرفوا (طرف، رفق، ڈن، طرفوں میں والا، نقیب۔
 طرفم (طرف، م، گناہ، شاہد۔

- طو، کڑھ، بہت طوان کزوالا، بھولا خاندنگار۔
 طوالٹ (طوا۔ کٹھن) درازی۔
 طوالح (طوا۔ طح) طالعہ کی جس۔
 طوامیہ (طوا۔ میہ) بیڑ، خوار کی جس۔
 طواخ (طوا۔ اخ) طلاکھ کی جس۔
 طوالف (طوا۔ ان) اٹالکھ کی جس، بیوا، گانوالی۔
 طوب (طو۔ بی) بچی امیٹ، آجر۔
 طوبی (طو۔ با) نام ہشتی، میوہ دار پیڑ کا۔
 طود (طو۔ د) بڑا پیڑ، پہاڑ۔
 طور (طو۔ ر) جزیرہ نما سینا کا ایک بساڑ (طور)،
 انڈیا، ڈھنگا ایکرتبہ جم آٹوار۔
 طوس (طو۔ س) دیکھتوس۔
 طوسی (طو۔ سی) ایک بیغنی رنگ۔
 طوط (طو۔ ط) کیاس، بسا جھکڑا آدمی۔
 طوطا (طو۔ طا) نام پرند، سوا۔
 طوطک (طو۔ تک) نام ساز۔
 طوطی (طو۔ طی) توتی، ایک چوٹی ہری چڑیا۔
 طوطیا (طو۔ طیا) دیکھتوتیا۔
 طوع (طو۔ ع) رغبت، اطاعت۔
 طوعا (طو۔ عا) از روئے اطاعت۔
 طوعا و کرہا (طو۔ عا و کرا) عین، کرا۔ عین، کرا۔ عین۔
 طوع (طو۔ ع) عین، کرا۔ عین، کرا۔ عین۔
 طوع (طو۔ ع) عین، کرا۔ عین، کرا۔ عین۔
 طوف (طو۔ ف) سیرا پھیرا چکر، گھوم۔
 طوفان (طو۔ فان) سب پرچھا جانے والی چیز، ٹانگا۔
 مصیبت (طو۔ فان) کسی سے گرد بھرنے۔
 طوفانی (طو۔ فانی) تانی، طوفان والی چیز۔
 طوق (طو۔ ق) مہلی، کٹھن، حلقہ، دست۔
 طاقت جم اٹوائی۔
 طوکیو (طو۔ کیو) کو کیو دار حکومت جاپان۔
 طول (طو۔ ل) ابائی (طول)، بخشش۔

عائدہ عا۔ نذر، گرہ لگانے والا، حمد کرنے والا۔
 عاقرا، عا۔ نذر، مرد جس کے نطفہ سے اولاد نہ ہو
 بانجھ عورت جم عواقرہ۔
 عاقر قرحا، عا۔ نذر۔ ترو۔ خاک، بیخ طخون، کاکرہ،
 نامرد جو موت باہ کے لئے بے مقصد ہے۔
 عاقل، عا۔ نزل، ہنر، زیرک جم عاقلان، عاقلان
 عاقلہ، عا۔ نذر، عقلمند عورت۔
 عاکف، عا۔ کف، گوشہ نشین، جم عاکفین
 عالم، عا۔ علم، جاننے والا، علم والا جم علماء،
 علمدار، عالمان، عالم، دنیا، مخلوقات
 جم عوالم۔
 عالم آب، عا۔ علم، آب، شراب نوشی۔
 عالم اجسام، عا۔ علم۔ آج۔ سنام، دنیا۔
 عالم ارواح، عا۔ علم۔ آؤ۔ کراخ، عالم غیب
 عالم اسباب، عا۔ علم۔ آسن۔ بابت، دنیا۔
 عالم مال، عا۔ علم۔ بامال، آسانی، دنیا۔
 عالم غیب، عا۔ علم۔ غیب، آسانی، دنیا جو اصل
 سے عا۔ علم۔ غیب، غیب کا حال جاننے والا۔
 عالمگیر، عا۔ علم۔ گیر، دنیا پر چھا جانے والا۔
 عالم معنی، عا۔ علم۔ معنی، دنیا، وہ عالم جو
 محسوس نہ ہو سکے۔
 عالمی، عا۔ رخی، دنیا کا رہنے والا جم عالمیان
 عالی، عا۔ رخی، بلند، برتر جم عالی
 عالیجاہ، عا۔ رخی، جاہ، بلند مرتبہ۔
 عالیجناب، عا۔ رخی، جناب، بلند مرتبہ۔
 عالی شان، عا۔ رخی، شان، بجز شاندار۔
 عالی قدر، عا۔ رخی، قدر، بڑے مرتبہ کے لائق۔
 عالی مقام، عا۔ رخی، مقام، بڑے درجہ والا۔
 عالیہ، عا۔ رخی، بلند، اولیٰ۔
 عالم، عا۔ علم، سمجھنے والی، ہمہ عالم سب پر چھائی
 ہوتی چیز، عا۔ علم، سال، جم عوالم

عائتہ المسلمین، عا۔ علم، مثل، جس۔ یلین
 عام، مسلمان لوگ۔
 عامر، عامرہ، عا۔ برز، عسا۔ برزہ،
 مسور، آبا و اجداد، آباد کرنے والا۔
 عامل، عا۔ بن، حاکم، عمل کرنے والا
 جم عمال، عمک، عوازل، عالمین۔
 عاملہ، عا۔ بن، عمل کرنے والی، حاکمہ
 عام و فاضل، عا۔ صو، فاضل، کہ دوسرا ہمہ شہ۔
 عامہ، عا۔ مہ، عام آدمی، عام، مشہور
 سب پر چھائی ہوتی چیز، ہر طرف پھیلی ہوئی۔
 عامی، عا۔ رخی، ناخواندہ، جاہل۔
 عالمہ، عا۔ بند، دشمن، عدا درکھنے والا۔
 عائدہ، عا۔ بند، پیڑ، شرمگاہ کے مال۔
 عائنی، عا۔ رخی، امیر، لہو بخون، قیدی۔
 عائنیہ، عا۔ رخی، اسیر عورت۔
 عاہت، عا۔ رخت، آفت، جم عاہات۔
 عاہر، عا۔ رخت، حرامکار، زانی۔
 عاہرہ، عا۔ برزہ، حرامکار عورت۔
 عاہل، عا۔ پل، بے شوہر دالی عورت۔
 عاہین، عا۔ ہن، محتاج، دست آدمی، کابل۔
 عاہب، عا۔ ابن، عیسوی جم عواہب۔
 عاہد، عا۔ رخی، اللہ آنے والا، حمد کرنے
 والا جم عواہد۔
 عاہدہ، عا۔ رخی، محصول، رسم و رواج
 جم عواہد۔
 عاوق، عا۔ ابن، مانع، بازار کھنے والا
 جم عواوق۔
 عاکل، عا۔ ابن، فقیر، درویش۔
 عاکلہ، عا۔ راک، خاندان
 عاکلی، عا۔ رخی، فقیر، درویش۔
 عائین، عا۔ ابن، مدکار، جم عواہد۔

عشرہ رعیشہ - برہہ ہمارے -
 عافرت رعیشہ - کشت لغزش ہم ہمارے -
 عثمان رعیشہ - سامان - کوزہ منزلی ترک
 عجباب رعجاب ، عجوب -
 عجبا ج رعجاب ہمارے ، گردہ
 عمالت ، عمالہ ، عمالہ - کت ، رعجا - لہ ، جسد
 بازوی ، جلدی -
 عجام رعجام ، ہر چیز کا دانہ رعج ، عجام ،
 جہنگل ، اباہل -
 عجائب رعجا ، ریت ، عجیب کی صفت -
 عجائبات رعجا ، ربات ، عجائب کی صفت -
 عجیب رعجب ، اجنبی ، عجیب رعج ، عجیب ،
 باہان ، آخر کار ہم عجوب رعج ، عجیب ،
 گنہگار ، غرور ہم اعجابات -
 عجد رعج ، اگور کا دانہ -
 جرد رعج - کوزہ ، جینوٹا ، بڑی جینوٹا -
 جرد رعج ، کوزہ ، ماجزی ، نالوانی رعج ،
 چوڑے ہم اعجاز -
 جرد رعج - ڈا ، بھاری چوڑے والی عورت -
 جرد رعج ، لاغری ، ڈپلان رعج ، ڈپلا
 لاغری ہم عجاف -
 جرد رعج ، لہ ، بچھا ، ہم عجاف ،
 اعجاب رعج ، جلد باز ، عجل ، جلد ، جب -
 جلد رعج - کت ، جلدی رعشانی -
 جلد رعج ، کڑھی ، بھیبہ ، رہت رعج ، لہ
 بچھا ، گائے کی بچی -
 جرد رعج ، خیر عرب ، ایران ، توران ، دانہ
 رعج ، م ، لفظ یا اعراب گانا رعج ، م ،
 اچھ کی صفت -
 جرد رعج ، ایرانی ، تورانی ، خیر عربی -
 جرد رعج ، خیر کرنا رعج - ن ، ہا ، کھلیک

اٹھنا ، کوندھنا -
 عجوبہ رعجو - بے ، اٹھنا پیر -
 عجور رعجو ، بڑھنا ، بڑھی عورت ہم عجاب رعج ،
 عجول رعجول ، بہت دھرنے والا رعج ، عجول
 گائے کا بچہ ہم عجبا رعجل -
 عجو رعج - ڈہ ، قسم بھوڑا زینہ منورہ
 عجب رعج ، عجب ، عجب ، عجب ، خاکینہ -
 عجیب رعجب ، انوکھی چیز ہم عجائب ،
 عجب رعجب -
 عجیبہ رعجب ، بے ، عجیب کا موٹا -
 عجیب رعجب ، نامرد ، عورت کے ناقابل -
 عجیب رعجب ، ڈپلا ، نزار -
 عجیل رعجل ، جلد باز -
 عجین رعجبین ، گندھا ہوا ، خیر -
 عد رعڈ ، گننا ، شمار کرنا -
 عد رعڈ ، شمار -
 عد رعڈ ، دار ، علاج کشتیان -
 عد رعڈ ، کت ، انصاف ، انصاف کی
 پیری ، ریت گواہی ، برابری -
 عد رعڈ ، کت ، دشمنی ، پیر -
 عد رعڈ ، کت ، شمار ، عیب کی شمار
 عد رعڈ ، کت ، عدت کی مدت ، عدت رعڈ
 عد رعڈ ، تیار ، آبادگی ، سامان ، ساخت -
 عد رعڈ ، ہندسہ ، گنتی ، شمار ہم
 عد رعڈ -
 عد رعڈ ، اٹھنا ، اٹھنا بہ عد -
 عد رعڈ ، مسود -
 عد رعڈ ، پانا ، عدس ، بنا ، دار ، کھرت جنتہ -
 عد رعڈ ، انصاف ، بنا ، ماندا -
 عد رعڈ ، عدل ، عدل ، عدل کی گنتی -
 عد رعڈ ، عدل ، عدل کی صفت -

عز و عزت ، عزت ، ارجمندی ، عزت تادر ، غائب -	عروج ، عروج ، ترقی ، جھڑواؤ۔
عزاد عزاء ، ماتم پرسی ، مصیبت پر صبر۔	عروس ، عروس (دلہا) عروس (دلہن)
عزاد خانہ ، عزادگانہ ، ماتم پرسی کا مکان۔	جہ عزاء یعنی
عزاد دار ، عزادگانہ ، ماتم پرسی کرنے والا۔	عروس البھلاؤ (عروس - صلح - بلاد) سب سے
عزاد واری ، عزادگانہ ، ذار پرسی ، ماتم پرسی کرنا۔	غضب و تندرستی ، شہرہ کی دلہن۔
عزاد زبیل ، عزادگانہ ، ذیل ، نام شیطان۔	عروس الخطوط (عروس - قتل - خطوط) ایک رسم الخط۔
عزاد محکم (عزا - ام) ، عزیمت کی جمع۔	عروس سائہ (عروس - سائہ) عروس کی مانند۔
عزب (عزا ، عزت ، بے بیوی والا) بے شوہر	عروس سگ (عروس - سگ) لڑکیا ، ایک بیوی والا
دلی جہ عزت۔	جھوٹی مٹھنیاں ، بی بیوی۔
عزت (عزت ، زکوہ) ، توجہ ، پرکھا۔	عروس پرسی (عروس - پرسی) ، شادی بیاہ سے نسبت
عزت طلب (عزت ، زکوہ) ، کلکتہ ، عزت جاننے والا۔	رکھنے والی چیز ، عروس کا ، عروس کی۔
عزت طلبی (عزت ، زکوہ) ، کلکتہ ، عزت جاننا۔	عروض (عروس ، عرض) ، عرض کی جمع ، عارض ہونا
عزرائیل (عزت - ذرا - ایل) ، موت کا فرشتہ۔	(عروس ، عرض) عروسوں کرنے کا عمل ، مستعمل اور
عزف (عزف ، عزف) ، ہوا کی سائیں سائیں۔	دین منورہ ، حاجت ، برابر ، مٹی - سخن۔
عزل (عزل ، عزل) ، علیحدگی ، برطرفی (عزل)	عزوف (عروس ، عزل) ، بڑھاپا ، دالا ، ہار۔
انزل کی جمع۔	عزوق الصبح ، عروس - قتل - صبح ، بخ ، بلدی۔
عزلت (عروس ، عزل) ، گوشہ نشینی۔	عزودہ (عروس - عروس) ، دستہ ، گرفت ، کاج ، کوندہ۔
عزول و نصیب (عروس - عروس) ، بے تفریق دکانی۔	عزودۃ الوحی (عروس - عروس) ، وحی دینا ، مضبوط گرفت۔
عزوم (عروس ، عزوم) ، قصد ، ارادہ جم عزومات	عزوی ، عزایان (عروس ، عزایان) ، برہنہ ، ہنگامہ
عزود (عروس ، عزود) ، نسبت دینا ، صبر کرنا۔	عزوانہ (عروس - عروس) ، نہ ، تنگی عورت برہنہ عورت۔
عزوم (عروس ، عزوم) ، بڑھاپا عورت۔	عزوانی (عروس - عروس) ، نہ ، تنگنا ہن ، برہنہ۔
عزومات (عروس ، عزومات) ، ہشت ، امر۔	عزوب (عروس ، عزوب) ، عرب کی تصغیر ، جھوٹا سارب۔
عزومی (عروس ، عزومی) ، عزیمت عورت ، عزوم کا معنی۔	عزولین (عروس ، عزول) ، دلہا ، عروس (عروس) ، بچھاؤ۔
عزوم (عروس ، عزوم) ، پیارا ، محبوب ، مرغوب ، غائب	عزولین ، عریضہ (عروس ، عزول) ، سنہ (سنہ)
کتاب جم آعزومہ	جھونپڑا ، ہودج ، چھٹی ، گھونپڑا۔
عزومی (عروس ، عزومی) ، عزیمت ، عزیمت ، کمزور	عزولین (عروس ، عزول) ، چوڑا۔
بجائے تصیر غائب۔	عزولین (عروس ، عزول) ، عریضہ (عروس) ، خط جم عزولین۔
عزولین (عروس ، عزول) ، عزیمت ، عزیمت کی آواز	عزولین (عروس ، عزول) ، بچاؤ ، بچاؤ والا جم عزولین اور عزول
عزولیم (عروس ، عزولیم) ، ہشت ، دشمن۔	عزولین (عروس ، عزول) ، ساروا ، قوم ، نقیب۔
عزولیت (عروس ، عزولیت) ، قصد ، ارادہ ، انگن	عزولین (عروس ، عزول) ، ساروا ، قوم ، نقیب۔

سنتھرا، جاوو، دوماج، عزائم -
 عس (عش) چونی بیالہ، کھوٹی -
 عسار دغلاز، دردیشی، فقیری، کنگالی -
 عسارت اعشا، زنتا، دیکھو عسرت -
 عساکر اعشا، کزد، عسکر کی جمع -
 عساکر نظامیہ اعشا - کزد - لٹا - جی (یہ) -
 باقاعدہ فوج -
 عسالہ (عش) سا، لہ، جہان، مکھی -
 عسجد (عش) - جاز، سونا، جواسرات وغیرہ -
 عسجہ (عش) - راء، عشتر، دشواری، جھڑ، دشوار، عش -
 عسجد اعش - زاکو، کھٹی، بانڈی -
 عسرت عش - زنتا، کنگالی، دشواری، کنگالی -
 عسس اعشس، عاس کی جمع، کولوال -
 عسف (عش) - ن، براہ، روی، بڑا بیالہ -
 عسقل (عش) - قل، ساروخ، کلاہ زمین -
 عسکر (عش) - کزد، لشکر، فوج، جم عساکر -
 عسکری (عش) - کزد، جی، لشکر، فوجی -
 عسکریہ (عش) - کزد، فوجی خدمت -
 عمل (عش) - شہد جم اعشال، محصل،
 عشوال، عشلان، عشل، ل، سائینی،
 بے حد تعریف
 عسلی (عش) - بزدلی کا زرد امتیازی نشان -
 عسوم (عش) - م، لالچ، لوہے -
 عسن (عش) - بڑائی، جسدی -
 عسوف (عش) - ہستکار، براہ -
 عسی (عش) - یقین، شاید، قریبے -
 عسیر (عش) - مشکل، دشمن -
 عسیف (عش) - سلف، مزدور جم عسفا، عش
 عش (عش) - شور، ڈھلا آدمی (عش)
 عشوں سلاج عشاش -
 عشا (عشا) رات کا اندھیرا، رات کی نماز

اعشا، رات کا کھانا، عشاب کوری -
 عشاق (عش) عشاق، عاشق کی جمع -
 عشب (عش) - با، دوبا، ہری، کھاس جم اعشبا -
 عشبہ (عش) - بیہ، نام دوا، سار سیرلا -
 عشتر (عش) - مشرہ کا موٹ، دس، عش (عش) -
 دسواں حصہ جم اعشاکر (عشتر) - پیرطین
 میں دودھ تلخ جم عشترات (عشتر) -
 دسواں حصہ لیا -
 عشرت (عش) - ریح، عیش، نشاط، خوشی -
 عشتر عظیم (عش) - ر - عشیر، دسویں کا
 دسواں حصہ یعنی تلوواں حصہ -
 عشرون (عش) - جڑن، بیس (۲۰) -
 عشورہ (عشورہ) عش - زو، ڈبائی، دس،
 حرم کے شروع دس دن جم عشترات -
 عشورین (عشور) - رین، دیکھو عشرون -
 عشوش (عش) - عش، کلمہ حیرت -
 عشق (عش) - ق، محبت، شیفتگی -
 عشقیار (عش) - ق، باز، چاہے والا -
 عشقیاری (عش) - ق، با، زانی، جاہت -
 عشق بیجاں (عش) - ق - بے جاں، نام بھولاری
 عشقہ (عش) - عشق، بیجاں -
 عشم (عشم) - سوکھی روٹی، عش - م،
 ہواس، لالچ، لوہے -
 عشق (عش) - عش، لبیا، لٹھ -
 عشور (عشور) - جنگی کا محصول -
 عشورا (عشور) - کزد، دیکھو عاشورہ -
 عشوق (عشوق) - بڑا عشق کرنے والا -
 عشوہ (عش) - زو، پوشند حرکت، ناز انداز
 دور کی آگ جو زخم آدے -
 عشوہ گر (عش) - زو - ناز، ناز دکھانے والا -
 عشوہ گری (عش) - زو - گری، ناز، انداز دکھانا -

عشہ، عش، ششہ، جھونپڑی۔
 عشی (عشقی) سرشام (عشقی) رات کا کھانا۔
 عشیت (عشقی) بیت، رات کا وقت، شبانگاہ۔
 عشیرہ (عشقی) زرد، کسبہ قبیلہ، اہل خانہ
 جم عشق برہ۔
 عشیق (عشقی) بہت دوست رکھنے والا، عشوق
 عشیقہ (عشقی) بہت دوست رکھنے والی
 عصا (عصا) لاکھی، ہاتھ کی لکڑی، عصا
 عصی، عصی۔
 عصاب (عصابت) بیٹی۔
 عصابہ (عصا) نہ، عربی سرسند، بیٹی۔
 عصات (عصابت) عاصی کی بیٹی۔
 عصار (عص) صا، تیلی، روغنکر۔
 عصارہ (عصا) رے، رس، نضد، پوڑا ہوا۔
 عصام (عصام) مشک، اٹھانے کا شہہ،
 ڈول کی رسی۔
 عصب (عصب) عصب کی جمع، پچھ۔
 عصبہ (عصب) عصب، رے، پچھ، پے جم عصبیا
 جم عصبات اولاد کو، مرد شہہ دار
 جس کو درتہ ہوئے جم عصبات (عص)
 یہ، بیٹا تاجائش کی ٹوکڑی۔
 عصبی (عصبی) انسوب بہ عصب۔
 عصبیت (عصبی) بیٹ، طرف داری،
 خوشاندی، استواری۔
 عصب (عص) ار، زمانہ، آہرن، آخردن کی
 ناز، پوڑ جم اعصار، اعصار، اعصار
 عصارہ کان ایٹھا۔
 عصارہ (عص) رے، ٹفن، شام کی پوڑ
 عصب (عص) عصب، دھاری، دم نرہ۔
 عصار (عص) قر، کتبہ، کسم۔

عصفور (عص) شور، چڑا، چڑیا جم عصافیر
 عصمت (عص) رشت، یا کد انسی۔
 عصمو (عص) شہ، ریش، دولاب جم عصامیر
 عصمو (عص) (د) لٹھ، بارنا۔
 عصوف (عصوف) جھکڑ، اندھیاد۔
 عصوم (عصوم) ریشو، لسیار خوار۔
 عصوی (عصوی) انسوب بہ عصا، عصا کد
 عصیان (عصی) یان، آگناہ، یاب۔
 عصب (عصیب) طرف دار، رشتہ دار،
 پاکار، لکھ، جرنشہ۔
 عصیر (عصیر) انگوری شراب، پوڑ۔
 عصف (عصف) دانت سے کاٹنا، پوڑ
 چمانا (عصف) ہشیار، چتر۔
 عضا (عضا) کوتاہ تدا دروز بہ جسم
 (عضا) دستی زبور، ہاتھ کا کھنا۔
 عضاہ (عضا) دہ، توکھٹ، گولا، کھم۔
 عضا (عضا) اسخت کام، سختی ہماری۔
 عضاہ (عضا) ہر کانٹوں دار شہہ دارت۔
 عصب (عص) اب، توار، تیز زبان
 جم عصبوب۔
 عصبیت (عص) بی، تیز زبانی۔
 عصف (عصف) شہہ، بازو (عص) (م) اللاد
 عصف (عص) ل، بیوہ کو نکاح کرنے سے
 رکن (عص) ال، بہت خراب ہوا۔
 عصلہ (عص) نہ، سختی، بلا جم عصفل،
 عصفل (عصفل) عصفل، عصف۔ نہ، گوشت کی
 چکنی پوڑی جم عصفل
 عظم (عظم) م، پینا نہ، لکھی، پینا۔
 عضو (عص) د، نمبر، رکن، بدن کا شہہ
 جم اعصا (عص) (د) عطر،
 عطرے کرنا۔

علق رَعْلَقٌ، جما خون، چونک، آدرزاں
 رَعْلَقَانِ اَنْفِيسٍ اور قِيسِي جيزہ اَعْلَاقِ،
 عَسْوَقِي -
 علقم رَعْلَقٌ، قم، کڑوی چیز -
 علقفہ (علقفہ)، ایک چونک -
 علقم، علقم، جندا، اسم خاص، مشہور مردن، پہاڑم، اعلا م
 رَعْلَقَانِ م، آگاہی، اذیت، ہم علقوم -
 علما، علقارہ، عالم کی جمع -
 علم الحقوق رَعْلَقَانِ، علم حقوق، تانوں -
 علم العیقین، علم حق، عیقین، نیر و عیہ پاک یقین -
 علقدار، علقہ، ذات، جھنڈا رکھنے والا -
 علقداری، علقہ، ذات، برقی، جھنڈا رکھنا -
 علم لدنی (رَعْلَقَانِ م، کَلْدَانِ، دینی، خدا ر علم -
 علقیت (رَعْلَقَانِ م، علقی، علقی، واقفکاری -
 علقن، رَعْلَقَانِ، آشکارا جمع اَعْلَاقَانِ آشکارا
 ہونا، پکار کے کہنا -
 علو، علقو، بلند سی -
 علوص، رَعْلَقَانِ، کوہ ص، ایش کا درد -
 علوفہ، علقو، نہ، خوراک، روزینہ، کھانگی چیز -
 علوفی، علقو، علق، لگانا، لفظ نام ہونا -
 علوان، علقو، دیکھو علانہ -
 علوی، علقو، حضرت علیؑ کی اولاد حضرت
 زہراؑ کے بیٹن مبارک کے علاوہ ہم
 علویان، رَعْلَقَانِ، برقی، آسانی چیز -
 علہ، رَعْلَقَانِ، لاسوکن، اناغ، ہستی، ہرہ -
 علقی، علقی، بلند، نام اللہ تعالیٰ، علقا، ادیر
 رَعْلَقَانِ، میرے ذمے -
 ایسا، رَعْلَقَانِ، بلند مونت چیز (عقل سیار،
 بلند جگہ ہم علقا کیا -
 علی الاتصال، رَعْلَقَانِ، اتصال،
 لگا تار، پہلے درجہ -

علی الاطلاق، علقن، اطلاق، تعلق، قطعی،
 بالکل، بے قید -
 علی التواتر، علقن، تواتر، لگا تار -
 علی الحال، علقن، حال، ابھی بہت جلد -
 علی الخصوص، علقن، خصوص، خاصتر -
 علی الدوام، علقہ، کڈام، ہمیشہ -
 علی الرغم، علقہ، رزع، ہم، برظان، برعکس -
 علی الصباح، علقن، صبح، فجر، ہم -
 علیینا، رَعْلَقَانِ، ایلیٹ، گوجسی سی روٹی،
 درہیں -
 علقیق، علقیق، گھاس، دانہ، چارہ -
 علقفہ، علقفہ، تو بڑا -
 علقیل، علقیل، بیماری علت والا -
 علقیم، علقیم، علم والا، نام اللہ تعالیٰ -
 علیہ، رَعْلَقَانِ، یہ، بلند، بلند مرتبہ، ہنست کی کھڑکی
 ہم علقیقین (رَعْلَقَانِ م، اس کے ادیر -
 علی ہذا، علقا، ہا، ذرا، اس کے ادیر -
 علی ہذا القیاس، علقا، ہا، ذرا، قیاس،
 اس قیاس کے ادیر، قیاس کے مطابق -
 علیہم، رَعْلَقَانِ، ہم، ان کے ادیر -
 علیہما، علیہ، رَعْلَقَانِ، ہا، علی، ہا، اس پر
 ہے جو کہ اس کے ادیر ہے -
 علیین، رَعْلَقَانِ، دینی، علقہ کی جمع -
 علق، علق، تمام، اعلیٰ، آسم -
 علقا، علقا، گھر، آبی، اندھان، گھٹیا -
 علقا، علقا، کلمہ، ستون، چر علقا ذات
 علقا، علقا، ریمان، ڈہ، ستون، ہم علقا ذات
 علقہ، علقہ -
 علقارت، علقا، رت، تعمیر، آبادی، رت
 ہم علقارت
 عمارہ، علقا، رت، جہاں لگا بڑا -

عماری (عمکار) برمی، عم، امانا - برمی، اهوونج،
 عمل، ارتقا، آسمان -
 عمال (عم، امان، عامل کی جمع -
 عماسه، رعنا - مندا سا، دستار جم، عمال جم
 رعنا جم -
 عمان (عم، امان) نام شہر شام (عم، امان)
 سندھ انا ملک جنوبی مشرقی عرب،
 عمائد (عم، امان) عمید کی جمع -
 عمد (عم، امان) قصد، ارادہ، عمدہ، عمدت
 عمادہ کی جمع -
 عمود (عم، امان) ارادہ سے، بطور ارادہ -
 عمدی (عم، امان) انفاست، بہترین -
 عمدہ (عم، امان) ذوق، نفس، ہتھیار، سرگودہ،
 بہتر، قابل اعتماد، کیستی -
 عمرا (عم، امان) عمر، عمر، زندگی جم، اعجاز
 (عم، امان) مسوڑھا جم، عمور -
 عمران (عم، امان) آبادی جم، عمران آباد -
 عمر (عم، امان) پوری عمر -
 عمرہ (عم، امان) زچ کا ایک رکن -
 عمش (عم، امان) نگاہ کی گزوری -
 عمق (عم، امان) عمیق، عمیق، گہرائی
 جم، اعماق -
 عمل (عم، امان) کام، کار جم، اعمال -
 عمل (عم، امان) بطور عمل، باعتبار عمل -
 عمل خانہ (عم، امان) خانہ، دیوان خانہ،
 کام کرنے کا مکان -
 عملدار (عم، امان) دار، حاکم -
 عملداری (عم، امان) ذمہ داری، حکومت -
 عملیہ (عم، امان) نام، مزدوری، عم، ذمہ داری
 عمدت، عامل کی جمع -
 عملی (عم، امان) منسوب بہ عمل، مصنوعی -

عملیہ (عم، امان) جراحی، آپریشن، دستکاری
 عمود (عم، امان) گراہی، خرابی، عاصبت
 عمد (عم، امان) عمدت
 عمود (عم، امان) ایک حجاب دوسرے سے لے کر
 زاویہ قائمہ بناو سے استون جم، عمدت
 عمدت (عم، امان) عمدت
 عمولہ (عم، امان) لہ، کیشن، آرٹھت -
 عموم (عم، امان) عام -
 عموم (عم، امان) عام، عام کی مانند -
 عمومی (عم، امان) منسوب بہ عموم، عموم کا عمومی
 عمومیہ (عم، امان) سبک، ساج، عموم کا عمومی
 عمہ (عم، امان) سبک، عمومی -
 عمومی (عم، امان) عمومی کی جمع -
 عماد (عم، امان) اندھاپن -
 عمیاد (عم، امان) اندھی، پوشندہ -
 عمید (عم، امان) پیشوا، لیڈر جم، عماد
 عمیق (عم، امان) گہرا -
 عمیل (عم، امان) اڑھتی -
 عمیم (عم، امان) عام، سبب، تمام جم، عمیم -
 عمیہ (عم، امان) اندھی، نابینا عورت -
 عن (عم، امان) سے، جانب، بلد، واسطہ
 عنان (عم، امان) مشقت، دنگ، تکلیف -
 عناب (عم، امان) ناب، انجو، درخت (عم، امان)
 ان سبز پھل -
 عنابی (عم، امان) دانی، سردخ -
 عناد (عم، امان) ہیرا، دشمنی -
 عنادل (عم، امان) ذمہ، عذیب کی جمع -
 عناصر (عم، امان) صغ، عنصر کی جمع -
 عنائق (عم، امان) بکری کا مادہ بچہ، سہل
 عنائق (عم، امان) گلجھیاں، گردن میں ہاتھ ڈالنا -
 عنان (عم، امان) نکام، باگ جم، عنان -

عناں برعناں (عناں - بزرگناں، ہمسرے -
 عناں تاب (عناں - تباب، گھوڑا جو لگا مگے
 اشارے پر چمکے۔
 عناں گردش (عناں - گرہ - دشن، گادہ -
 عنایت (عنا - بیٹھ، شخص، بہ بانی جم عنایاں -
 عنب (عنبت، انگوڑی جم اعنابا -
 عنب الثعلب (عنبت، تیغ - زین، مکوہ، روپاہ، بیک
 عنبر (عنم - بڑا، ایک نباتی خوشبودار مادہ -
 عنبر حیر، عنبرینہ (عنم - بڑا، چہ، عنم - بڑی -
 یہ انام زبور -
 عنبریں (عنم - بڑی، عنبر کی مانند، نسویا، عتیر -
 عنینہ (عنبت، یہ) آنکھ کا تیسرا پردہ سات
 پردوں میں -
 عنت (عنبت، گناہ، فساد، ہلاک -
 عنتر (عنم - جز، لنگور، بندر -
 عنڈ (عنم، د، نزدیک، عسلادہ، ماسے -
 عنڈ البعوض (عنم - ذن - کج، ض، ابھی
 کے نزدیک -
 عنڈ الخقیق (عنم - ذن، ح، ح - قسین،
 تحقیق کے مطابق -
 عنڈ الضرورت (عنم - ذن، ضرورہ - ذن،
 ضرورت کے وقت -
 عنڈ الطلب (عنم - ذن، طلب، طلب کے
 نزدیک، مانگنے کے وقت -
 عنڈ اللہ (عنم - ذن - لا، اللہ کے نزدیک -
 عنڈ الوقیق (عنم - ذن، ذن، ذن، ذن کے مطابق -
 عنڈ لب، عنڈ لب، عنم - ذن، لب، عنم -
 ذن، لب، لب جم عنڈول -
 عنڈیہ (عنم - ذن، ذن، ذن، ذن سے -
 عنصر (عنم - ضر، اصل، جز، ہنسید
 جم عنصا ضر -

عنصری (عنم - ضرعی، منسوب بہ عنصر -
 عنصل (عنم - فصل، جنگل، بیابان، کاڈا -
 عنف (عنم، ذن، خدی، سختی، درستی -
 عنقہ (عنم - نقہ، ریش، پیر، ریشہ، بھیج -
 عنقوان (عنم - نوان، انصی، حوالی، آغاز، حوالی -
 عنق (عنم، گردن جم اعناق، انصق -
 عنقا (عنم - قان، لمبے گردن، والی، باسیر،
 ناپید، عجیب -
 عنقا و (عنم - قان، دیکھو عنقود -
 عنقر (عنم - قن، بانس، بی جڑ -
 عنقریب (عنم - قن، ب، نزدیک، ابھی -
 عنقود (عنم - قود، انگوڑی کا خوشبودار عنقا، قنید -
 عنکب (عنم، کب، مگڑی جم عنکابت -
 عنکبات (عنکبوت، عنم - کبات، عنم -
 کبوت، مگڑی -
 عنکبوتی (عنم - کبوت، منسوب بہ عنکبوت -
 عنکبوتیہ (عنم - کبوت، قن، یہ) آنکھ کا
 چوٹھا پردہ -
 عنوان (عنم - وان، اول، سرنامہ، دیباچہ
 مضمون کی سرخی، طریقہ، ڈھنگ جم عنواناں -
 عنود (عنود، لڑاک، گمراہ، عنود، جھگڑے، مازی -
 عنونہ (عنود، یہ) دیباچہ کتاب، مضمون کرنا -
 عنوہ (عنم - وۃ، قہر، دوستی -
 عنہ (عنم - ۵، اس مرد سے -
 عنہا (عنم - ۵، اس عورت سے -
 عنیان (عنم - بیان، دیکھو عنوان -
 عنید (عنید، لڑاک، سرکش -
 عنیف (عنیق، لڑاک، تیز، درشت مزاج -
 عنیق (عنیق، گردن، گردن میں بائیں ڈولنے والا
 عنین (عنم، نین، نامرد، جماع پر ناتواں
 عنین، بددرا، پاد لے والا -

<p>عیسا یعنی سار، مادین ٹیڑھی جم عیس عیسا فی (یعنی) سار۔ (یعنی) حضرت عیسیٰ کا پیسو، کرشن، انسانی، حضرت علیؑ کے نزدیک عیسوی (یعنی) سوجی، حضرت عیسیٰ سے نسبت رکھنے والی چیز۔ عیس، عیش، چین، شکھ، روٹی۔ عیس افریجی (یعنی) شس۔ ان۔ زن۔ جی عیشہ (یعنی) شہ، چین کی زندگی جم معاہدش عیس (عیس، گھنا پیر۔ عیطار (یعنی) خار، لمبی گران والی عورت۔ عیقہ (یعنی) قہ، سطل، ندی کا کنارہ۔ عیل (یعنی) پھرنا، جوگ لینا، عیل، اُس سے کہنا جو ایک نہ منے (یعنی) پیل، مرد کا کنبہ جم عیال جم جم عیال۔ عیلہ (یعنی) لہ، جوگ، نقیری۔ عیلین (یعنی) آنکھ جم عیون، اعلین سر وار قوم، ہر کارہ جم اعیان چیز کی اصلی حقیقت، پانی کا چشمہ، سورج، کرن، سونا، مال، پاسنگ۔ عیسا (یعنی) نما، خوبصورت آنکھوں والی جم عیون۔ عیین الحیات (یعنی) صل۔ عیاشی، آبجیات۔ عیین الدیک (یعنی) نڈ، دیک، گھنگھی۔ عیون الکمال (یعنی) صل۔ کمال، نظر۔ عیون الیقین (یعنی) یقین۔ یقین، آنکھ سے دیکھ کر یقین۔ عیونک (یعنی) یقین، آنکھ پر لگانے کا چشمہ۔ عیونین (یعنی) یقین، ادولان آنکھیں۔ عیونق (یعنی) یقین، ایک سر نہ روشن تارہ۔ عیونق (یعنی) یقین، شور، جم، جس کی نظر لگے۔</p>	<p>عیاز (یعنی) نہ بناہ۔ عیار (یعنی) جاننے، کس کا، بانگی، کاشا زرے لے کا (یعنی) یاز، جان، کام میں آستانہ۔ عیارہ (یعنی) یاز، زور، جانک عورت۔ عیاری (یعنی) یاز، جانک۔ عیاش (یعنی) یاش، بڑا عیش پسند، رنگین عیاشا نہ (یعنی) یاشا، عیش پسند کی مانند۔ عیاشی (یعنی) یاشا، عیش پسندی، رنگین مزاجی۔ عیافہ (یعنی) نہ، پرندوں سے فال لینا۔ عیال (یعنی) عیال کی جس، بیوی بچے وغیرہ۔ عیام (یعنی) روز، دن، یوم۔ عیال (یعنی) صاف، ظاہر۔ عیب (یعنی) کھوٹ، بڑائی جم عیوب۔ عیب پوش (یعنی) پوش، عیب چھپانوالا۔ عیب پوشی (یعنی) پوشی، عیب چھپانا۔ عیب جو عیب، جو عیب ڈھونڈنے والا۔ عیب کوئی (یعنی) جو، اپنی عیب ڈھونڈنا۔ عیب کوئی (یعنی) کوئی، عیب کرنے والا۔ عیب کوئی (یعنی) کوئی، عیب کہنا۔ عیبہ (یعنی) بہ، اجرمی جس، چڑھے کا ہندو۔ عیبہ (یعنی) نام اسلامی تیو ہار، خوشی ضمیمہ عیبہ۔ عیبہ (یعنی) ذہن، ما، قربانی کی عید۔ عیبہ (یعنی) ذہن، ذہن، رخصت، کے بعد کی عید۔ عیبہ (یعنی) ذہن، عید کا تحفہ۔ عیبہ (یعنی) ذہن، دو عید، دونوں عید۔ عیبہ (یعنی) ذہن، گور خرو، گدھا جم آعیبہ، غلہ کے ادھونکا قافلہ جم عیبات عیبہ (یعنی) ذہن، گور خرو کی مانند تیز ادھون۔</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عیول ریحیول اور دیشی عیول ہیر کرنا، پھیرنا۔



رخ (نین، حرن قمری، لاکم مقام عدد ۱۰۰۰،
متحد حرف سے بدل ہے۔ ۱۔ پکیا تھ
مثلاً بریزن، غریزن۔ ۲۔ ج کے
ساتھ مثلاً مغلاخ، مغلاخ۔ ۳۔ ج کے
ساتھ مثلاً کبج، کبج۔ ۴۔ ز کے ساتھ مثلاً
گریز، گریز۔ ۵۔ ش کے ساتھ شج،
شج۔ ۶۔ ق کے ساتھ مثلاً چقدر،
چقدر۔ ۷۔ ک کے ساتھ مثلاً غبرگاد
کڑگاد۔ ۸۔ گ کے ساتھ مثلاً گلگولہ،
گلگولہ۔ ۹۔ م کے ساتھ مثلاً غمگج،
غمگج۔ ۱۰۔ و کے ساتھ مثلاً کاغند،
کاغند۔ ۱۱۔ ہ کے ساتھ مثلاً سپرغم،
سپرغم۔

غایر غا، بڑا باقی، گذشتہ آئینہ۔

غابلط غا، لٹھ، کسی کا زوال چاہے بیسہ اس
جیسا بلنے کا آرزو مند جم غبطل۔

غابن غا، بن، کابل، سمست۔

غابہ غا، بہ، بن، اجنی جم غاب جم جم
غابا بن۔

غادر غا، ڈر، ہونا جم غادرین۔

غادف غا، دف، آشتیان۔

غادوبہ غا، وہ، صبح، صبح کا بادل جم غوادوبی

غادوبہ غا، ذبیہ، ہجیم کی قوت عمل۔

غار غا، غار، گڑھا، گڑھا جم غاروار، غاروار

غار غا، دھوکہ باز۔

غارت غا، رت، لوٹ۔

غارنگر غا، رت، گڑ، لٹیرا۔

غارنگری غا، رت، گڑی، لوٹ مار۔

غارنیدن غا، تی، دن، لوٹنا۔

غارنیدہ غا، تی، دن، لوٹنا ہوا۔

غارس غا، برس، درخت لگانے والا۔

غارق غا، برق، دیکھو غرق۔

غارم غا، رم، تھنڈا جو قہر میں آدائے کر کے۔

غارلقون غا، برقی، قون، مہل کی ایک

غار غا، غار، گیس۔ ۲۔ دیکھو غار۔

غارہ غا، زہ، سرخی خود تو تھنڈے پر پلنے کی

غارمی غا، زمی، بہا، دوسروں کا فزولے

جنگ کر نیوالا جم غورنی، غاریمان، غزوات۔

غاریمانہ غا، زیا، نہ، بہا، دراندہ۔

غاسیق غا، سیق، جاہل، رات، بردین۔

غاش غا، ش، کھوٹا، دھل۔

غاشیہ غا، شہ، قیامت، پردہ ازین پڑ

پالان جم غواشی۔

غاشیہ بردار غا، شہ، بڑ۔ ڈار،

مطیع، فرما نبردار، تابعدار۔

غاصب غا، صب، حق مارنے والا۔

غاضف غا، ضف، نادر، دل۔

غافہ غا، فہ، پودیتہ۔

غافر غا، فر، جیسا نیوالا، گناہ بخشنے والا۔

غافل غا، فل، بے خبر جم غافلین۔

غاق غا، ق، کوہ کی کائیں کائیں، کاغ

غالی غا، ل، گران، بھاری، بوچھل۔

غالاتی غا، تی، نقل ساز، تالہ نیوالا

غالب غا، لب، زبردست، علیہ مایوالا۔

غالبہ غا، لب، بہت کر کے، لقیں کیا تھ۔

غالبانہ غا، بانہ، زبردست گی، مانسہ۔

غالی غا، لی، غلو کر لینے والا، گران بہا

جم غلات ۲۔ غالبہ، میل گائے۔

عالمیچہ (عنا۔ جی۔ ایک قسم کا بھوننا۔
 غالییدن (عنا۔ ری۔ زن، لڑھکن، لڑھکانا۔
 غالین (عنا۔ لین، دیکھو تالین۔
 عالیہ (عنا۔ لہ۔ ایک مرکب خوشبو۔
 غالیہ (عنا۔ لہ۔ نمونہ خوشبودار بالوں والا۔
 غاصض (عنا۔ صض۔ مشکل کلام، گنگناں
 جم خودارض۔
 غامی (عنا۔ می۔ کزور، ناتوان۔
 غامنا (عنا۔ من۔ اس حال میں کہ وہ غنیمت
 حاصل کرنے والا ہے۔
 غافی (عنا۔ فی۔ بے نیاز، دوہند، گاہیوالا۔
 غایہ (عنا۔ نیہ۔ بے پردہ عورت خواہ بوجہ
 بیوی مال یا پارسائی۔ جم غواہی۔
 غاور (عنا۔ ور۔ زوردار، غور کرنے والا۔
 غاوی (عنا۔ وی۔ کمرہ۔
 غائب (عنا۔ اب۔ عدم موجود، ہناس، غیبت،
 غیبت، غیبت۔
 غائبانہ (عنا۔ ابانہ۔ عدم موجودگی میں۔
 غائبانہ (عنا۔ ابانہ۔ غائبانہ منظر باز۔
 غائرا (عنا۔ ارا۔ گہری اترنے والی چیز۔
 غالیص (عنا۔ اص۔ محفوظ مارنے والا۔
 غاظر (عنا۔ اط۔ پاجانہ، گولہ۔
 غاکمہ (عنا۔ کمہ۔ بدی، گزند، جم غواہل۔
 غافی (عنا۔ ای۔ نسو بہ غایت، انتہائی۔
 غایت (عنا۔ یث۔ انتہا، غرض، جھنڈا۔
 غیب (عنا۔ یب۔ باری کے ساتھ کوئی بات۔
 غبار (عنا۔ بار۔ کدورت، خاک آلود ہوا۔
 غبار آلود (عنا۔ بار۔ آلود، خاک میں آٹا ہوا۔
 غبار خاطر (عنا۔ بار۔ غا۔ طرہ، طبیعت کی کدورت۔
 غبارہ (عنا۔ رہ۔ ایک ہوائی مرکب، گولا۔
 غباشیر (عنا۔ شیر۔ شام کا جھپٹا۔

غداوت (عنا۔ کث۔ کد زنی، کم نہیں۔
 غیب (عنا۔ یب۔ دیکھو غیب۔
 غیبرا (عنا۔ را۔ زمین، جھاڑا۔
 غیبرہ (عنا۔ رہ۔ گرد، غبار، جھاڑا
 غیب۔ لہ۔ اسپا، اندھیر۔
 غیبطہ (عنا۔ یب۔ طہ، بونہر کسی کا زوال چلے
 اس جیسا یعنی آرزو۔
 غیب (عنا۔ یب۔ گوشت، ٹھوڑی کے ٹھوڑے ہوا۔
 غیبون (عنا۔ یب۔ ان، دغا بازی، گھانا، ڈھانا
 غیبون، بھول چوک، غلطی، ضعف رائے
 کم عقلی۔
 غیوق (عنا۔ یوق۔ شام کی شراب۔
 غیبی (عنا۔ یبی۔ کد زنی، کورہ، مندرجہ غیبا۔
 غیبین (عنا۔ یب۔ ہضیف رائے۔
 غبت (عنا۔ یب۔ غوط دینا۔
 غبت (عنا۔ یب۔ غراب۔
 غبتر (عنا۔ یب۔ کبندہ، سبزی مائل سیاہ۔
 غبٹی (عنا۔ یب۔ منہ ہونا۔
 غبٹان (عنا۔ یب۔ غبٹان، منہ کی۔
 غبک (عنا۔ یب۔ سارنگی۔
 غبڈ (عنا۔ یب۔ آئینہ گل۔
 غدا (عنا۔ دا۔ دیکھو غدا، غدا، ہنارک،
 دن کا کھانا۔
 غدات (عنا۔ دا۔ صبح، سویرا، فجر۔
 غدار (عنا۔ دا۔ دار، بہت ہونا۔
 غداغ (عنا۔ دا۔ کالا گوا، حاتم۔
 غداغ (عنا۔ دا۔ غدد، گوشت۔
 غدر (عنا۔ را۔ بیوفانی، فساد، غدر،
 بیوفانی، پھر بھی سخت زمین۔
 غدرغ (عنا۔ یب۔ دیکھو غدرغ۔
 غدرغ (عنا۔ یب۔ بہت پانی، انفرادی پانی۔

غراما طبع غذا، ساتھی تین، اگر کمران، تو عذرمان
 غرامت، غذا، مٹک، ڈکھ، بیشانی، ڈنڈ، نادان۔
 غران، غرق، ران، ڈور و کئے، والا، شور چجانے
 (الا، غرق، ران، کبلا، غورہ آب۔
 غرائب، غذا، ران، غریب کی طرح۔
 غروب، غذا، آب، سورج ڈوبنے کی جگہ، مغرب
 (مغرب، پردیسی، عجیب، کانگالی، غروب)
 نام درخت۔
 غریبال، دیرزمانہ، چھینی، ستر، آدمی، دن۔
 غریبت، مغز، بست، کانگالی، مسافرت، بیوہ تھی۔
 غری، غذا، بی، ایک سرسبز رنگ، مغرب، مغرب
 غریب، غذا، پیب، بید کالاجم، غذا، پیب۔
 غریبیہ، غذا، بی، لہ، خوخہ، ناز۔
 غریبیہ، غذا، پیب، چچی، رھلی، آسیا۔
 غرض، غذا، ش، بھوک۔
 غرضان، غذا، نان، بھوکا، گرسنہ۔
 غرضستان، غذا، جن، نان، گرجستان، جارجیا۔
 غرضی، غذا، جی، دیکھو، گرجی۔
 غرضیک، غذا، ٹک، اہم، نادان۔
 غرضیہ، غذا، نامرد، ہیوٹرا، لینڈ، ٹی۔
 غرضول، غذا، دل، ڈور، پوک، بودا۔
 غرض، غذا، ڈور، گو، دنا۔
 غرضت، غذا، رنج، سرشت، طبیعت۔
 غرضنگسا، غذا، رنگت، زنگد، پھلنگ۔
 غرضس، غذا، س، نکایا، ہوا، پیپر، جم، غرضس
 (غرضس، مواد، جو، بے کے ساتھ، جم، مار
 سے نکلتا ہے۔
 غرض، غذا، رنج، غرضات، ہیبت
 (غرض، ش، دیکھو، غرض۔
 غرضیدان، غذا، رنج، دن، غرض کرنا۔
 غرض، غذا، رنج، حاجت، مطلب، گول، جم، غرضی

غذوہ (غذوہ، کل، آئینہ، فسردا، رگدو)
 صبح کرنا۔
 غدوہ (غذوہ، دیکھو، غذا۔
 غدوہ (غذوہ، ڈوہ) سپیدہ صبح نمودار ہونے سے لیکر
 آفتاب نکلنے تک کا وقت، جم، غذا۔
 غدوہ (غذوہ، ڈوہ) کو مٹرا جم، غذا۔
 غدیر، غذا، یوکر، جو بہر جم، غذا، ران، غدر
 (غذوہ، بڑا، پیوٹا۔
 غدیر، غذا، ڈوہ، گیسو، رگ، زلف، جم، غذا، رنج
 غذا، رنج، زخم سے پیب نکلتا۔
 غذا، غذا، خوراک، جم، غذا، پیب۔
 غذا، پیب، غذا، اسی، پیب، غذا، ہونا۔
 غذا سے، غذا سے، خوراک، غذا، کالا، لہو۔
 غراب، غذا، نار، خائل، غذا، پرنڈ، کچھنکا
 چوگا، بدول، فاشہ، غذا، خصیہ، بڑھنے
 کی بیماری، غذا، جم، پیب، سرٹ، پھلا، نا
 غراب، غذا، چھینی، جیز، سریش، غذا، زار،
 چٹی اور چلیلی، ایشان، والی۔
 غراب، غذا، بسا، ٹی، کوا، ادلا، چارکی
 ایک قسم، جم، غذا، تان، غذا، بہ، مغرب،
 آغراب۔
 غراب، غذا، پیب، عجیب، پن۔
 غراب، غذا، کمی، نقصان، نادانی، طریقہ،
 کساد، بازاری، تلوار، کی، تیزی۔
 غرابہ، غذا، ڈوہ، ناز، سودہ، کاری، مغرب
 خوردگی، جم، غذا، پائی، کی، کھی، پیب، جھونا
 (غذوہ، ڈوہ، گون، بڑا، بورا، جم، غذا، پیب۔
 غذا، شیدان، غذا، پیب، دن، چھیلنا، غصہ، کرنا۔
 غرابہ، غذا، غصہ، تازگی۔
 غرابہ، غذا، حوص، عشق، شش، فنگی،
 ہلاک، غذا، ب۔

غرض آشنا (غرض - آشنا - نا، گونگیا -
 غرضمند (غرض - غرض - غرض والا -
 غرضمند سی (غرض - غرض - غرض والا ہونا -
 غرضوں (غرض - غرضوں، دیکھو غرضوں -
 غرض غرض - غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضہ (غرض - غرضہ) غرضہ (غرض میں پائی پھرانا -
 غرضتہ (غرض - غرضتہ) دیکھو غرضتہ -
 غرضہ (غرض - غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرض - غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرض (غرض - غرض) غرض (غرض - غرض -
 غرض باہوا -
 غرضاب (غرض - غرض - غرض باہوا -
 غرضقلہ (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضتہ (غرض - غرض - غرض باہوا -
 غرضتی (غرض - غرض - غرض باہوا -
 غرضم (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضناطہ (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضبیدان (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضندہ (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضوق (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرض - غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضالغہ (غرض - غرض - غرض -
 غرضو (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضواش (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضتہ (غرض - غرض - غرض -
 غرضوب (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضور (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضیبی (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضیزان (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضہ (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضی (غرض - غرض - غرض - غرض -)

نا تجربہ کاری (غرض - غرض - غرض -
 مغرور، فریفتہ ہونا -
 غریب (غرض - غرض - غرض - غرض -
 نادر، عجیب، غمگین، غمگین -
 غریبانہ (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غریب پرورد (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غریب پروردی (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غریب کی پرورش -
 غریب لوازم (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضیوں پر بہرہ بان -
 غریب لوازمی (غرض - غرض - غرض - غرض -
 بہرہ بان کرنا -
 غرضیبہ (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضیبی (غرض - غرض - غرض - غرض -
 سنگالی -
 غرضیدن (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضکرانا (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضید (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضیزت (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضیزی (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضتی (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضم (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضو (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضوال (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضویدن (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضور (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضات (غرض - غرض - غرض - غرض -
 غرضال (غرض - غرض - غرض - غرض -
 سورج (غرض - غرض - غرض - غرض -)

حرف تھری ، چند حرف سے بدل کر۔ اس رخ کے ساتھ شلاخوج ، جوق۔ ۲۔ اس رخ کے ساتھ شلاخا لیں ، نمایین۔ ۳۔ ک کے ساتھ شلاخا تریاق ، تریاک۔

۴۔ گ کے ساتھ شلاخا خالقہ ، خالگہ

قائون دکا۔ آن ، بڑا بادشاہ حسین کا بادشاہ۔

قائون دکا۔ آجی ، بادشاہ کی نسبت رکھو والا ، بادشاہی

قائون دکا ، طباق ، ملیٹ ، خوان ، پانہ ، کبیس ،

مقدار ، ناپ ، کمان کے چکر ، قصبہ کا ، دھانی نامہ۔

قائون دکا ، جٹا ، جٹا ، جوئے خانہ ، قمار خانہ۔

قائون دکا ، کتاب ، ریگاز ، ریگاز ، ریگاز ،

قائون دکا ، لیں ، ہنڈ ، ہنڈ ، ہنڈ ، ہنڈ ، ہنڈ ،

قائون دکا ، ہنڈ ، ہنڈ ، ہنڈ ، ہنڈ ، ہنڈ ،

قائون دکا ، تو سین ، قاپ ، تو سین ، ڈاکا لوں کی مقدان

قائون دکا ، بیل ، لائن ، سزاوار ، قبول کرنے والا۔

قائون دکا ، پلہ ، دایہ ، دانی ، جم ، قوا ، پلہ۔

قائون دکا ، پلہ ، پلہ ، پلہ ، پلہ ، پلہ ،

قائون دکا ، جو ، فرصت ، موٹہ ، بس ، بوتہ۔

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، بول ، دیکھو ، قاپول۔

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

فیضیابی ، فیض ، کیا ، پنی ، فیض ، پانا۔

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

فیضیابی ، فیض ، فیض ، فیض ، فیض ،

ق

قائون دکا ، جو ، جو ، جو ، جو ، جو ،

قادرہ دکان۔ ڈوڑرہ، بظنی، بدکاری ہم تاقا ڈوڑرات
 قارہ (قاز) برن، روشن تیر۔
 قارب دکان۔ رب، کشتی، ناؤ۔
 قارس دکان۔ برغ، خزاں، نام چٹ، مشور، نام والا۔
 قارعہ دکان۔ رعد، سختی، نامہ، نیامت، ہم قوارع۔
 قارو دکان۔ زرد، راج، ہنس، بڑی بیل۔
 قارورہ دکان۔ جڑ، شیشہ، شیشی، چار کا شیشہ ہم قواریر۔
 قارہ دکان۔ راد، برانظم، مسز، جین، بیس، کھانک، ہول۔
 قارسی دکان۔ بڑھنے والا، جمع قازیر، مقرر، قرابت۔
 قاز، قاز، بڑی بیل، چھگی بیل۔
 قازان دکان۔ زان، نام شہر، یورپی روس،
 قاز تاقان دکان۔ تاقان، کرطھانی، رنگ۔
 قازورہ دکان۔ ڈوڑرہ، المیڈیا، ڈوڈا، ترکی بوتل۔
 قاسر دکان۔ سزا، جبر کرنے والا۔
 قاسم دکان۔ سیم، ملنے والا۔
 قاسی دکان۔ سببی، سخت دل، سیاہ دل۔
 قاش دکان۔ پاش، پھانک، بھول۔
 قاشق دکان۔ پش، پیچ، ملحقہ۔
 قاص دکان۔ تھوکر، داعظ، خبر رساں، ہم قاصص۔
 قاصب دکان۔ جبت، حلال کرن والا، گوشت کاٹنے والا۔
 قاصد دکان۔ جد، بیچی، قصد کرنے والا۔
 قاصر دکان۔ جز، کوتاہی کرنے والا۔
 قاصی دکان۔ جی، درد، دست، درد، کایز، والا، حد کو پونچھ والا۔
 قاصب دکان۔ جبت، تیر، خواہم، قو، اخصیب۔
 قاصی دکان۔ جی، منصف، ہم قاصات۔
 قاصبتہ دکان۔ طینت، تمام، سب، باکل۔
 قاطر دکان۔ طر، طینے والا، ٹیکانے والا۔
 قاطع دکان۔ طع، سفر، کاٹنے والا، ہم قاطع۔
 قاطع الطریق دکان۔ طوط، طرقت، لیل، شاپر۔
 قاطن دکان۔ طع، ہقیم، ہاندہ، ہم قاطین، طعان۔
 قاطون دکان۔ طون، نوشادر۔

قاص دکان۔ جگن، میدانی۔
 قاصد دکان۔ عذ، سردار، قوم، سردار، لکھ، بیٹھا ہوا،
 بیٹھے والا، ہم قاصا، عذرین۔
 قاصدہ دکان۔ عذ، اتاقون، رتور، بناؤ، مفقدا، ناماں
 دوڑا، تو بیٹھے کا نام، ہم قو، عذ، بیٹھی ہوئی۔
 قاصعہ دکان۔ صحن، المکانی۔
 قاصف دکان۔ نام، بہار، جنوبی یورپی روس،
 صاف تاقاف دکان۔ نام، قاف، شام، دنیا۔
 قافلہ دکان۔ فلہ، مسافر، دل کی جماعت، ہم قوافل۔
 قافلہ سالار دکان۔ فلہ، سالار، قافلہ کا سردار۔
 قافلہ سالار دکان۔ فلہ، سالار، یعنی قافلہ کی سردار کا
 قافیہ دکان۔ قافیہ، شعر کا آخری کوبلا، چون لفظ، تک، ہم قوافی۔
 قافق دکان۔ قاف، سوکھا آدمی، سوکھا ہوا گوشت۔
 قاقا دکان۔ قاق، کوسے کی کاکس، کاکس۔
 قاقل دکان۔ قاق، شراب بنانے کی ایک دوا۔
 قاقلہ دکان۔ قاق، بڑی الچی۔
 قاقستین دکان۔ قاق، کھنکھن، چھوٹی ٹیسی، دونوں الچیوں۔
 قاقم دکان۔ قاق، ایک بڑی کھال کا نام، بیش قیمت، چون بنتا کر
 قال دکان۔ قاق، مباحثہ، قال، اس نے کہا۔
 قال مشال دکان۔ قال، نقال، لمبی بات، جیت۔
 قالب دکان۔ قبت، سبز، چھابہ، جسم، بدل، ہم
 قوالبت دکان۔ بھرے والا، اٹھنے والا۔
 قالی دکان۔ قالی، دیو، تالیں۔
 قالیچہ دکان۔ قلی، چہ، دیکھو، غالیچہ۔
 قالیون دکان۔ قالیون، غالیچہ۔
 قاسمت دکان۔ قاسمت، قسد۔
 قاصح دکان۔ قاصح، توڑنے والا، ذلیل کرنے والا۔
 قاصوس دکان۔ قاصوس، فرنگ، گہر، دریا۔
 قاصوس الاعلام دکان۔ قاصوس، صلح، صلح، لام،
 اس کا کلو بیڈ، داؤد، اعراف، اعراف، اعراف۔
 قان دکان۔ قان، خون، ہون۔

دیگ، ہانڈی، چم، ٹڈھور۔

قدر دان (قدر - دان) قدر جانے والا۔

قدر دانی (قدر - دان) بیخ، تسدر جاننا۔

قدر انداز (قدر - انداز) اُن کی قدر جاننا۔

قدرا انداز (قدر - انداز) اُن کی قدر جاننا۔

قدرت (قدر - رتی) اُن کا ہونے، قوت، کم ہونے، قدرت کی۔

قدرتی (قدر - رتی) قدرتی کھلی سے نسبت رکھنے والی چیز

جب میں انسان بن گیا ہوں، اسکی منسوب بہ قدرت۔

قدرا شائس (قدر - شائس) ناس، ناقدر دان۔

قدرا شائسی (قدر - شائسی) ناس، ناقدر دان ہونا۔

قدرة (قدر - رتی) شیشی۔

قدر سے (قدر - سے) ذرا، تھوڑا، کچھ۔

قدریہ (قدر - ری) اور جماعت جو بندہ کو اپنے فعل کا

نقدار دیتی ہے۔

قدوس (قدر - وس) پاک، پاکیزگی۔

قدوسی (قدر - وسی) فرشتہ، پاک انسان، اولی اللہ۔

قدوسیدہ (قدر - سیدہ) پاک عورت۔

قدوسین (قدر - سین) روتھ، تائیکید، ممانعت۔

قدوسچی (قدر - سچی) رکنے والا، دربان۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، اقدام۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم میں مہکت کرینوا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوس (قدر - وس) پاک، پاکیزگی۔

قدوسی (قدر - وسی) فرشتہ، پاک انسان، اولی اللہ۔

قدوسیدہ (قدر - سیدہ) پاک عورت۔

قدوسین (قدر - سین) روتھ، تائیکید، ممانعت۔

قدوسچی (قدر - سچی) رکنے والا، دربان۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

قدوسہ (قدر - ہ) پاک، پیر، انسان، لوگ، ہم، آگے جانا۔

تصور و تصور کو تاجی کہی۔
 تصور وار تصور ر سواڑ کو تاجی کرنے والا۔
 تصور واری تصور سوا۔ یعنی کو تاجی کرنا۔
 قصہ رقص حصہ کہانی جم قصص۔
 قصہ خواں رقص حصہ خواں حصہ کہنے والا۔
 قصہ خوانی رقص حصہ خوا۔ یعنی قصہ کہنا۔
 قصہ کوتاہ رقص حصہ کوتاہ، مختصر سی بات۔
 قصہ مختصر رقص حصہ۔ جمع۔ قصہ، قصہ سی بات
 قصیدہ رقصی۔ ذہ، بڑھ بڑھنے یا دین کی تعریف قصائد
 قصیر رقصی۔ کوتاہ، چھوٹا، بونا، ٹھکتا۔
 قصیرہ رقصی۔ ذہ، چھوٹی، بونی، ٹھکتی۔
 قصیل رقصی۔ خیر، بونے کے سر سے پڑ۔
 قرض رقصی۔ سونی بندھنا۔
 قضا رقصا حکم خداوندی اوت، اور بھی، قصیل، عبادت
 جکا دیت گذر گیا ہو (قص، قضا، مضبوط زرہ۔
 قضاات رقصا، تامل کی جمع۔
 قضایا رقصا۔ زمانا گال، بغیر قصد، اتفاقات۔
 قضاعہ رقصا، ذہ، دریا کی تکتا۔
 قضا و قدر رقصا۔ او، قدر، حکم الہی، تقدیر۔
 قضا سے حاجت رقصا۔ یعنی۔ حاجت، حاجت کی اور بھی۔
 قضا عمری رقصا۔ سے، عمر۔ یعنی، تمام عمر کی قضا
 نازوں کی اور بھی۔
 قضا کار رقصا۔ کار، دیکھو قضا را۔
 قضا کے ہم رقصا۔ ہے، جب، ہم، یعنی، والا حکم الہی۔
 قضیب رقصیب، اسی، جمع، قضبان
 قضیبہ رقصیب، ہمارہ، نیار، جو کہ سر سے پڑ۔
 قضیبہ رقصیب، یہ، مقدم، نر، یوش، ہر، حکم، مقصد
 مطلب، حملہ، فقرہ، جملہ، جمع، قضا یا۔
 قسط رقصا، کائی، کاٹ، رقصا، جس، رقص، بونے، بلا، جمع، قسطا
 نصب، حصہ، تقابل، یعنی، نامہ، حساب، کا، رقص
 جمع، قسط، رقص، نظر، مرکز، ہیئتہ۔

قضا، قضا، ایک ساحلی بزرگ سنگی دار۔
 قطاب رقصا، گرسان، قطب، قطاب، ایک بونہ۔
 قطار رقصا، یک، بعد، دوسرے، سلسلہ، انگار، رواج، قطر
 رقصا، ریل گاڑی۔
 قطار الکباب رقصا، عروق، کباب، ہمار، گاڑی۔
 قطاع رقصا، قطاع، تامل کی جمع۔
 قطاع الطریق رقصا، قطاع، خط، طریق، راہ، لوٹنے والا۔
 قطاعہ رقصا۔ حصہ، کتب، تراشہ، تراشہ۔
 قطاف رقصا، بیوہ کی کٹڑا بیوہ ٹوٹنا۔
 قطامہ رقصا، قاری، لکھی، پرشہوت، عورت۔
 قطائف رقصا، برتن، قند، کی جمع، سوسیاں۔
 قطب رقصا، ہر سردار، ایک ساکن، تارہ، خوشحال، کھانا
 سے، بھر، یعنی، وہ، قطع، جس، زمین، کو، مٹی، بولی، کامل
 جم، قطب، رقصا، ہر، سر، کھادی، ایک، پڑ۔
 قطب جنوبی رقصا، جنوبی، بھون، بھون، گاہ، انتہائی، جنوبی، نقطہ۔
 قطب شمالی رقصا، شمالی، بھون، بھون، گاہ، انتہائی، شمالی، نقطہ۔
 قطبین رقصا، زمین، شمالی، اور جنوبی، دونوں، قطب۔
 قطر رقصا، ہر، قطع، قطار، لینا، قطار، ملک، کنارہ،
 خط، مستقیم، جو، مرکز، گذر، کر، دائرے، کے، دوسرے، کرے، ا
 اگر، کی، مٹی، ہے، قطار، رقصا، ہر، جھلا، ہوا، تانا۔
 قطب نما رقصا، ہر، قطب کی سمت، دکھانے والا آلہ۔
 قطران رقصا، ران، رال، چیر، کاتیل۔
 قطر بسا رقصا، رتب، جنوں کی، اکتیم، ہر، کی، کا، ہار۔
 قطرہ رقصا، ذہ، بونہ، جمع، قطرات، قطر، آت، قطار۔
 قطرہ زدن رقصا، ذہ، زدن، ہمداد، تینہ، جانا، ایک، جانا۔
 قطرین رقصا، ذہ، جاتو، کاتب۔
 قطع رقصا، ہر، کاٹا، کاٹ، جمع، قطع، گوشہ، زمین، جم
 قطع کاٹا، قطع، جمع، آت، تاریخی
 قطعہ رقصا، ذہ، ذوق، نفس، سانس کی بیماری۔
 قطعاً رقصا، قطع، قطع، ہرگز۔
 قطعہ رقصا، ذہ، کاٹا، قطع، کے، بغیر، مسلسل، مضمون، کے، چند، شعرا

تنبوط رنچو، انا امیدی رنچو، نا امید۔

تنبور رنچو، تنباغ ہونا۔

تنبہ رنچو، تلبہ، تلبہ کی چوٹی پر تسمون،
تنبان رنچو، تلبہ تلبہ۔

تنبی رنچو، خوشنوی۔

تنبیان رنچو، بیان، پوچی، ہریانہ، پردگی، تلبی کو پڑھنا۔

تنبیہ رنچو، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تنبیہ رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

تواد رنچو، تلبہ، تلبہ، پوچی، ہریانہ۔

توت باہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت جا ذہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت حافظہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت واقعہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت ذاتیہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت سامعہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت شامہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت لامسہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت ماسکہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت مدرکہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت میجرہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت واپسہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت ہاشمہ رنچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

توت وچو، توت، باہ، مردھی کی طاقت۔

کاروبارسی دکاڑہ بنا۔ باری، ہیو پارسی۔
 کارہ دکاڑہ، رتہ، پشتارہ۔
 کاری دکاڑہ، برتی، کارگر، انتردار۔
 کاریدن دکاڑہ، برتی، دن، مینج ہونا منہم کاروڑ۔
 کاریدی دکاڑہ، برتی، بونی، مینج ہونے کے لائق۔
 کاریدہ دکاڑہ، برتی، ڈو، مینج ہونا ہوا۔
 کاریزہ دکاڑہ، بریز، ہبیا، گول، رتلا بے کی نامی۔
 کاریزی دکاڑہ، برے، زیسی، کاریزوالا۔
 کاریگر دکاڑہ، برتی، گرہ، ہنر مند، کام والا۔
 کاریگری دکاڑہ، برتی، بگری، ہنر مند۔
 کار دکاڑہ، برتی، کاتیل۔
 کارہ دکاڑہ، رتہ، شیخا، رکی طٹی، کسان کا جو بیڑا،
 پہاڑی شواہ، جھول، جھولا۔
 کارہہ دکاڑہ، برتی، رتہ، دیکھو کا جہرہ۔
 کارڈ دکاڑہ، بھینکا، قسم صبر، امیشہ۔
 کارڈہ دکاڑہ، کاکڑ، کاشکار کی لاشی۔
 کارڈہہ دکاڑہ، برتی، رتہ، دیکھو کا جہرہ۔
 کاس دکاڑہ، کاسن، پیادہ، کاسات، قہارہ، سورا، برتا۔
 کاسب دکاڑہ، سینہ، کسب کرنے والا۔
 کاسست دکاڑہ، کاسن، ت، گھٹا، د، لمبی۔
 کاسستین دکاڑہ، کاسن، تین، گھٹنا، گھٹنا منہم کا ہڈ۔
 کاسستنی دکاڑہ، کاسن، تینی، گھٹانے کے لائق۔
 کاستہ دکاڑہ، کاسن، تہ، گھٹا ہوا۔
 کاسد دکاڑہ، کاسد، بے روح، کھوٹی جینزہ۔
 کاسہ دکاڑہ، کاسن، توڑنے والا، کسٹہ۔
 کاسف دکاڑہ، کاسن، ترشرو، بھال، بھانے والا۔
 کاسنی دکاڑہ، کاسن، پنی، نام، دوا، نام رکھ۔
 کاسہ دکاڑہ، کاسن، پیادہ، پیوس، اکوش، کاسٹنا، شہ۔
 کاسہ باڑی دکاڑہ، کاسن، پیادہ، زین، نکاری۔
 کاسہ لیبس دکاڑہ، کاسن، ریشیل، خوشامدی، فقیر، پیادہ، کھڑو، والا۔
 کاسہ لیبسی دکاڑہ، کاسن، لیبسی، پیادہ، چٹا، خوشامدی۔

کارچوبی دکاڑہ، چوبی، کارچوب کے کام والہ۔
 کارخانہ دکاڑہ، خانہ، اور کتاب، کاروباری، جویم کارخانچہ۔
 کارو دکاڑہ، نون، چاقو، پھری۔
 کاروان دکاڑہ، ڈان، کام چلنے والا۔
 کاروانی دکاڑہ، ڈانی، کام خانہ۔
 کاروانی دکاڑہ، ڈاؤ، برتی، کام چلنا۔
 کارزار دکاڑہ، ڈاؤ، رطانی، مقابلہ۔
 کارساز دکاڑہ، ڈاؤ، کام بنانے والا۔
 کارسازری دکاڑہ، ڈاؤ، کام بنانا، اپنا، ادا کرنا۔
 کارشناس دکاڑہ، ڈسٹنس، کام پہنچانے والا۔
 کارشناسی دکاڑہ، ڈسٹنس، کام پہنچانا۔
 کارطلب دکاڑہ، ڈسٹنس، بہادر، شجاع۔
 کارطلبی دکاڑہ، ڈسٹنس، بہادری، شجاعت۔
 کارفرما دکاڑہ، ڈسٹنس، حکم، کام چلانے والا۔
 کارفرما کی دکاڑہ، ڈسٹنس، رتی، کام بتانا۔
 کارگری دکاڑہ، کڑو، ڈوٹی، تجربہ کاری، کام کرنا۔
 کارگرد دکاڑہ، کڑو، ڈو، کام کیا ہوا، تجربہ کار۔
 کارکن دکاڑہ، کڑو، پیچر، کام کرنے والا۔
 کارکنی دکاڑہ، کڑو، پیچری، کام کرنا۔
 کارگاہ دکاڑہ، گاہ، چیز بنانے جگہ، کارخانہ، ورکشاپ۔
 کارگر دکاڑہ، گڑو، کام کرنے والی چیز، ہنرور۔
 کارگزار دکاڑہ، گڑو، لوگ، کارندہ، کام کرنے والا۔
 کارگرسی دکاڑہ، گڑو، برتی، کام کی ادائیگی۔
 کارنامہ دکاڑہ، گاہ، ہنگ نام، نتائج کی کتاب،
 قانون کی کتاب، لکھنے کے قابل کام، دستہ تعداد،
 جوکہ انہار کمال کے لئے تلاش میں تیار کیا ہو۔
 کارندہ دکاڑہ، گارن، ڈو، کام کرنے والا، بونے والا۔
 کاروان دکاڑہ، ڈان، سائل۔
 کاروانسرای دکاڑہ، ڈان، سیراجی، تافلہ، تریک، سیرای۔
 کاروانی دکاڑہ، ڈانی، کاروان والہ۔
 کاروبار دکاڑہ، رتہ، بناؤ، کام کا، ہیو پارہ۔

کائنات کا زمانہ، کائنات کی جن دنیا موجودات، پوچھی
 کالی رنگ، آجی کہ سے -
 کب (کنٹ، اٹیلنا -
 کباب رنگات، مختلف نم کا بیونا تیا ہوا گوشت -
 کباب چینی، انبات چینی، ایک مہاکہ اسمیل چینی -
 کبابہ (بکنا - یہ اسمیل چینی -
 کبابی، بکنا چینی، کباب بنائے والا -
 کباد (کنڈ) درجسکر -
 کباب دورگاہ - ذہن نرم گمان ایازم -
 کباب رنگات، بزرگ رنگ، بڑا بزرگ کباب، کیر کی جج -
 کباب سہ (کباب سہ) گھور گھور کا خوشہ -
 کباب سُر (کباب سُر) کبیرہ کی جج -
 کبابیہ (کنٹ) باب، یہ، گلاس -
 کبتا (کنٹ) ات، شہد کی کھٹی -
 کبڈ (کنڈ) کن، دیکھا، جگمگ آگنڈا، کبڈو -
 کبڈ (کنٹ) ری، بڑائی (کبڈ بڑھاپا) کبڈ، خراسان کا ایک علاقہ سیوہ -
 کبری (کنٹ) نا، کبر کا منٹ، بڑی چیز جم گبرو -
 کبریا (کنٹ) ویانا نام اللہ تعالیٰ بزرگی، بڑائی -
 کبریٹ (کنٹ) ریجین، دیاسلانی، گڈھکا، گوگرد -
 کبریتا (کنٹ) کبریت، بت، آج، بڑو، سرنگ گڈھکا، نیابہیز -
 کبس (کنٹ) س، کواں، امانا، کنٹ، س، اسی جس سے کنواں اٹایا جاوے (کبس) گڑھے میں اوندھا کرنا -
 کبش (کنٹ) شس، ڈنبہ -
 کبک (کنٹ) ک، کبسور -
 کبکوز (کنٹ) ڈو، ایک پرندہ -
 کبوتر بانڈ (کبوتر) جڑ، بانڈ، جھوٹا کھلا ٹری -
 کبوتر بانڈی (کبوتر جڑ) بانڈی، کبوتر کا کھیل -
 کبود (کنٹ) ڈو، ٹنگوں -
 کبودو (کبودو) جی، کبود سے نسبت رکھنے والا -
 کبوس (کنٹ) س، ٹیڑھا -

کبیرہ (کنٹ) بہ، کگری -
 کبیری (کنٹ) ڈیکھو کبیری -
 کبییب (کنٹ) اتمہ سے لگرا ہوا -
 کبیٹا (کنٹ) بیکتا، روپوری، قبط -
 کبیدہ (کنٹ) ذہ، ارغیدہ، کبیری، ذہ سے بڑا مانج کا نام -
 کبیر (کنٹ) بیکتا، بزرگ، ٹراجم، کبیرا، کبیرا -
 کبیرہ (کنٹ) ذہ، بڑا گاہ جم کبیرا -
 کبیدسہ (کنٹ) سہ، لوندنی قمری اوٹری سال کا فرق -
 کب (کنٹ) دہن، تمہ -
 کپان (کنٹ) پان، بڑی ترازو، سنگ -
 کپچہ (کنٹ) چہ، ڈیکھو کپچہ -
 کپی (کنٹ) کپ، پتی، کالا بندر -
 کپیٹ (کنٹ) دن، بڑا ناہا چکسا بیانا، کوٹنا -
 کت (کنٹ) سنا سناٹ -
 کتاب (کنٹ) لکھ سے جس کی اور ان نوشتہ، نامہ جم کتیب، روح ہات، کتیب، کتا کتیب، کتاب کی جج -
 کتاب اللہ (کنٹ) کن، آۃ اللہ کی کتاب، قرآن شریف -
 کتابت (کنٹ) پتہ، کھانی، جم کتیبہ -
 کتابستان (کنٹ) پان، کتاب کی جج، کتیبہ -
 کتابہ (کنٹ) بہ، لوح، قہر، دیوار منقش، تحریر -
 کتابی (کنٹ) پتی، کتاب والا، میٹھی، کنٹ، پتی، کتیبوں والا -
 کتابہ (کنٹ) ذہ، گتار -
 کتابم (کنٹ) ام، رازداری -
 کتابن (کنٹ) تان، گمان، کسی، ایک نازک کبڑا اور عروں سے نزدیک چاندی میں پھنسا جاتا ہے (کنٹ) پان، کھٹل -
 کتابیا (کنٹ) اب، کتیبہ کی جج -
 کت (کنٹ) کن، کتا، ڈیکھو کت ناؤ -
 کتیب (کنٹ) بہ، کتوبا، کتیبی، جی -
 کتیبی (کنٹ) کتیب، کتب، فرزند -

دکنگن ہسٹری رنگ -

کلّ الجواہر رنگ لکھنؤ - جواہرات کا شعر ہے -

کلّی رنگ لکھنؤ ہسٹری -

کرچیل پیکل پکینل ہسٹری رنگ لکھنؤ جسکی ہر رنگ کا ہوا -

کس رنگ ایک کھاس ہنڈہ رنگانے کا ڈراو ناچہرہ ہسٹری

کوسج سوجے پھیل کا کس رنگ ہنڈہ رنگت، کر دوا، بجز -

کوسج رنگ لکھنؤ ہنڈہ کھاسی کی آواز رنگ لکھنؤ

پہن ہیں کلکٹہ انگار -

کلّ رنگ ہنڈہ خانہ کانوں رنگت، بیج مندی تلاش کوشش

کلّ رنگ ڈاڈو نیو، بنیاد -

کلّ رام رنگ رام کلّہ ہنڈہ جام، کون شخص، کون چیز -

کلّ مالو رنگ مالو ڈو ہنڈہ پن، ہنڈہ پن -

کلّ خانو رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ خانو رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّ باری رنگ خانو ڈو، صاحب خانہ -

کلّوں کا نمبر دار -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

کلّیورسی رنگتے ڈوری، کھیتی -

گزینہ (گزینی) نہ ایک موٹا پٹا، نزنن، گنجینہ، کیسیر کا ایک اوزار (گزینی) نہ پیندیرہ، منتخب۔

گزینی (گزینی) یعنی، خاصیت۔
گزیر (گزیر) پید، جسزید۔

گزم (گزم) م، رنج، دشمنی، ہیرا کا پیر۔

گسار (گسار) کھاٹا، چوڑے والا۔
گسارون (گسارون) کون چھوڑنا، کھانا پینا منہ گساروں۔

گساروہ (گساروہ) ڈوہ، چھوڑا ہوا، کھا یا ہوا۔

گساریدہ (گساریدہ) گساروں، ڈوہ، کھانے والا، چھوڑنے والا۔

گستاخ (گستاخ) شون، بچالاک، بے ادب۔

گستاخی (گستاخی) شون، بے ادبی۔

گستر (گستر) بڑھانے والا۔

گستر بیلن (گستر بیلن) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردن (گستردن) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گستردہ (گستردہ) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشت (گشت) خوب، اتر کر چلنے والا۔

گشتاد (گشتاد) دیکھو گشتاد۔

گشت رگش (گشت رگش) ات، پھیرا، سیر، ہوا، ہو گیا۔

گشتا رگش (گشتا رگش) اتا، بہشت، جنت۔

گشتیر (گشتیر) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گشتی (گشتی) بڑھانے والا، بھونانا۔

گل آشی دگل - آشی، کشیدہ کا گلاب -

گلاب، گلخانہ، ایک قسم کا مولا -

گل اشرفی دگل - اشرفی، گہرا، معوض -

گل اشرفی دگل - اشرفی، گہرا، ایک پھولاری -

گل افشاں دگل - افشاں، پھول بکھرنے والا -

گل افشانی دگل - افشانی، پھول بکھرنے والا -

گلابہ رنگا، گلابہ رنگی، گلابہ رنگی، بال، زلف، جس سے کرتے

گلابہ رنگا، گلابہ رنگی، بال، زلف، جس سے کرتے

گلان دگل، میدے کی ایک قسم کی روٹی -

گل اندام دگل - اندام، جس کا بدن پھول کی مانند ہو -

گلانی دگل - گلابی، گلابویش، پھول مانی -

گلگاہ (گلخانہ) سیاہ -

گلگت دگل - بڑا، بڑا ہزار -

گلگاری دگل - گلابی، پھول رسانا -

گلگاہنگ دگل - گلگاہنگ، بلبلی، جھکار، خوشی کا شورشل -

گلگہر دگل - گلگہر، گلگہر، گلگہر -

گلگین دگل - گلگین، گلگین، گلگین -

گل گیانہ دگل - گل گیانہ، گل گیانہ، گل گیانہ -

گل سیاہہ دگل - گل سیاہہ، گل سیاہہ، گل سیاہہ -

گل پیرین دگل - گل پیرین، گل پیرین، گل پیرین -

گل پیری دگل - گل پیری، گل پیری، گل پیری -

گل شیب دگل - گل شیب، گل شیب، گل شیب -

گل حکمت دگل - گل حکمت، گل حکمت، گل حکمت -

بند کیا ہوا -

گل جہری دگل - گل جہری، گل جہری، گل جہری -

گل جاننی دگل - گل جاننی، گل جاننی، گل جاننی -

گل جلیان دگل - گل جلیان، گل جلیان، گل جلیان -

گل چیم دگل - گل چیم، گل چیم، گل چیم -

گل چکان دگل - گل چکان، گل چکان، گل چکان -

گل چہرہ دگل - گل چہرہ، گل چہرہ، گل چہرہ -

گل چینی دگل - گل چینی، گل چینی، گل چینی -

گل خالی دگل - گل خالی، گل خالی، گل خالی -

گلخیز دگل - گلخیز، گلخیز، گلخیز -

گلخیز دگل - گلخیز، گلخیز، گلخیز -

گل خیرا دگل - گل خیرا، گل خیرا، گل خیرا -

گلخیز دگل - گلخیز، گلخیز، گلخیز -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گلخانہ دگل - گلخانہ، گلخانہ، گلخانہ -

گنج شاکان رکن پنج بیاضاگان با دشا ہو گوانی خزانه
 گنجشک رکن جین تک اچھا، پڑا۔
 گنبد رکن، راج۔ ڈہ، کھیلنے کا نامش۔
 گنجلک رکن، بجلت، سرسٹ، بھری، اچھا۔
 گنجیہ رکن، جن۔ ڈہ، سانے والا۔
 گنچور رکن۔ جوڑ، خرابی، خزانه والا۔
 گنجیدن رکن، جی۔ ڈن، سانان معصم کچھ۔
 گنجیدنی رکن، جی۔ ڈنی، سانے کے لائق۔
 گنجیہ رکن، جی۔ ڈہ، سانان ہوا۔
 گنجیہ رکن، جی۔ ڈہ، خزانه، خزانه کی جگہ۔
 گن رکن، دی، پردہ، دیو رکن، درخصیہ۔
 گندرا رکن، ڈا، دیو دار، بیلا۔
 گندسہ رکن، دیو، پیڑ، بوڑھی کھوسٹ۔
 گندک، رکن۔ ڈن، بار دت، گوگرد۔
 گندم رکن، جرم، گھسوں۔
 گندم گول رکن، جرم، گول، گندمی رنگ۔
 گندمہ رکن، ڈمہ، مٹا۔
 گندمی رکن، ڈمی، منوب، بگندم۔
 گندنار رکن، ڈنا، کاسنی۔
 گندہ رکن، ڈہ، ناماب، دیو رکن، ڈہ، ہوتا، دیو۔
 گندہ رکن، ڈہ، شہ، زانی، شیخی باز۔
 گندہ مری رکن، ڈہ، سنج، ڈنی، شیخی، باری۔
 گندیدن رکن، ڈنی، ڈن، دیو دینا، شرنہ۔
 گنگا رکن، گنگا، رکن، ڈیا، گنگا۔
 گنگا ج رکن، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا، مشورہ۔
 گنگل رکن، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا۔
 گنگلا ج رکن، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا۔
 گندہ رکن، ڈیو گنگا۔
 گور گندہ رکن، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا، گنگا۔
 زمین، سانان، ہبار، برک، بڑا، مستہر۔
 گوار گوار، گوار، گوار کا مختلف۔

گوار گوار، گوری، بھلوکی گھسیار گوار، ہاضم
 ہضم ہونے والا۔
 گوارا گوار، گوار، ہضم ہونے والا، ہضم، خوش مزہ۔
 گوار دن، گوار، دن، ہضم ہونا۔
 گوار دنی، گوار، ڈنی، ہضم ہونے والا۔
 گوار شش، گوار، شش، خوش مزگی، ہضمیت، بچانی،
 دیکھو جویش۔
 گوار شدہ، گوار، راج، ڈہ، ہضم ہونے والا۔
 گوار دن، گوار، ڈن، قوبا، راز، اور دن۔
 گوارہ، گوار، ڈہ، ٹوکرا۔
 گواریدن، گوار، ڈنی، ڈن، ہضم ہونا معصم گوار۔
 گوار پدہ، گوار، ڈنی، ڈہ، ہضم شدہ، بچا ہوا۔
 گوال رکن، گوال، ڈیکھو جوال۔
 گوالیدن، گوار، ڈن، ڈن، بڑھنا۔
 گوالیدہ، گوار، ڈن، ڈہ، بڑھا ہوا۔
 گوان رکن، گوان، پہلوان، دلیر۔
 گوان رکن، گوان، شاہد، گواہی دینے والا۔
 گواہی رکن، گواہی، شہادت۔
 گوٹا، گوٹا، چوڑا، پیٹھ۔
 گوانازی، گوٹا، ڈنی، گواہی، شہادت، گوانازی،
 دن کی بانی۔
 گوچی، گوچی، چوڑا، گھا۔
 گو دیا، گو، ڈن، ایک قسم کا پلار۔
 گو دیا، گو، ڈن، ایک قسم کا پلار۔
 گو دہ، گو، ڈہ، دن، رنگ، جسم۔
 گور رکن، گور، شہ، چھل، عیش، گور خر۔
 گوراب، گور، راج، گور، ڈن، کامیدان۔
 گور خر، گور، راج، ایک منگلی لکھا۔
 گورستان، گور، راج، گور، ڈن، قبرستان۔
 گور عریساں، گور، راج، گور، ڈن، ہر دیو کا گورستان۔
 گورکن، گور، کن، گور، ڈن، گورستان۔

لاخصی رکن - تخم خاص جس کا احاطہ نہ کیا جائے۔
لاشکر رکن - لشکر جس کا شمار نہ کیا جاوے۔
لاقرع رکن - قرع - ڈاڑھی کے گرتی، آن گنت۔
لاثنائی رکن - ثنائی، بیستھیر، بے مثل۔
لاقور رکن - قور، شہ، گردنا، مرصاع۔
لاشم رکن - شرم، چہینے والا۔
لاجرمہ رکن - جرمہ، دنگل کا ایک گھونٹ میں پینا۔
لاجرم رکن - جرم، علاج، بالقرور، خواہ خواہ۔
لاجواب رکن - جواب، بے جواب، جو جواب نہ دے سکے۔
لاجوابی رکن - جوابی، بے جواب ہو جانا۔
لاجور رکن - جرد، ایک پتلا پتھر۔
لاجوروی رکن - جرد، دینی، شیلے رنگ والا۔
لاجار رکن - جار، دیکھو ناچار۔
لاجباری رکن - جبار، دیکھو ناچاری۔
لا حاصل رکن - حاصل، بے فائدہ۔
لاحظ رکن - حظ، کلمہ کہہ لینے دیکھنے والا، کوا، حظ۔
لاحق الاحقہ رکن - لاحق، بے وقت، بعد کو پیوست
ہونے والی چیز، کھٹ، کوا، حق۔
لاحل رکن - حل، جو حل نہ ہو سکے۔
لاجول رکن - جولا، کلمہ، لغت و بیزاری۔
لاجول رکن - کلمہ، لغت، کثرت کی جگہ۔
لاجزاع رکن - جزاع، بے حصول۔
لاخبر رکن - خبر، رونی کا گالا۔
لاذوق رکن - ذوق، کارو، قلم، ایک عطر۔
لاذوقی رکن - ذوق، بے ذوقی۔
لاذوق رکن - ذوق، کٹھنے والا، ڈنگ مارنے والا۔
لاذوق رکن - ذوق، ایک خوشبو، عطر، عسلی۔
لاذوق رکن - ذوق، حسن۔
لاذوق رکن - ذوق، جس کی کوئی دوا نہ ہو۔
لاذوقی رکن - ذوق، دوا نہ ہونا۔
لاذوق رکن - ذوق، کتیا، بے عقل، لاحق۔

لا دی رکن - دمی، خانوں، ایڈری Lady
لا فرح رکن - فرح، جلا ہوا، جلانے والا۔
لا ریب رکن - ریب، بے شک۔
لا زب رکن - زب، بھٹی، بھٹنے والا، لگنے والا۔
لا زق رکن - زق، بھینے والا۔
لا زقہ رکن - زقہ، بھینے والی چیز۔
لا زم رکن - زم، ہنردی، چٹا ہوا، لگا ہوا، اصل جو
جو مفلوک کا نشان نہ ہو۔
لا زمہ رکن - زمہ، ہنردی، اسباب ہنردی، کوا، زمہ
جم جم کوا، زمہ، جم۔
لا زمی رکن - زمی، ہنردی، مفلوک، لازم۔
لا زوال رکن - زوال، جو ہمیشہ رہے، بے زوال۔
لا زور رکن - زور، دیکھو لا جورد۔
لا س رکن - اس، کتیا، طربا، رشیم، گورڈ۔
لا سخن رکن - سخن، جب، لا کلام۔
لا سخی رکن - سخی، خست ہونا۔
لا سق رکن - سق، دیکھو لا سق۔
لا ش رکن - ش، مردہ، خراب، مڑلا۔
لا شک رکن - شک، بلا شک۔
لا شہ رکن - شہ، دیکھو لا ش۔
لا صق رکن - صق، دیکھو لا سق۔
لا طائل رکن - طائل، بے فائدہ۔
لا طینی رکن - طینی، زمین جو زمین کی قدیم زبان تھی۔
لا عبا رکن - عبا، بھینے والا۔
لا عجب رکن - عجب، جلائے والا، جم کوا، عجب۔
لا علاج رکن - علاج، بے علاج، جس کا علاج نہ ہو۔
لا علاجی رکن - علاج، بے علاجی۔
لا غ رکن - غ، ہزل، نرافت، ٹھٹھوں۔
لا غر رکن - غر، بے۔
لا غری رکن - غری، دلا پن۔
لا غنیہ رکن - غنیہ، ایک تیز گرم کھاس، اطل، بکھی عورت۔

بھوسے رکھنے آگندہ ہونا۔

لہرخ لہرخہ رکڑناغ، کڑنہ، ٹھک۔

لہرم رکڑنم، دھکاک، دہڑہڑ۔

لہدن رکڑنم، نزدیکی، ہر ضم جگہا ریشیر۔

لہدن رکڑن، تھی، وہ چیزیں جو قدرتی مناسبت ہوں،
بفر کوشش پر تہیم کے حاصل ہوتی چیز۔

لہرو، لہرو، جھگڑاؤ، ٹٹنٹا بار۔

لہریج لہریج، ڈھک مارا ہوا، ٹوسا ہوا۔

لہزار رکڑن، ڈھک، لہرا ہوا، سوزش بھرنے والا۔

لہڑت رکڑن، ڈھک، مزہ، ڈالنے جو کڑا کڑا، کڑا کڑا۔

لہڑج (لہڑج، چنگ، چنگ، پشیا کی سوزش۔

لہڑی لہڑی، خوش ڈالنے، مزیدار۔

لہڑی، گوار، حق، جگلی وحشی آدمی رکڑن، ترکی میں علا
جنگ کی سچے کو ہر فرد کے بدل لے ہیں۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، فواب۔

لہڑی، لہڑی، تھہری، لہڑی۔

لہڑال، لہڑی، کانٹے والا، کانٹا ہوا۔

لہڑیلین رکڑن، لہڑی، دن، کینہا نا۔

لہڑیش رکڑن، لہڑی، سپی، تھہری۔

لہڑنہ رکڑن، ڈھک، کانٹے والا۔

لہڑہ رکڑن، ڈھک، لہڑی، تھہری۔

لہڑیلین رکڑن، ڈھک، کانٹا، تھہری نام نہ لہڑی۔

لہڑیلینی رکڑن، ڈھک، کانٹے کے لائق۔

لہڑیلہ رکڑن، ڈھک، کانٹا ہوا۔

لہڑاب رکڑن، ڈھک، لہڑی، کانٹے والا۔

لہڑا (لہڑا) لہڑیلین۔

لہڑا (لہڑا) لہڑی، اہار، لہڑی چیز۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑیت رکڑن، ڈھک، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

لہڑی، لہڑی، لہڑی، لہڑی۔

<p>ماڑا سینیں زکار سے اس بیٹوں پاس کا دشمن -</p>	<p>ماچی (ماچی) جو کھانے والا ہے</p>
<p>ماڑا دکانہ ہم کو ہمارے لئے -</p>	<p>ماخ (دماخ) پورھا، حقیر فقیر کمنہ، اور چھا، مہینوں کی</p>
<p>ماڑا فسا زکار - آج - سہم سہرا، جا دو گے -</p>	<p>ماخذ زکار - خیزم خیزم جلیں جو چیزیں ہوں، اخذ کرینی جگر</p>
<p>ماڑا رب زکار - رب اہ طلب، حاجت فتح ماڑا رب</p>	<p>ماخوڑ زکار - خورقہ گرفتار لیا گیا -</p>
<p>ماڑا رب (آ - رب)</p>	<p>ماخوڑ زکار - خورقہ شراب خانہ، قمار خانہ -</p>
<p>ماڑا بیچ زکار - بیچ، ہلا کر حینہ، گڑھڑی -</p>	<p>ماخول، ماخولیا زکار - مچول، اما - مچول لیا، دیکھو</p>
<p>ماڑا توں زکار - توں، ہتھوڑا</p>	<p>بایوٹوٹیا -</p>
<p>ماڑا زکار (ربح) بغیر دھوپن کی اک، پہلا جن</p>	<p>ماڑا زکار، ماڑا، مل -</p>
<p>حین سے نسل جنات پیدا ہوئی -</p>	<p>ماوا دم زکار نام - اداوتی، نام، ہمیشہ ہمہ میدم</p>
<p>ماڑا زکار (رڈ) سرکش، حد سے گذر نہ والا صحیح ضرورہ</p>	<p>ماویہ زکار - جو بہ دعوت، ضیافت -</p>
<p>ماڑا زکار (س) مرغ ہستارہ، جلاؤ فک -</p>	<p>ماویج زکار - روخ، تعریف کرنے والا -</p>
<p>ماڑا ستان زکار - کوش - تاش، شفا خانہ</p>	<p>ماویج زکار - روخ، بزرگ، اور مجدد -</p>
<p>ماڑا سیل زکار - سیل، شہر مار سیلتر روٹی فرانس،</p>	<p>ماور زکار - زور ماں -</p>
<p>ماڑا رن زکار - رن، گمراہ، بیٹے دین -</p>	<p>ماور زکار - زور، اٹ - زور سوتلی ماں -</p>
<p>ماڑا رکہ زکار - رکہ، تجارتی نشان -</p>	<p>ماور زکار - زور - بچھا، ماں کی گالی -</p>
<p>ماڑا گرزہ زکار - گرزہ، کمال لنگ -</p>	<p>ماور زکار - زور - گراؤ، پیدا ہونے -</p>
<p>ماڑا گزیدہ زکار - گزیدہ، ڈو، سانپ کا کاٹا ہوا -</p>	<p>ماور زکار - زور، خیر، خیر، بہ ماور ماں والی چیز</p>
<p>ماڑا گیسر زکار - گیسر، سانپ پکڑنے والا -</p>	<p>ماور زکار (گاہ) زور، ساس -</p>
<p>ماڑا گیسری زکار - گیسری، سانپ پکڑنا -</p>	<p>ماور زکار - زور، سوتلی ماں -</p>
<p>ماڑا صبرہ زکار - صبرہ، ڈو، سانپ کا سن، از بہر ک</p>	<p>ماورین زکار - زور، باسوا، علاوہ افراد -</p>
<p>ایک دو -</p>	<p>ماوہ زکار - ڈو، ہادین زکار - ڈو، لینے والا (کاد، ڈو)</p>
<p>ماڑا رن زکار - رن، ناک کی پھلک، خوگر، عادی -</p>	<p>بہ چیز کی اصل، جس سے کوئی چیز بنائی جاوے</p>
<p>ماڑا روت زکار - روت، تمام تر شستہ -</p>	<p>خوس چیز، ہیلو، استعمال صحیح ہواؤ -</p>
<p>ماڑا رورہ زکار - رورہ، رت، حلق کا کوا -</p>	<p>ماوہی زکار - ڈو، مسوب، طرف ماوہ، مادہ ملی چیز</p>
<p>ماڑا روک زکار - روک، مراکو، ملک، مراکش شمالی افریقہ</p>	<p>ماوہیاں زکار - زور، گھوڑی -</p>
<p>ماڑا رکا زکار - رکا، ہلاکت -</p>	<p>ماوریت زکار - ڈو، بیت، اصلیت، جسمائیت -</p>
<p>ماڑا سرہ زکار - سرہ، رت، دایہ، صفی لولی ماں -</p>	<p>ماورین زکار - ڈو، مادہ، زن -</p>
<p>ماڑا شیخ زکار - شیخ، آیت، تاش، آتش، شمش</p>	<p>ناؤنہ زکار - ڈو، مینار -</p>
<p>ماڑا زن زکار - زن، چینیوں کا، بڑا زکار، زن، زور، بڑھ</p>	<p>ماؤن زکار - ڈو، زن، دیانگی، پروانگی، دیانگی -</p>
<p>کھا ٹھی -</p>	<p>ماڑا زکار، سانپ -</p>
<p>ماڑا زکار (زور) نام دو ایک کھڑے کا لعاب ہے -</p>	<p>ماڑا زکار (زور) نام دو ایک کھڑے کا لعاب ہے -</p>

مازہ (مازہ) پیر بھلی ٹہی۔
 ماثر (ماثر) عیش، عشرت۔
 ماثر دران (ماثر دران) ماثر دران (ماثر دران) کا ایک حصہ۔
 ماس (ماس) پھیر تیل آدمی، الماس، سوون۔
 ماسبق (ماسبق) ماسبق، جو پہلے گزر چکا۔
 ماسنت (ماسنت) دہی، حقارت۔
 ماسبت (ماسبت) ماسبت، پتھر بنا بیولا۔
 ماسخ (ماسخ) سب سے مزہ، پھیکا۔
 ماسک (ماسک) ماسک، بیہوشی، شکل کا مکر۔
 ماسکبار (ماسکبار) ماسکبار، مہینہ کا آخری دن۔
 ماسکہ (ماسکہ) ماسک، نگہبان، عمدہ کا وہ قوت جو خفا پر عمل کرتی ہے۔
 ماسلف (ماسلف) ماسلف، گذشتہ۔
 ماسوی (ماسوی) ماسوی، سوا، سوا، ماورا۔
 ماسیدن (ماسیدن) ماسیدن، درج، جنا، لینا۔
 ماش (ماش) ماش، ارد، اسباب، خانہ، ٹھکانا۔
 ماشطہ (ماشطہ) ماشطہ، مشاطہ۔
 ماشورا (ماشورا) ماشورا، کھلی، پیر جھا، پیر جھی۔
 ماشورہ (ماشورہ) ماشورہ، سوت کی پندیا، ٹوٹی۔
 ماشہ (ماشہ) ماشہ، سنی، سنی، بندوق کا طول، آٹھ رتی کا وزن۔
 ماشی (ماشی) ماشی، چیل، خور، پانوں چلنے والا چھ مشیا۔
 ماشین (ماشین) ماشین، ریل گاڑی، کل، آلہ۔
 ماشہ (ماشہ) ماشہ، چوبیس، چوبیس، ماشی۔
 ماش (ماش) ماش، چوستے والا، چاند۔
 ماشدق (ماشدق) ماشدق، معنی، مضمون، وہ چتر جو صادق ہو۔
 ماشفا (ماشفا) ماشفا، وہ چتر جو صاف ہو۔
 ماشہ (ماشہ) ماشہ، کھٹا دودھ جو زبان کاٹے۔
 ماشفہ (ماشفہ) ماشفہ، چاہنے کی قوت۔
 ماشی (ماشی) ماشی، گذرا ہوا زمانہ۔

ماضیہ (ماضیہ) ماضیہ، گذشتہ۔
 ماطر (ماطر) ماطر، برسنے والا۔
 ماخذ (ماخذ) ماخذ، جگہ، بزم۔
 ماخذہ (ماخذہ) ماخذہ، بکری، بزم، ماہ۔
 ماخذون (ماخذون) ماخذون، زکوٰۃ، مال، ضروریات خانہ داری کا نڈکا، مہینہ، مہینہ، مہینہ۔
 ماخذ (ماخذ) ماخذ، کھڑ، کھڑ، ایک کھڑ، کھڑ، کھڑ۔
 ماغبات (ماغبات) ماغبات، گذری ہوئی چیز، جو فوت ہوا۔
 ماغوق (ماغوق) ماغوق، اوپر، بالا۔
 ماغوق العادت (ماغوق العادت) ماغوق العادت، ماغوق العادت، عادت، عادت، عادت، عادت۔
 ماغوق القطرت (ماغوق القطرت) ماغوق القطرت، اوپر، اوپر، اوپر۔
 ماغہ (ماغہ) ماغہ، کھڑی دروازہ بند کرنے کی۔
 ماغی الذہن (ماغی الذہن) ماغی الذہن، جو چیز ذہن میں ہو۔
 ماغی الضمیر (ماغی الضمیر) ماغی الضمیر، جو چیز دل میں ہو۔
 ماغہار (ماغہار) ماغہار، جو چیز کہ اس میں ہے۔
 ماغی رفاق (ماغی رفاق) ماغی رفاق، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغیل (ماغیل) ماغیل، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغیل دول (ماغیل دول) ماغیل دول، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغی (ماغی) ماغی، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغہ (ماغہ) ماغہ، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغہ (ماغہ) ماغہ، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغہ (ماغہ) ماغہ، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغی (ماغی) ماغی، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغی (ماغی) ماغی، کھانا، کھانا، کھانا۔
 ماغی (ماغی) ماغی، کھانا، کھانا، کھانا۔

سرکاری موصول ہونے والا ہنگامہ (م آئی) انجام کار اٹھکانہ۔

مال الکلام زمانہ۔ مال کلام میں کوئی کلام نہ ہو۔

مالا مال زمانہ نامانی بہت بھرا ہوا ابر زمانہ بہت، اکثر۔ مالان بہار، گان، گنتا ہوا، نکلنے والا۔

مالا بپاقت زمانہ۔ بپاقت میں چیز کی طاقت نہ ہو۔

مالا بچل زمانہ۔ بچل میں ہونے کو کہتا تابل۔

مالا یعنی ناما۔ لیجہ۔ نامیے مطرب ایسے خاندانہ بے ہودہ ایسے نتیجہ۔

مالا زمانہ۔ تمام جلا سہ ہاٹا ریحہ روم

مالک زمانہ۔ کچھ راج کی کرنی۔

مالک زمانہ۔ کچھ کھاری، تکلیف۔

مالک زمانہ۔ کچھ حلقہ دماغ، سودا، سودا کی، سٹری۔

مالک خاوند زمانہ۔ خاوند، مالک۔

مالک زمانہ۔ کچھ مال رکھنے والا۔

مالک زمانہ۔ کچھ مال رکھنا۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مالک زمانہ۔ کچھ۔ کچھ، کچھ، کچھ، کچھ۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

مال مستی زمانہ۔ مستی، مال میں مست ہونا۔

ماہیران (کا۔ جی۔ تراخ) ملدی کی مانند ایک جڑ۔
 مالک (کا۔ جی۔ گھر) اسباب، مال، پونجی، مانند بھٹا
 نظیر، باقی، عبادوں، اید، عزت، ماہم، ما،
 رستے والا، ہونے والا۔ (ج۔ ج۔ ان) بل، نقلیہ
 ماہارنا۔ نا، شاید، مکر، گمان، چانا، ادہ، چیز، شبیہ،
 نظیر، مثل
 ماہان (کا۔ نا۔ ف) خطی، نامان۔
 ماہانی (کا۔ نا۔ جی) مشابہت۔
 ماہج (کا۔ نا۔ جی) سخی، دیا لو۔
 ماہند (کا۔ نا۔ د) رہن، سہن، رہائش۔
 ماہنگی (کا۔ نا۔ جی) عاجزی، ماتھکن۔
 ماہنگین (کا۔ نا۔ کن) رہتا، مشابہ ہونا، سفیع، ماہند
 ماہندہ (کا۔ نا۔ جی) کھکا، ہوا، رہا، ہوا، عاجز۔
 ماہنتن (کا۔ نا۔ نش) سخی، مشابہ ہونا، سفیع، ماہند۔
 ماہنتہ (کا۔ نا۔ جی) مشابہ۔
 ماہج (کا۔ نا۔ جی) شخ کرنے والا، روکنے والا، ج
 ماہیعتن، متواضع، متعہ۔
 ماہیعت (کا۔ نا۔ جی) آیت، رکاوٹ۔
 ماہنگ (کا۔ نا۔ جی) چاند۔
 ماہند (کا۔ نا۔ جی) ادھر، حریف، شبیہ، مثل، جیسا، ویسا۔
 ماہندہ (کا۔ نا۔ جی) دہ، رستے والا، مشابہ ہونا، والا۔
 ماہوس (کا۔ نا۔ نا۔ جی) جو، مگر، مرغوب، پسندیدہ، ایس
 چیز سے اس سے ہو سچ
 ماہنہ (کا۔ نا۔ نہ) تم اسباب، خالی۔
 ماہنیا (کا۔ نا۔ نیام) ایک ضرر رساں دیوانگی۔
 ماہند (کا۔ نا۔ جی) دج، مشابہ ہونا۔
 ماہارا (کا۔ نا۔ جی) دیکھو، مادی۔
 ماہوجب (کا۔ نا۔ جی) وہ چیز جو واجب ہو۔
 ماہرا (کا۔ نا۔ جی) نا، دج۔ آن، نہ، دج، دریا کے اس
 پار، ملک، ترکستان۔
 ماہرسی (کا۔ نا۔ جی) حریف، استغنا، ماسوا، پیچھے، پار۔

ماہل (کا۔ نا۔ اول) آتا، دل کی گائی۔
 ماہی (کا۔ نا۔ وا) واپسی کی جگہ، مکان، گھر۔
 ماہ (کا۔ نا۔ مہینہ) ما چاند۔
 ماہانہ (کا۔ نا۔ نہ) ماہوار سی۔
 ماہ پارہ (کا۔ نا۔ نہ) رتہ، چاند کا لکڑا، اتارہ۔
 ماہ پرست (کا۔ نا۔ نہ) پڑوسی، ات، چاند کا پکار سی۔
 ماہ پرستی (کا۔ نا۔ نہ) پڑوسی، چاند کی پوجا۔
 ماہ تاب (کا۔ نا۔ نہ) چاند، چاند۔
 ماہ تالی (کا۔ نا۔ نہ) چینی وغیرہ میں نشست کا
 چھوڑتہ۔
 ماہج (کا۔ نا۔ جی) بالکل، تیار، دودھ
 ماہ جین (کا۔ نا۔ جی) چھین، جس کی پیشانی چاند کی مانند ہو۔
 ماہ جلی (کا۔ نا۔ جی) جلا، موسم بہار کا ایک قسمی مہینہ
 ماہچہ (کا۔ نا۔ جی) ہنٹان کی نظیر، رنگے کا مصنوعی چاند۔
 ماہ دو ہفتہ (کا۔ نا۔ جی) دو ہفتے، چاند جو صوبان کا چاند
 ماہر (کا۔ نا۔ جی) کسی فن کا استاد، مشتاق، ج ماہیر، جی
 مہترہ۔
 ماہر (کا۔ نا۔ جی) جہں کا سنہ چاند سا ہو۔
 ماہ شکیستہ (کا۔ نا۔ جی) شکیستہ، نہ، نیا چاند۔
 ماہ گرجی (کا۔ نا۔ جی) چاند گرجی، نہ، چاند گرجی۔
 ماہ گرجتہ (کا۔ نا۔ جی) ش، گہا، ہوا چاند۔
 ماہرن (کا۔ نا۔ جی) خادیم، خدمتگار۔
 ماہ خشب (کا۔ نا۔ جی) خشب، حکیم ابن مقفع کا بنایا
 ماہ چاند جہاں کی روشنی دور دور تک پہنچتی تھی۔
 ماہو (کا۔ نا۔ جی) ذیب، وزیرتہ۔
 ماہوار (کا۔ نا۔ جی) ہر مہینہ، مہینہ وار۔
 ماہوت (کا۔ نا۔ جی) فرشتہ کا نام، باانات۔
 ماہو داتہ (کا۔ نا۔ جی) نہ، جمال، گولھا۔
 ماہوش (کا۔ نا۔ جی) چاند کی مانند۔
 ماہوتہ (کا۔ نا۔ جی) مہینہ، ماہوار، تنخواہ۔
 ماہرہ (کا۔ نا۔ جی) چھید، گریبا، مہ، ماہرہ، گریبا، کا وزن۔

ماہی (ماہی) یعنی وہ درختی پھل جس کی لپٹ پر زمین ٹکی ہوئی میلان کی جاتی ہے۔

ماہیانہ زمانہ - جیسا کہ ماہیانہ ماہداری -

ماہیت (ماہی) - یہت حقیقت، اصلیت حج ماہی -

ماہیچہ زمانہ - یعنی - حج سواہا، اظہار، بازو کی پھل -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) دودھ کا پانی، کھڑا -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) آب حیات، امرت -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) گوشت کا عرق بھپارہ -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) گوشت کا پانی -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) شہاب -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) کلاب -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) مرنے والا -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) دسترخوان، کھانا چھا ہوا دسترخوان حج مہوا -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) - سیخ (ان) نہیں کھانا -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) - سیخ (ان) چیرنے والی چیرنے کی آلہات -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) - سیخ (ان) حج مہوا -

ماہی و ماہیانہ زمانہ - حج (ان) - سیخ (ان) -

ماہی (ماہی) - حج (ان) دیکھو ماہداری -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی کی جمع -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

ماہی (ماہی) - حج (ان) ماہی، نماز -

مشکل (۱) آراستہ کیا ہوا، زیور پہنا یا چوادر
 مشکل (۲) محکم بنی ریح سننے والا، برداشت کرنے والا۔
 مشکل (۳) سختی پریم حیران، سرگشتہ (سختی پریم حیران کیا ہوا۔
 مشکل (۴) صدمہ و سختی۔ (مجم) باہم دشمنی کرنے والا (سختی۔ صدمہ)
 باہم دشمنی کیا ہوا۔
 مشکل (۵) سختی پریم (تعلیم یافتہ۔
 مشکل (۶) مخصوص (مخصوص) خصوصیت رکھنے والا
 مشکل (۷) مخصوص (مخصوص) خصوصیت رکھا ہوا۔
 مشکل (۸) مشکل (بعض) مخصوص رکھنے والا۔
 مشکل (۹) مشکل (بعض) غفلانہ، غفل ڈالنے والا
 مشکل (۱۰) مشکل (بعض) غفل ڈال ہوا۔
 مشکل (۱۱) مشکل (بعض) غفل کھلانا، بولنا، بکھرنے والا۔
 مشکل (۱۲) مشکل (بعض) خیال میں لایا ہوا (سختی پریم)۔
 مشکل (۱۳) مشکل (بعض) خیال میں لائے والا۔
 مشکل (۱۴) مشکل (بعض) یکہ خیال میں لایا ہوا، خیال کی جگہ، دماغ
 مشکل (۱۵) مشکل (بعض) سوچنے کی قوت، خیال میں لایا ہوا، قوت
 مشکل (۱۶) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۷) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۸) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۹) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۰) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۱) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۲) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۳) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۴) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۵) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۶) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۷) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۸) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۹) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۳۰) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا

مشکل (۱) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۳) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۴) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۵) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۶) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۷) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۸) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۹) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۰) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۱) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۲) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۳) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۴) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۵) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۶) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۷) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۸) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۱۹) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۰) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۱) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۲) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۳) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۴) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۵) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۶) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۷) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۸) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۲۹) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا
 مشکل (۳۰) مشکل (بعض) ایک، ایک، کھوئی چیز یا بنے والا

مشقانہ (مشقا۔ بدم) باہم عناد رکھنے والا۔
 مشقیر (مشقبت۔ بدم) بزدلی کرنے والا۔
 مشقیب (مشقبح۔ جہن) تجویب کرنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) شمار کیا ہوا (مشقیر۔ جہن)
 گھنے والا شمار کرتے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) ہاتھ مانا نہیں نہ ہونے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) پھیلنے والا، احد سے بڑھ
 جانے والا، فعل جو مقبول جا سے۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) ذوق (مشقیر۔ جہن) ذوق
 خوش مزہ، خوشگوار۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) دشوار، مشکل۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) پیش آنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) ہنسنا سنا ہونے والا، اچھینے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) دشوار۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) اپنے مذہب کا پیچ
 کرنے والا، حمایت کرنے والا، مدد دینے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) طیش، پیاسا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) بیچار، ٹھال۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) متقی، پارسا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تعلق رکھنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تعلیم حاصل کرنے والا، شاگرد، طالب علم
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) کھوپ تلاش کرنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) بدخواہ، عناد رکھنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) بڑھو، چھڑھنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) عویبا، رنج، ہوجی ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) عادی ہونے والا (مشقیر۔ جہن)
 عادی کیا ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) ایک عین مدت کے لئے نکاح۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تیار دار، تازہ کرنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) واقع ہوی، عارضی طور۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) مقرر کیا ہوا، تعیین کیا ہوا۔

مشقیر (مشقیر۔ جہن) باہم غیر ہونے والا، متفقین
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) غول کھینے والا، متفقین
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تقلب کرنے والا، غالب ہونے
 والا، مشقیر (مشقیر۔ جہن) تقلب کیا ہوا، غالب کیا ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) بدلا ہوا، مشقیر (مشقیر۔ جہن) بدلنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) (مشقیر۔ جہن) ایک دوسرے سے دور ہونے
 والا، مشقیر (مشقیر۔ جہن) باہم دور کیا گیا، انفرق کیا گیا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) ان خال لینے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) کھوجی، تلاش کرنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تلاش گاہ (مشقیر۔ جہن) تلاشاتی
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) رخ، شاخ ہونے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) جدا ہونے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) اتفاق کرنے والا، (مشقیر۔ جہن) اتفاق
 اتفاق کیا ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تفہم اتفاق کیا ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تعلق، تعلقہ، چیرسب کا اتفاق
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) فکر، سنہا جس کو تکمیل ہو۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) شمشیر۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) جو مقابل تکلیف سے ہے۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) نزدیک ہونے والا، اچھوستند۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تعلقہ، تعلقہ، تعلقہ، تعلقہ، تعلقہ
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) ایک دوسرے کو کٹانے والا،
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) سے کٹنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) بھڑکا ہوا، چھوڑے، والا، ڈھیل کرنے والا
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) جزم، جو جھیلنے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) پذیر کرنے والا، قبول کرنے والا
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) قبول کیا ہوا، پذیر کیا ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) آگے بڑھنے والا، مشقیر (مشقیر۔ جہن)
 آگے بڑھا ہوا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) نزدیک ہونے والا، نزیح ہونے والا۔
 مشقیر (مشقیر۔ جہن) تازہ کرنے والا، تازہ کرنے والا۔

مشقین (مشق) جرجی ایک مٹھا بلاؤ۔

مشق (مشق) علم نماز و لغت میں پلنے والا۔

مشق (مشق) بزم لغت کرنے والا۔

مشق (مشق) قریش (قریش) سانس لینے والا جاندار۔

مشق (مشق) ورم روشن خیال و روشنی دیکھنے والا۔

مشق (مشق) ورم (ورم) نوسہ نوسہ اور قسم قسم کا ہونی والا۔

مشق (مشق) بزم نگاہ تار ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا یا ہم میراث یا نے والا۔

مشق (مشق) ریشا یا ہم ایک جگہ اترنے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) چھینے والا پولیٹید ہونی والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) حلق (حلق) زد و فن (عاجری) کرنے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) زیادہ ہونی والا، زیادتی اختیار کرنے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشق (مشق) ریشا (ریشا) یا ہم بلبر بلبر ہونے والا۔

مشعب (رشتہ) - رشتہ، آبرو، پانی جانے کا راستہ۔
 منتقل (رشتہ) - مجال، ساڑھے چار ماشہ کا وزن مع
 مشاعرہ میں۔
 مشقب (رشتہ) - ذبح، چھیدنے کا برہم مع مشا قوت۔
 منتقل (رشتہ) - ہنر، مگر انبار کرنے والا (مشتق، فن)۔
 گرانبار کیا ہوا۔
 مشمل (رشتہ) - متن، پناہ، جائے پناہ جہ مشا ہنر۔
 مشمل (رشتہ) - دل، حروف تشبیہ، مانند، سادی، بلبرج، آمشال
 جہ آکا اناج، منقش ہشال، کہاوت، داستان، آمشال
 مشلا (رشتہ) - بطور مثال۔
 مشعب (رشتہ) - تبت، عیب، عیب کی جگہ مع مشا لبت۔
 مشلت (رشتہ) - کشت، زمین کو نئے والی چیز، زمین کیا ہوا،
 تین حروف کا لفظ، زمین (رشتہ) - کشت، زمین
 تین مع مشا لرت۔
 مشلو (رشتہ) - مویج، پالا مارا ہوا، برت مارا ہوا۔
 مشلہ (رشتہ) - کہ، ناک کان کا ٹیٹا۔
 مویج (رشتہ) - مویج، چھینچیا، چا پہ گرد۔
 مھر (رشتہ) - مزم، پھل لانے والا، نتیجہ دینے والا
 (رشتہ) - مزم، پھل دار پیر، پھل لایا ہوا۔
 مشمن (مخفف، متن) - آٹھ پہلو کا ہوا۔
 مشغوی (رشتہ) - مویج، منسوب بہ مشغی، دو دو والہ،
 وہ مسلسل نظم جس میں ہر شو کے دونوں تالیف ہوں اور
 مشغی (رشتہ) - نما، دوں، دوں، دوں کے کی ہوا مع
 مشغالی (رشتہ) - نما، دو دو مع مشغالی۔
 مشغوب (رشتہ) - ثواب دیا ہوا (رشتہ) - ویت، آونے والا
 مزدوری یا ثواب دینے والا، نماز کو پلانے والا
 رشتہ، ویت، مزدوری یا ثواب دیا ہوا، لوٹا ہوا۔
 مشغوبت، مشغوبہ (رشتہ) - رشتہ، رشتہ، رشتہ، رشتہ کا
 بدلہ مع مشغوبت۔
 مشغول (رشتہ) - زمین پر بیٹھا، بانوں پر کھڑا ہونا۔
 مشغوی (رشتہ) - انجام، جگہ، قرار گاہ، آرام کی جگہ۔

مشعب (رشتہ) - مویج، پانی جانے کا راستہ۔
 منتقل (رشتہ) - مجال، ساڑھے چار ماشہ کا وزن مع
 مشاعرہ میں۔
 مشقب (رشتہ) - ذبح، چھیدنے کا برہم مع مشا قوت۔
 منتقل (رشتہ) - ہنر، مگر انبار کرنے والا (مشتق، فن)۔
 گرانبار کیا ہوا۔
 مشمل (رشتہ) - متن، پناہ، جائے پناہ جہ مشا ہنر۔
 مشمل (رشتہ) - دل، حروف تشبیہ، مانند، سادی، بلبرج، آمشال
 جہ آکا اناج، منقش ہشال، کہاوت، داستان، آمشال
 مشلا (رشتہ) - بطور مثال۔
 مشعب (رشتہ) - تبت، عیب، عیب کی جگہ مع مشا لبت۔
 مشلت (رشتہ) - کشت، زمین کو نئے والی چیز، زمین کیا ہوا،
 تین حروف کا لفظ، زمین (رشتہ) - کشت، زمین
 تین مع مشا لرت۔
 مشلو (رشتہ) - مویج، پالا مارا ہوا، برت مارا ہوا۔
 مشلہ (رشتہ) - کہ، ناک کان کا ٹیٹا۔
 مویج (رشتہ) - مویج، چھینچیا، چا پہ گرد۔
 مھر (رشتہ) - مزم، پھل لانے والا، نتیجہ دینے والا
 (رشتہ) - مزم، پھل دار پیر، پھل لایا ہوا۔
 مشمن (مخفف، متن) - آٹھ پہلو کا ہوا۔
 مشغوی (رشتہ) - مویج، منسوب بہ مشغی، دو دو والہ،
 وہ مسلسل نظم جس میں ہر شو کے دونوں تالیف ہوں اور
 مشغی (رشتہ) - نما، دوں، دوں، دوں کے کی ہوا مع
 مشغالی (رشتہ) - نما، دو دو مع مشغالی۔
 مشغوب (رشتہ) - ثواب دیا ہوا (رشتہ) - ویت، آونے والا
 مزدوری یا ثواب دینے والا، نماز کو پلانے والا
 رشتہ، ویت، مزدوری یا ثواب دیا ہوا، لوٹا ہوا۔
 مشغوبت، مشغوبہ (رشتہ) - رشتہ، رشتہ، رشتہ، رشتہ کا
 بدلہ مع مشغوبت۔
 مشغول (رشتہ) - زمین پر بیٹھا، بانوں پر کھڑا ہونا۔
 مشغوی (رشتہ) - انجام، جگہ، قرار گاہ، آرام کی جگہ۔

مشعب (رشتہ) - مویج، پانی جانے کا راستہ۔
 منتقل (رشتہ) - مجال، ساڑھے چار ماشہ کا وزن مع
 مشاعرہ میں۔
 مشقب (رشتہ) - ذبح، چھیدنے کا برہم مع مشا قوت۔
 منتقل (رشتہ) - ہنر، مگر انبار کرنے والا (مشتق، فن)۔
 گرانبار کیا ہوا۔
 مشمل (رشتہ) - متن، پناہ، جائے پناہ جہ مشا ہنر۔
 مشمل (رشتہ) - دل، حروف تشبیہ، مانند، سادی، بلبرج، آمشال
 جہ آکا اناج، منقش ہشال، کہاوت، داستان، آمشال
 مشلا (رشتہ) - بطور مثال۔
 مشعب (رشتہ) - تبت، عیب، عیب کی جگہ مع مشا لبت۔
 مشلت (رشتہ) - کشت، زمین کو نئے والی چیز، زمین کیا ہوا،
 تین حروف کا لفظ، زمین (رشتہ) - کشت، زمین
 تین مع مشا لرت۔
 مشلو (رشتہ) - مویج، پالا مارا ہوا، برت مارا ہوا۔
 مشلہ (رشتہ) - کہ، ناک کان کا ٹیٹا۔
 مویج (رشتہ) - مویج، چھینچیا، چا پہ گرد۔
 مھر (رشتہ) - مزم، پھل لانے والا، نتیجہ دینے والا
 (رشتہ) - مزم، پھل دار پیر، پھل لایا ہوا۔
 مشمن (مخفف، متن) - آٹھ پہلو کا ہوا۔
 مشغوی (رشتہ) - مویج، منسوب بہ مشغی، دو دو والہ،
 وہ مسلسل نظم جس میں ہر شو کے دونوں تالیف ہوں اور
 مشغی (رشتہ) - نما، دوں، دوں، دوں کے کی ہوا مع
 مشغالی (رشتہ) - نما، دو دو مع مشغالی۔
 مشغوب (رشتہ) - ثواب دیا ہوا (رشتہ) - ویت، آونے والا
 مزدوری یا ثواب دینے والا، نماز کو پلانے والا
 رشتہ، ویت، مزدوری یا ثواب دیا ہوا، لوٹا ہوا۔
 مشغوبت، مشغوبہ (رشتہ) - رشتہ، رشتہ، رشتہ، رشتہ کا
 بدلہ مع مشغوبت۔
 مشغول (رشتہ) - زمین پر بیٹھا، بانوں پر کھڑا ہونا۔
 مشغوی (رشتہ) - انجام، جگہ، قرار گاہ، آرام کی جگہ۔

مخاؤ رخاؤی مقابله کی جگہ حج مخاؤات ۔
 مخاؤا مخاؤات رخاؤا، مخاؤا، مخاؤا، مخاؤا، مساسا ساسا ہونا ۔
 مخاؤو جینک رخاؤا، ڈیو، جینک، لڑائی کا میدان ۔
 مخاؤورہ رخاؤا۔ ڈورہ، آہس میں پرستہ کرنا ۔
 مخاؤوق رخاؤا۔ وقت، جو محنت میں مخلص نہ ہو ۔
 مخاؤوی رخاؤا۔ بوجی، سقاہل، رو رو دیا، بڑا بہ موئے والا ۔
 مخاؤرب رخاؤا۔ روت، اڑنے والا، جنگ کرینوالا حج مخاؤرین
 مخاؤربہ رخاؤا۔ زبہ، جنگ، کا مدار حج مخاؤریات ۔
 مخاؤرفہ رخاؤا۔ زندہ، سلائی سے زخم معلوم کرنا ۔
 مخاؤرم رخاؤا۔ برہم، عزم کی جمع ۔
 مخاؤریب رخاؤا۔ ریب، مخراب کی جمع ۔
 مخاؤرات رخاؤا۔ رات، پرا بر واقع ہونا ۔
 مخاؤاسب رخاؤا۔ سبب، حسدیاں، حساب کرنے والا ۔
 مخاؤاسبہ رخاؤا۔ سبب، کسی سے حساب یا شمار کرنا ۔
 مخاؤاسبہ رخاؤا۔ برہم، حسد کرنے والا ۔
 مخاؤاسبہ رخاؤا۔ سڈو، حسد کرنا ۔
 مخاؤاسین رخاؤا۔ سین، ہشش کی جمع، ڈاڑھی، ریش ۔
 مخاؤاس رخاؤا۔ اتق، سامان، دھن، دولت ۔
 مخاؤاشات رخاؤا۔ شات، استنہا کرنا ۔
 مخاؤاصر رخاؤا۔ صر، معاہدہ کرینوالا رخاؤا۔ صر، معاہدہ کیا ہوا ۔
 مخاؤاصرہ رخاؤا۔ صر، رانہ بندی، گھیرا ڈانا ۔
 مخاؤاصرہ رخاؤا۔ صر، سوال جواب کرنا، دوڑیا بڑا بڑی کلا
 مخاؤفظہ رخاؤا۔ ظہ، نگاہیں، گورن حج مخاؤافضین ۔
 مخاؤفظت رخاؤا۔ ظت، نگہبانی ۔
 مخاؤافل رخاؤا۔ فل، محفل کی جمع ۔
 مخاؤاقیرہ رخاؤا۔ قیر، ہاتھ، قدم، پنس، ڈولی ۔
 مخاؤاق رخاؤا۔ ق، چاند کا گھٹا، چاند کے مہینہ کی
 آخری تین راتیں ۔
 مخاؤاکا، مخاؤاکات، مخاؤاکا، مخاؤاکات، باہمی بات
 چیت، باہمی داستان گوئی ۔
 مخاؤاکم رخاؤا۔ کم، حکمہ کی جمع ۔

مخاؤاکمہ رخاؤا۔ کم، فیصلہ، منعین حج مخاؤاکات ۔
 مخاؤاکال رخاؤا۔ اکال، نامکن بات حج مخاؤاکال (رخاؤا)
 کم، فیصلہ، رخاؤا، عمل کی جمع ۔
 مخاؤالفت رخاؤا۔ لفت، بھید کرنے والا ۔
 مخاؤالفت، مخاؤالفتہ، رخاؤا۔ لفت، رخاؤا۔ لفت، بھید کرنا،
 قسم کھانا، باہم حلف اٹھانا ۔
 مخاؤالہ رخاؤا۔ لہ، چارہ، اعلیٰ ماہد ۔
 مخاؤالم رخاؤا۔ الم، نگاہ رکھنے والا، بیہ سطر، کس ۔
 مخاؤامات رخاؤا۔ مات، نگاہ رکھنا، دفع کرنا ۔
 مخاؤاملت رخاؤا۔ ملت، باہم بوجھ اٹھانا ۔
 مخاؤامی رخاؤا۔ می، کین، بیٹھو ۔
 مخاؤانات رخاؤا۔ نات، فوکروا شدت کرنا ۔
 مخاؤاووہ رخاؤا۔ ووہ، جو اندری میں سقاہل کرنا ۔
 مخاؤاورثا رخاؤا۔ ورت، رخاؤا۔ ورت، بولوں
 چال، بات چیت حج مخاؤاورثا، باہم بات کرنا۔
 مخاؤاورہ رخاؤا۔ ورہ، کسی سے ملنا ۔
 مخاؤاول رخاؤا۔ اول، حوالہ کرینوالا، گرد بھرنے والا ۔
 مخاؤاولت رخاؤا۔ ولت، دھونڈاھنا، چاہنا ۔
 مخاؤوجب رخاؤا۔ وجب، دوست، محبت والا ۔
 مخاؤوبانہ رخاؤا۔ بانہ، عجب کی مثل ۔
 مخاؤوجبت رخاؤا۔ جبت، دوستی، پریم ۔
 مخاؤوجہ رخاؤا۔ وجہ، دوات حج مخاؤوجہ ۔
 مخاؤوجس رخاؤا۔ جس، تپ، فغان، زندہ ماں رخ۔ کین
 بھانے کا سامان، رخ۔ کین، قیدی، قید کیا ہوا۔
 مخاؤوجوب رخاؤا۔ جوب، دوست، پیارا ۔
 مخاؤوجوبہ رخاؤا۔ جوبہ، پیاری، دوست عورت ۔
 مخاؤوجوبی، مخاؤوجوبیت، رخ۔ جوبی، رخ۔ جوبی، پیارا۔
 مخاؤوجوبس رخاؤا۔ جوبس، قیدی مرد، قید کیا گیا۔
 مخاؤوسانہ رخاؤا۔ سانہ، قیدی کی مانند۔
 مخاؤوسمہ رخاؤا۔ سمہ، قیدی عورت۔

مخلوط النسل ریح - کو ملحق (شش سال، دو غلا، دو سلا -

مخلوط ریح - کوسا، باہر لایا ہوا، نکلا ہوا۔

مخلوط ریح - کو فوج، پیدائی ہوئی چیزیں مخلوقات۔

مخلوط ریح - الما خال کیا ہوا، چھوڑا ہوا۔

مخلوط ریح - مطیع، ریح - الما ریح مطیع، بلا تکلف۔

مخلوط ریح - من جنس تحریک ہوا، گو نہ بھابھوار ہو، مگر گوندھنے والا ریح۔

مخلوط ریح - من دل میں رکھنے والا۔

مخلوط ریح - من (بائع جن و ممالی چیز، یا بائع مصرعوں کی نظم جمع محاسبات۔

مخلوط ریح - منصفہ ہو، عیوب، اضطراب، افزائش۔

مخلوط ریح - من (نیل، ایک سلا، مگر طرا۔

مخلوط ریح - من (کلی، کلی، کلیت، انسوب، تجزی، منظر کو مشورہ ریح - من (مؤرم، مولانا، مشرب، پاد ہوا۔

مخلوط ریح - من (نش، بیوٹا۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مخلوط ریح - من (کلی، کوئی، کوئی، کلا گھونٹنے کا آلہ۔

مرآتیت (مرآتیت) بوجہ کو پہنچنا۔

مرآین (مرآین) رہن رکھنے والا۔

مرآہنت (مرآہنت) رہن رکھنا۔

مرآی (مرآی) خود غائی، جنگ کرتا۔

مرآئی (مرآئی) دیا کرنے والا، خود غا۔

مرآیلہ (مرآیلہ) حلدی جان۔

مرآیہ (مرآیہ) بام شکر کے قوام میں ڈالا ہوا پل حج مرآتیت

ترتیب کیا ہوا، بالا ہوا، مرآتیت بہ منظور دیکھنے کی جگہ، اشکاک گاہ، ٹھیل کا میدان۔

مرآت (مرآت) حج، نفع بخش (مرآت) حج، نائدہ کا لگے حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) بکر کو لے کر حج کی جگہ حج مرآت۔

مرآت (مرآت) بظاہر جانوروں کا ٹھکانہ حج مرآت۔

مرآت (مرآت) چاروں طرف سے کی جینے۔

مرآت (مرآت) حج، جو گوشہ حرم کی لسانی چوڑا بنا لیا۔

مرآت (مرآت) چاروں طرف سے حج، پہاڑی نزل حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، بالہا ہوا۔

مرآت (مرآت) حج، بندھا ہوا، ربط کیا ہوا، لگایا ہوا۔

مرآت (مرآت) حج، میان قدم چارستان۔

مرآت (مرآت) حج، پیر و رش کر نوالا، تربیت کر نوالا، مرآت حج، بام دیکھو مرآت حج، حج، بیاض خور، اسود خور۔

مرآت (مرآت) حج، بجز خشکار۔

مرآت (مرآت) حج، عیش و نشاط کرنے والا۔

مرآت (مرآت) حج، تامل اور باہانت کرنے والا۔

مرآت (مرآت) حج، حج ترتیب دینے والا، مرآت حج، حج ترتیب دیا ہوا، حج۔

مرآت (مرآت) حج، ترتیب دیا ہوا۔

مرآت (مرآت) حج، امید رکھا ہوا۔

مرآت (مرآت) حج، اسلام چھوڑا ہوا ہوا۔

مرآت (مرآت) حج، اسلام چھوڑی ہوئی عورت۔

مرآت (مرآت) حج، نقش پکڑنے والا، مرآت حج، قسم، نقش۔

مرآت (مرآت) حج، پکڑا ہوا۔

مرآت (مرآت) حج، رشتی ارشوت لینے والا۔

مرآت (مرآت) حج، رشتہ اپنیدہ۔

مرآت (مرآت) حج، شخص کو حج، حج، حج کی طرف منسوب۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرآت (مرآت) حج، حج، حج، حج مرآت حج۔

مرغ کُزج - کُزج، ترنجی دیا ہوا مرغ کُزج، ترنجی دیو والا،
 مرغ کُزج (زنج) داپسی کی جگہ جع مرغ کُزج -
 مرغل اہر - جلن، تالینے کی بڑی دیگ جع مرغ اہر -
 مرغور مرغ - جھوم، امید کیا ہوا -
 مرغوش (مرغ - جوش) منقلب -
 مرغوش (مرغ - جوش) مرغوش (مرغ) کیا ہوا، لوٹا یا ہوا -
 مرغول (مرغ - جوش) بٹائل، جو اڑا پیدا ہوا ہوا -
 مرغوش مرغ - جوش، پھرا کیا ہوا، نکالا ہوا -
 مرغی (مرغ - جی) وعدہ ٹکالنے والا -
 مرغ (مرغ، انشانا، ناسد ہونا، خوش ہونا، مرغ) خوش جہ مرغی، مرغی -
 مرغ (مرغ - بہت) اکشاہہ جگہ، چوڑا ہونا، جع مرغ
 مرغیا (مرغ - خبا، اکلمہ، تفریق، اشبا، خوش آمدید،
 فرامی گلہ -
 مرغلہ (مرغ - فہم، منزل، منزل گاہ جع مرغ اہل -
 مرغمت (مرغ - جنت، مہربانی جع مرغ اہل -
 مرغوش (مرغ - جوش) ارست کیا ہوا، مرغوش کا لفظ کی طرح اڑا -
 مرغوشہ (مرغ - جوش، مہرمت کی ہوتی -
 مرغ (مرغ - تیز) تیز کی لاش کھانا -
 مرغ (مرغ - جھنک) زبعت کرینا، لاش کھنا،
 زبعت کیا ہوا -
 مرغ (مرغ - جھم، جھم، سلام کیا ہوا، اہرہ کلمہ جس کا صرف
 آؤنگے یاد کیا گیا ہو -
 مرد (مرغ - آدمی) مذکورہ، مسمانی، مذکورہ، مرد کی جع -
 مرد (مرغ - تاج) دکھتا ہوا چہرہ، جس کا رنگ تان -
 مرداد (مرغ - داد) فارسی کا پانچواں شہسہ ہینہ -
 مرد آدمی (مرغ - آدمی) بھیلے آدمی، کلمہ غیاطت -
 مردار (مرغ - دار) ناپاک، مرد کے لاش، لوتھو -
 مردار (مرغ - رزق) رزق، جوش، مردار کھانے والا -
 مردار (مرغ - رزق) رزق، جوش، رزق، رزق، رزق، رزق، رزق،
 مردانگی (مرغ - رزق) رزق، جوش، بہادری -

مردانہ (مرغ - نڈ) مرد کی مانند -
 مردانی (مرغ - نڈ) مردوں کی طرح عورت -
 مرد و یکہ (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مرد و رزق (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردک (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردکار (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم آبی (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم آزار (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم آزاری (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم خیر (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم خیر (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم داری (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم زن (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوبک (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوم گیا (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 شکل سے تشبیہ دیتے ہیں -
 مردومی (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردون (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردونی (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردود (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 بہادر آدمی (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ دل (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ سنک (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ شو (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوی (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردووی (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -
 مردوہ (مرغ - نڈ) نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ، نڈ -

مرزاب (مرز ترازب) پر نام چھ مرزا ترازب۔
 مرزانی (مرز۔ زاب۔ زابی) سرداری، جھلمہ نالی۔
 مرزیان (مرز۔ زابان) زمیندار یا سردار۔
 مرز بلوچ مرزا۔ بچھڑم جاسے پیدا کیش، جیم بھوم۔
 مرز بھر (مرز۔ تریہ) طریق، نامادہ، حکومت (مرز تریہ) موگیا۔
 مرز قان (مرز۔ زہ قان) دوزخ یا کشیدان (پستیان۔
 مرزان (مرز۔ زان) چوہا۔
 مرز خوش، مرز خوش مرز۔ زان۔ خوش، مرز۔ زان۔
 گوٹش (ایک نام کی خوشبودار گھاس جس کو شاہ عزت اور
 چہرے کے خطے تشبیہ دیتے ہیں، دوند، موسا گئی۔
 مرزہ (مرز۔ زہ) دیکھو مرزان۔
 مرز (مرز۔ سن) مرزہ کی جمع، طبیب، کمال، ستیا
 مرزاس (طبیب، مشاق، ایک مہوہ۔
 مرزیات (مرز۔ سات) ننگو حج مرز اسٹیج۔
 مرز شیخ (مرز شیخ) چھوٹے حج مرز شیخ۔
 مرز سل (مرز۔ سل) مہیما ہوا، صاحب کت ب بنی حج
 مرز شیلین (مرز۔ سلین) مہیچھنے والا، چھوڑنے والا۔
 مرز سلم (مرز۔ سلم) مہیما ہوا، ٹککا ہوا، ٹککا ہوا، پار۔
 مرز سہ (مرز۔ سہ) ارستہ، ننگو حج مرز سہ۔
 مرز سوم (مرز۔ سوم) مرز کاری روئے بہا مانہ، فرمان، حکم
 نہ ڈالا ہوا، قاعدہ کیا ہوا، نشان کیا ہوا۔
 مرز سنج (مرز۔ سنج) سیریا، اٹپکا ہوا۔
 مرز سہ (مرز۔ سہ) ہایت کوئی والا، سیدھی راہ چلائی ہوا
 (مرز۔ سہ) سیدھی راہ چلائی ہوا (مرز۔ سہ) سیدھی
 راہ حج مرز سہ۔
 مرز شوش (مرز۔ شوش) چھڑکاؤ کیا ہوا، اٹپکا ہوا۔
 مرز صاع (مرز۔ صاع) لٹو۔
 مرز صد (مرز۔ صد) مرز صد، مرز صد، مرز صد، مرز صد،
 انتظار، نکھات حج مرز صد۔
 مرز صیح (مرز۔ صیح) صیح جو اہرٹ ہوا، سوزوں الفاظ کی
 منظم یا بشرح میں الفاظ نیکہ کی مثل جڑی ہوں۔

مرصود (مرز۔ صود) مرصود سے جا چنی ہوا، نگاہ ڈالا ہوا۔
 مرصو ص، مرصو ص (مرز۔ صو ص) مرز۔ صو۔ صو۔
 مرصو ط (کیا ہوا، رنگ پلایا ہوا۔
 مرصوع (مرز۔ صوع) دیکھو مرصع۔
 مرصع (مرز۔ صع) بیماری حج امر صع۔
 مرصع (مرز۔ صع) دودھ پینے کی جگہ، پستان، چھاتی
 حج مرز صع (مرز۔ صع) دودھ پینے کا آلہ
 (مرز۔ صع) دودھ پلانی، بلانا، والی۔
 مرصعہ (مرز۔ صعہ) دودھ پلانی والی حج مرز صع۔
 مرصو ض (مرز۔ صو ض) مچکا ہوا۔
 مرصوم (مرز۔ صوم) پتھر کی عمارت۔
 مرصعی (مرز۔ صعی) مرز۔ صعی (پسندیدگی، پسندیدہ
 زمر۔ صعا) مرصع کی جمع۔
 مرط (مرز۔ ط) اولی کس حج مرط۔
 مرطب (مرز۔ ط) اتر ہوئی والا، اتر مرط (طب) اتر
 کرنا (مرز۔ ط) اتر کرنا ہوا۔
 مرطوب (مرز۔ طوب) اتر، مچھکا ہوا، نمی یا ہوا۔
 مرطوبی (مرز۔ طوبی) مہیا، مچھتیس آدمی۔
 مرعش (مرز۔ عش) ایک قسم کے کھیلدار کو کہتے۔
 مرعوب (مرز۔ عوب) ارباب میں آیا ہوا، ڈرایا ہوا۔
 مرعی (مرز۔ عی) چلا گیا، ہری گھاس حج مرعی
 (مرز۔ عی) رعایت کیا ہوا۔
 مرع (مرز۔ ع) ہری دوب (مرز۔ ع) پرند، سورج
 حج مرع (مرز۔ ع) تھوک، آب دہن۔
 مرع (مرز۔ ع) خا، خروس۔
 مرعی (مرز۔ عی) چھڑکاؤ کی جگہ، لٹو۔
 مرع (مرز۔ ع) حج کی جمع۔
 مرعان (مرز۔ عان) حج مرع، حج مرع، حج مرع، حج مرع،
 بازوں والے پرندے یعنی فرشتے۔
 مرغاب (مرز۔ غاب) غیب، غیب، غیب، غیب، غیب، غیب،
 مرغاب (مرز۔ غاب) غیب، غیب، غیب، غیب، غیب، غیب،

مرغباری زمزمغ یا زری مرغی اطلانا -

مرغبار زمزمغ - نازد ہر اہم جز جنگ اہری دوب کی ہوگی

مرغ زریں زمزمغ - نازد زریں ایک سہری جنگی مرغ

مرغ سہری قی زمزمغ - سب نازد ہا ہر میں جو ایک ہر ہر

مرغ سہریان زمزمغ - سب نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ سحر زمزمغ - سحر بلیل و مرغ

مرغ علسی زمزمغ - عی سنا چنگا ڈر

مرغ عکب زمزمغ - عکب چھوٹا سا مرغ مرغ کی تصویر

مرغ خامہ سر زمزمغ - خامہ سر ایک کوتاہ بد ہد

مرغوا زمزمغ - غوا نال بد

مرغوب زمزمغ - غوب پسندیدہ مرغی کیا ہوا

مرغ عول زمزمغ - عول مرغ عول زمزمغ - کہ دھوئیں کا جھلا بالوں کا ٹھوگر آواز کا اتار چڑھا

مرغی زمزمغ - مرغی ہا کیاں

مرغ فاد زمزمغ - فاد وھول زمزمغ - فاد پندر گاہ

مرغ فاد زمزمغ - فاد بڑا پیالہ

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ فاق زمزمغ - فاق کہنی چھ ہر فاق زمزمغ - فاق دہ کام جس سے نازدہ حاصل ہو

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مرغ زمزمغ - نازد ہا ہر ہر ہر ہر ہر ہر

مستعمل ریش - کچھ ڈور مڈر چاہئے والا ریش - کچھ ڈور مڈر چاہا ہوا۔

مستعمل ریش - کچھ بچی باغی، ہندی، تھلا کار۔

مستعمل ریش - کچھ ٹھنڈا مہربانی چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ بیانی استغفا دینے والا۔

مستعمل ریش - کچھ بولتے آتشکار کرنے والا۔

مستعمل ریش - کچھ مگر کا لونی، نو آبادی، آبادی چاہا ہوا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ آری، نو آبادی چاہئے والا، نو آباد کار، مستعملین۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ استعمال میں لایا ہوا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ عاریت مانگنے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ مدد چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ اجازت سے انصاف چاہیں۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ ٹیڈا ٹیڈا نوواہ، استغنا ذکر نوالا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ برحق ہو نوالا، کام میں پوری طاقت سے لگ جائیو والا ریش - کچھ کچھ عرفی عرفی کیا ہوا، کام میں لگا ہوا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا ریش - کچھ کچھ بربخش چاہا ہوا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مستعمل ریش - کچھ کچھ بربخش چاہئے والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی فی نیت خوب بین، مذہبین۔

مسکینیت میں کرم، ٹھیکہ، ناسیہ کا کام کرنے والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، کینجلی جو سانپ ڈالتا ہے۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، صاحب سلاح، ہتھیار والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، جو ہتھیار بند ہو، ہتھیار بندھا ہوا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، کچھ ہتھیار بند۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، کھال کھینچنے کی جگہ، کھال کھینچنے والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، سنگ، لنگڑا، سلسلہ دار، زنجیر بند۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، غالب، فاتح، کسی کو کسی پر مغرور کرینا والا رشتہ، کٹا، جس پر کسی کو مغرور کریں،

مغلوب، مغلوبہ، تسلط حاصل کیا ہوا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، پینتا لیس، بریں کی عورت یا

بہن یا باندھے والا، جھاڑ یا زھکھ سووا کرنے والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، سہاگا، پیلا، میرا کرتے۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، فلاح، راستہ، مسکینوں کی۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، بریل کی تیاری پیدا کرنے والا،

ریشوت دینے والا، چوری کرنا والا، تلوار کھینچنے والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلمان، طاعت میں گروں

راکھنے والا، جسے مسلمانوں کی نیت، کلمہ تسلیم کیا ہوا

رشتہ، کلمہ تسلیم کرنے والا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلمان، مذہب اسلام کا پیرو

رشتہ، مسلمانوں کی نیت۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلمان بن، مسلمان ہونا

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلمان عورت، رشتہ، کلمہ تسلیم کیا ہوا

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو ٹوٹنے سے جاپا ہوا، سادیا کیا ہوا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا۔

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسکینیت (رشتہ) کی نیت، مسلوب (رشتہ) کو کھال کھینچنا ہوا،

مسعود (مسعودی) کالا کر نیوالا، کیونکہ والا (مسعودی) کوڈ کالا کیا ہوا لکھا ہوا۔

مسعودہ (مسعودی) کوڈ کی مرتبہ سرسری طور پر لکھا ہوا لکھا ہوا رشق۔ کوڈ کوڈ کالا، سیاہ۔

مسعود رشق (ہند) بیار کیا ہوا، جگایا ہوا۔

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مسئلہ رشق (ہند) اصل طلب سوال، تجویز، شرعی سوال

مشا احسن (مشائے) حتمہ آپس میں دشمن رکھنا۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشا اور (مشائے) اشارہ کیا ہوا (مشائے) لڑ چھٹنا، مہل۔

مشخ (مشخ) رخ (مشخ) کی جمع۔

مشائی (مشئی) انشاؤں کی اس عقیدے کا پیروکار جس میں

حقائق انشاؤں میں سے معلوم کی جاتی ہیں ان کے مشائی (مشائی)

مشائخ (مشائخ) ہندوؤں کا نام ہیں جو شش کرنا۔

مشالیع (مشالیع) بارہ صحابہ ہمزائی، آفریقہ پر تہ

مشالیعت (مشالیعت) ایک تہ خصص کرینے کے چند نام

ساخ جانا، پیروی کرنا، مدد کرنا۔

مشیر (مشیر) کرہ کا ٹھکانہ مشاریخ۔

مشخ (مشخ) بیج سیرک ہونے پر یا پش لیا کر بیا

ہوا (مشخ) بیج اجازت یا مسافر کے لیے جہیز والا

مشک (مشک) بگتہ جالدار جیزہ بانی، جلیبی۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہوا (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مشمش (مشمش) بڑھاپا ہونے والا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مششوق (مششوق) شوق ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا ہوا۔

مطر رنظہ، ہر دفعہ بارش سے آمطران رنظہ تا زکی
مطران رنظہ (۱) سمقا تا زکی تا زہ۔

مطران رنظہ (۲) زان، عیسائیوں یا ہندوؤں کا سردار ہونے سے
مطران رنظہ۔ ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۳) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۴) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۵) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۶) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۷) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۸) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۹) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۰) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۱) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۲) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۳) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۴) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۵) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۶) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۷) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۸) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۱۹) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۰) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۱) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۲) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۳) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۴) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۵) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مطران رنظہ (۲۶) ہر دفعہ بارش کو نام ہے۔

مقطوع قطع ہوا کا بیٹھا یعنی ہونے پر چیز کو قطع ہوا کہہ کر قطع ہوا
 سکا کھٹا، نثری طرز میں رکھا ہوا رزق۔ قطع اور دیکھو مقطوع
 جس معنی طبع رزق قطع لوگوں کے دعوے اور
 معاملات کا طے چھانٹنے والا۔

مقطوعا (مقطوعا) مقطوعا (مقطع) کا جمع۔
 مقطوع رزق (مقطوع) قطع کیا ہوا کا نام چھانٹنا ہوا۔

مقطوعا رزق (مقطوع) قطع ہوا کہہ کر قطع ہوا۔
 مقعد رزق (مقطوع) قطع ہوا کا مقام (مقطع) کی جگہ معنی

مقعد مقعد، غور گری، نگاہ، گہرا گڑھا۔
 مقعدا (مقطوع) کا تانیہ کر ہوا۔

مقطوع رزق (مقطوع) قطع ہوا۔
 مقسطم (مقطوع) کا لڑکے کی چیز۔

مقطوعا (مقطوع) کا اور دیکھو مقطوعا۔
 مقفل رزق (مقطوع) ان گھوڑا، نکتہ چینی کرنا یا پھینکے کسی

کو اور نولین رزق (مقطوع) ان گھوڑوں جو ایک گوندھے،
 بزرگ یا ننھا ایک بیل کا نام (مقطوع) اور ویش سنگھان

مقطوع کرنا والا (مقطوع) ہمتان کی جگہ گریز۔
 مقفلا رزق (مقطوع) لڑائی، کئی، ہالی، جمع مقفل۔

مقطوب (مقطوع) رزق، پھر بیٹھنا، لڑنے والا۔
 مقلوب القلوب (مقطوع) رزق، رزق، دلوں کا

پھینکنے والا۔
 مقلوب (مقطوع) لڑنے، بیرونی کرنا والا (مقطوع) لڑ، وہ کہ

جس کی بیرونی کا جاوے۔
 مقبلس (مقطوع) رزق، تیار یا۔

مقبطل (مقطوع) رزق، بے قرار، شراب۔
 مقبطل (مقطوع) رزق، بے قرار، شراب۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔
 مقبول (مقطوع) رزق، کتبہ، قلمدان۔

مناصہ رشتہ میں ایسا کرنے کی جگہ، جھگان۔

مناصب رشتہ میں جگہ اور بونستی ظاہر کرنا۔

مناصب میں منصب کی جمع۔

مناصبت رشتہ میں نسبت، جگہ اور بونستی ظاہر کرنا۔

مناصبہ رشتہ میں نسبت نصیب کرنا۔

منانظر رشتہ میں مدد کرنا اور رشتہ میں مدد کرنے کی جمع۔

منانصرت رشتہ میں مدد اور باہمی۔

مناصقبہ رشتہ میں مقدمہ آدھوں آدھ اور ڈولوں کو کرنا۔

مناصبلہ رشتہ میں مسافت۔

مناصبلہ رشتہ میں مسافت پر باہمی کرنا۔

مناطر رشتہ میں مقدمہ، مطلب، پیچیدگی، شکوک اور

مناطمہ رشتہ میں تلخی، بگڑنا، مارنا اور بگڑنا۔

مناطیق رشتہ میں منطق کی جمع رشتہ میں بات

کینے والا۔

مناطقہ رشتہ میں قطعہ بات کہنا۔

مناطرہ رشتہ میں قطعہ مناظرہ کرنا اور مناظرین

رشتہ میں منظر کی جمع۔

مناطرہ رشتہ میں بحث کرنا، علم، باہمی بحث

مناظرین۔

مناطمہ رشتہ میں نظریہ، علم، باہمی بحث

مناسخ رشتہ میں نسخہ، نسخہ کرنا اور

مناسم رشتہ میں نسخہ کی جمع۔

مناسمات رشتہ میں نسخہ کرنا اور نسخہ میں اپنا

مناسعات رشتہ میں نسخہ کرنا اور نسخہ کرنا۔

مناسف رشتہ میں نفی کرنے والا، ضد۔

مناسفات رشتہ میں نفی، نفی کی نفی کرنا۔

مناسفہ رشتہ میں نفی کرنے والا۔

مناسفرت رشتہ میں نفرت، باہمی۔

مناسفہ رشتہ میں نفرت، معاہدہ، معاہدہ پر باہمی۔

مناسفہ رشتہ میں نفی کرنے والا، رشتہ میں منفعت

کی جمع۔

شیر خشت، بیٹھا گوشت، ایک آسمانی بیٹھا کھانا جو

بنی اسرائیل پر اترا تھا (سورہ) سے، اند۔

منا رشتہ میں مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ رشتہ میں منزل

مقدار، اندازہ، برابر یا من جو وزن ہے (منا)

مندیہ کی جمع۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

مناب رشتہ میں قائم مقامی، کھڑے ہوئی جگہ۔

منقصبہ دہا۔ قطعہ نفع پائی۔
 مناققہ منقصبہ جن دودلا، نقان رکھنے والا۔
 مناققتہ مناققتہ اودولی اودولتی۔
 مناقنی مناقنی انقنی کرنے والا ہند۔
 مناقب مناقبہ مناقبت کی جمع مناقبہ مناقبہ انبا کاہ
 رکھنے والا۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، تا کا دیکھنا۔
 مناقبہ مناقبہ مناقبتہ باہمی طرائی صیگہ کا۔
 مناقض مناقض مناقض، توڑنیوالا، مخالف۔
 مناقضہ مناقضہ مناقضہ، باہمی توڑ پھوڑ، صیگہ کا۔
 مناقزلہ مناقزلہ مناقزلہ تیز دوڑانا۔
 مناقضہ مناقضہ مناقضہ نکاح کرنے والا۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، نکاح کرنا۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، باہمی جنگ و پیکار۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، منکر کی جمع۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، یافت کی جگہ، جا، جاو۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، نیند کی جگہ، نیند کی جگہ، مناقبت مناقبت مناقبت
 مناقبت مناقبت مناقبت، طریقت دینے والا نام الہی
 مناقبت مناقبت مناقبت، دیشم باہمی طرائی کیلئے نیکوئی کا پھینکا
 مناقبت مناقبت مناقبت، جنگ کرنا، دشمنی ٹھاننا۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، جمع ہونے کی جمع۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، منارہ کی جمع۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، آجی، ان کہاں سے۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، باہمی ہکٹائی۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، باہمی ہکٹائی، ہکٹائی، ہکٹائی۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، باہمی ہکٹائی، ہکٹائی، ہکٹائی۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، باہمی ہکٹائی، ہکٹائی، ہکٹائی۔
 مناقبت مناقبت مناقبت، باہمی ہکٹائی، ہکٹائی، ہکٹائی۔

انک اور کچا حکم جمع منقصب۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، پیشہ جو پیشہ ہونیوالا، پھیلنے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، جھمٹ، نکاس کی جگہ منقصبہ منقصبہ۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔
 منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔

منقصبہ منقصبہ منقصبہ، کھینچنا، ہونیوالا، آگے والا۔

منقل امین نکل ہندل، گنگھی ص متا قزل۔

منقلب امین گنٹ آٹا ہونے والا رہن۔ نکتہ۔

ازدھا ہونے کی جگہ ملنا ہونا، ازدھا ہونا۔

منقلح رہن۔ نکلے اٹکھٹا ہونے والا۔

منقلہ رہن۔ نکلے اٹکھی یا تہندان۔

منقلح رہن۔ نکلے اذیل ہونے والا۔

منقلع رہن۔ نکلے اتناعت کرنے والا۔

منقلوب امین۔ قوب ہوا، خاص کیا ہوا، پھیلا ہوا۔

منقلوش رہن۔ قوش نقش کیا ہوا۔

منقلوص رہن۔ قوش اکم ہوا، اور وہ چیزیں نقص ہو۔

منقلول امین۔ قول نقل کیا ہوا، بیان کیا ہوا۔

منقلی دشت، آٹا یا پاگ کیا ہوا، صات کیا ہوا، زکنتی،

پاک کرینا، صات کرینے والا۔

منکب امین کریم ہونڈھا، دوش ص متا کرپ۔

منکبین امین بکین، دونوں سوڈھے۔

منککر رہن۔ کند، کڈلا، دوہندلا۔

منکر رہن کریم، انکار کرینا، منکر رہن کریم انکار کیا ہوا،

خواب، ناشکر رہن تہری، بات، اعلان، شریعت، چوپان میں

نڈا، دوسرے ص متا کریم نام ایک فرشتہ کا۔

منکر رہن کریم، دوشیٹہ جو مرد سے سوال و

جواب کرتے ہیں۔

منکسر، منکسرہ رہن کریم رہن کریمہ (لوٹا ہونے

والا، اپنے کو گتر جاننے والا۔

منکشف رہن۔ کشف، کھلنے والا، ظاہر ہونا۔

منکوب رہن۔ کوب، جلاب، بدھا، لنگال ص متا

منکوہ رہن۔ کوہ، کجاک کی ہوتی، شریعت کے

مطلوب باقا عدہ ہوی۔

منکوس رہن۔ کوس، سرنگول، اوڈھا۔

منکیہ رہن۔ کن۔ کن، اٹھتے سے بڑھانا۔

منکج رہن۔ جوا، تار۔

منکم رہن۔ منک، لڑا، سخی ہیں۔

منعن رہن (منعت کی ص)۔

منعوا رہن۔ قال، جولاہے کی تھوڑا تھوڑا لفظ۔

منسوب منسوب، انیبت کیا ہوا۔

منوب عنہ منسوب۔ من، (ہ) عیٰ علیٰ منہ کوئی لائن ہو

من وحصہ رہن۔ دوج ہوتا، وصہ سے۔

منصور منورا، روشن، روشن، روشن کیا ہوا، وہ حضرت

جس پر پھول آ رہے ہوں۔

منوط منوط، جو کسی چیز سے وابستہ ہوا، لکھا ہوا،

لکھایا ہوا۔

منووع منوع، دیکھو متاع۔

من وعن رہن۔ ع، عین، منوع، عین، بتا، مہ،

لفظ بلفظ۔

منول رہن۔ دل، ایلیٹن ص متا ول۔

منول رہن۔ زمانہ، موت، منو، دن، منولین

(۱۹۱۶) دیا ہوا۔

منوی رہن۔ دخی، نیت کیا ہوا، ارادہ کیا ہوا۔

منہ رہن (ہ) من مذکر جہنم سے۔

منہاد رہن۔ نہا، شراب، اس چیز سے۔

منہا رج رہن۔ ہانج، راہ راستہ ص متا رائج۔

منہتک رہن۔ ہتیک، دلیل اور دلیل ہونا۔

منہج رہن۔ ہج، راہ، راستہ ص متا رائج۔

منہرام رہن۔ ہرم، اور پان ہونا، اڈھنے والا۔

منہرم (من۔ ہرم، جنگ سے بھاگ جانا۔

منہصم رہن۔ ہصم، پہنچے والا، ہصم ہونا۔

منہیل رہن۔ ہیل، دھجکہ، پانی پینے کو لے ص

متا ہیل۔

منہیک رہن۔ ہیک، کام میں جیکد کوشا، کرنوال۔

منہوب رہن۔ ہوب، موٹا ہوا، غارت کیا ہوا۔

منہوم (من۔ ہوم، لوگھی، لالچی، بھوکا۔

منہی رہن۔ ہئی، خبر دینے والا، من۔ ہئی، ہنٹ کی ہوا،

خراب، جوا ص متا ہئی، منہی ہئی۔

موالات رموال کات ایس جوں رلبطراط رکھتا ، لگاتار کرنا۔

موالفت رموال رلقت البقت باہمی ، عادتی ہونا۔
موالی رموال یعنی مددگار ایس جوں رکھنے والا ، لگاتار کام کرنے والا رموال یعنی مولا کی وجہ سے۔

موالہ رموال یعنی مولا اور مولود کی وجہ سے۔
موالیہ مثل اللہ رموال یعنی ادب تک۔ مثلاً : ہمارے موالیہ بناؤ ، ہمارا ذات یہی ہونا چاہیے۔

موالہرت رموال آج ہرت ابابھی صلاح مشورہ۔
موالست رموال رلست ، باہمی دوستی ، باہمی محبت۔

موالغ رموال یعنی مانع کی وجہ سے۔
موالہب رموال بہت موہب کی وجہ سے۔
موالہبیت رموال یعنی بے عینت ، عطا۔
موالہنت رموال یعنی ہشتی ، کاہلی۔

موالہند رموال راد ہاندہ کی وجہ سے۔
موالیات رموالیات ، یاوں میں لینے کا کپڑا۔
موالیہ رموالیہ ، عظیم ، دانشور ، فلسفی ، پیری فردوس ، آتش برستوں کا پیشوا ، رموال آیت ، آیت ہمیشہ ، ہمیشگی کی ہوا۔

موالیہ رموال یعنی تمام و کمال۔
مووت رمووت امری ، مرگ جی اموات۔
مووتان رمووت رجان ، امری ، مرگ مرگ ، طاعون۔

مووتراش رمووت تراش ہوتراش ، بال تراشنے والا۔
مووتفک رمووت تفک ہوتفک ، بال ٹھونکنے والا۔
مووتفکات رمووت تفکات ہوتفکات ، چوہائی ہوائیں ، توم ہوا کے طوقان ہوا سے زیادہ کئے ہوئے شہر۔
مووتلعت رمووت تلعت ہوتلعت ، عادتی ہونے والا ، سادہ آراستہ کرنے والا۔

مووتراہم رمووت تراہم ہوتراہم ، مرثیہ ، مرثیہ کرنا والا۔
مووتراہم رمووت تراہم ہوتراہم ، مرثیہ ، مرثیہ کرنے والا۔
مووتراہم رمووت تراہم ہوتراہم ، مرثیہ ، مرثیہ کرنے والا۔

موولی رموولی بنا ، ہیبت کی وجہ سے۔
مووتراہم رمووت تراہم ہوتراہم ، مرثیہ ، مرثیہ کرنے والا۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔
موسق رمووت موسق ہوموسق ، موسیقی۔

مہران (مہان) اہانت کیا ہوا۔ ذیل (مہان) مہنہ کی ناسی صیح۔

مہانارت (مہان) کندشت (دور) نا جلدی کرنا۔

مہانقلم (مہان) قلم آہستہ آہستہ ہنسا۔

مہانائل (مہان) نکل (فیون)۔

مہانائے زہنا۔ زہم خوار ہونا۔

مہا وروہ (مہان) وروہ (عده) کرنا۔

مہیب (مہیب) ہول کے چلنے کی جگہ مہیب (جگتے والا)۔

مہیض (مہیض) اترنے کی جگہ مہیض (مہیض)۔

مہیض (مہیض) بیخ (خوابگاہ) مہیض (مہیض)۔

مہیصل (مہیصل) عورت کا دم مہیصل (مہیصل)۔

مہتاب (مہتاب) شایب (دیکھو ماہ تاب)۔

مہتابی (مہتابی) مہتابی (دیکھو ماہ تاب)۔

مہندسی (مہندسی) اہانت کر نیوالا (مہندسی)۔

مہنتر (مہنتر) سردار (مہنتر)۔

مہنتری (مہنتری) سرداری۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہنتھ (مہنتھ) مہنتھ (مہنتھ)۔

مہندار (مہندار) دیکھو مہندی۔

مہندار (مہندار) پرتشو (مہندار)۔

مہندار (مہندار) مہندار (مہندار)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہندی (مہندی) مہندی (مہندی)۔

مہین (مہین) بڑا بڑگا مہین (صفت، طبعیت،
خوار، پشلا، باریک رگوں میں) اہنت کرنے والا۔

مہینہ (مہین)۔ بڑا بڑگا (مہین) بڑا بڑگا (مہین)۔
می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

مہین (مہین) بڑا بڑگا مہین (صفت، طبعیت،
خوار، پشلا، باریک رگوں میں) اہنت کرنے والا۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

می (می) شراب۔

ماطاقت رانا۔ طاقت اکرورد۔
 ناطح رانا۔ طیح دیکھنا، میگ مار تو الا چوپایہ۔
 ناطر رانا۔ طرہ انکور کے باغ کار مھوالا۔ تو۔ اطر۔
 ناطس رانا۔ طس اجا سوس، بجھیدی۔
 ناطق رانا۔ طق بات کرینوالا، سمجھار، مالدار۔
 ناطقہ رانا۔ طقا بات کرنے کی قوت۔
 ناطور رانا۔ طویم دیکھو ناظر۔
 ناطوری رانا۔ طوری دیکھت کار کھولالیا۔
 ناظر رانا۔ ظن دیکھنے والا، نظر ڈالنے والا۔ لاج نظر۔
 ناظرین۔ نظر مگر اس حدیث محمد، خواجہ سرا، وزیر۔
 ناظرو رانا۔ ظرہ امت ثباتی، ہم کو نظر کھینوالی، ہم ناظرین۔
 ناظرہ خواں رانا۔ ظرہ۔ خواں ایسی بکھر پڑھنے والا۔
 ناظم رانا۔ ظوم انتہالی، ہم کرینوالا، نظم کہنے والا، پیرونیوالا۔
 اچ نظر ناظم، نظر ناظم۔
 ناظور رانا۔ ظور انکبیاں، مالی بچیس، محبوب۔
 ناظورہ رانا۔ ظورہ، باطن، محبوب، بھکیا۔
 ناغس رانا۔ غس، اود گھٹنے والا، سوسے والا۔
 ناغورہ رانا۔ غورہ، بہت کا دل سے تو اعر۔
 ناغش رانا۔ غش، زندگی بخشنے والا۔
 ناغم رانا۔ غم، نامزد، مدد، نرم، نازک۔
 ناغمہ رانا۔ غمہ، نازک، بدن عورت۔
 ناغی رانا۔ غی، امت کی خبر دینے والا۔
 ناغہ رانا۔ غہ، غالی، شان۔
 ناغ رانا۔ غ، پیٹ کی ٹنڈی، پیچ۔
 ناغ پیچ رانا۔ غ پیچ، مرور، پیش کا درد۔
 ناغیر رانا۔ غیر، نامزد، بیعت۔
 ناغمہ رانا۔ غمہ، خوشبودار چیز۔
 ناغہ رانا۔ غہ، بھونکے والا۔
 ناغ شک رانا۔ غک، خاک، مکتبہ۔
 ناغیر رانا۔ غیر، جاری ہوئے والا۔
 ناغیر رانا۔ غیر، غن کرینوالا، جے کھر، کھر۔

ناغرام رانا۔ غرام، بد انجام، بداصل۔
 ناغرامان رانا۔ غرام، جان، جو حکم نہ مانے۔
 ناغرامانی رانا۔ غرام، زانی، حکم عدول۔
 ناغرض رانا۔ غرض، بخار جارتے میں نظر کرنے والا۔
 ناغضمہ رانا۔ غضم، بہت پیسے بخشنے والی عورت۔
 ناغیح رانا۔ غیح، نفع دینے والا، لجاج، کفار۔
 ناغیر رانا۔ غیر، واجب عبادت یا علیہ جے کوار اول۔
 پونا، بھیرہ۔
 ناغہ رانا۔ غم، مشک دالے ہرن کی نان کی پڑٹی جس میں مشک رہتی ہے۔
 ناغیم رانا۔ غم، نام سمجھ۔
 ناغیسی رانا۔ غسی، نام سمجھی۔
 ناغی رانا۔ غی، لغی کرنے والا۔
 ناغابل رانا۔ غابل، جاننا، جو قابل نہ ہو۔
 ناغبول رانا۔ غبول، جو ماننے کے قابل نہ ہوں۔
 ناغدر رانا۔ غدر، قدر گھٹنے والا۔
 ناغیر رانا۔ غیر، ادا دیکھنے والا، پیر، در، تر، بجانے والا۔
 ناغس رانا۔ غس، کھٹی شراب۔
 ناغض رانا۔ غض، کم کرنے یا ہونے والا، ادھورا، ادھ لفظ جس کے اصل حرفوں میں آخری حرف علت ہو۔
 ناغیح رانا۔ غیح، نامزد، خون، زہر کھیننے والا۔
 ناغل رانا۔ غل، حق کرینوالا، بات دوہرا نیوالا، جے نکلو، کوار اول۔
 ناغوت رانا۔ غوت، وقت اکرورد۔
 ناغور رانا۔ غور، کرنا، سکھ۔
 ناغوس رانا۔ غوس، سکھ، غیر عبادت کا گھٹے۔
 ناغہ رانا۔ غہ، سادٹی، جے توت، نیات، اتوات، مانق، رانا، جے جی، بیاری سے اٹھا ہو۔
 ناغ رانا۔ غ، ہوا، آواز، مالک صاحب، خداوند۔
 ناگا رانا۔ گا، گا، جو کام کا نہ ہو، ادھی۔
 ناگا کاشٹہ رانا۔ گا، کاش، رتا، بغیر لویا ہوا۔

نامندہ رکنا۔ بڑے۔ کٹو، نام کھنے والا۔

نامواقی (رنا۔ حیوان) یعنی جو موافق نہ ہو۔

نامواحقانہ نہ رکنا۔ جمو۔ فقہ۔ نہ موافق کی طرح۔

ناموافقت رکنا۔ جمو۔ فقط موافقت نہ ہونا۔

نامور نام۔ ذکر ہمشہور نامی۔

نامور نہ رکنا۔ نہ نامور کی مانند۔

نامور ہی نام۔ ورنہ ہی نام ہونا مشہورست۔

ناموس رکنا۔ مؤس اعصمت، عفت، ناموس کی

نیک نامی، تہذیب، مہارست، تاغده، دستور،

پھر ڈانس، مگر پوشیدہ جملہ، فرشتے، احکام

ابھی سے تو امیںس۔

ناموسیر رکنا۔ موت۔ تھی، نیم، چھہرہ والی۔

نامسہ رکنا۔ بڑے ہلکے موافق، چھٹی سے ناممات۔

نامہربا رکنا۔ میڑ۔ باقی جو بہرانی نہ کرے۔

نامی (رنا۔ ہی)۔ نامور، مغرور، مشہور۔ م۔ برہنے

والا، پھیلنے والا۔

نامید رکنا۔ بوج۔ بوج نام رکھنا مضاعف نام۔

نامیدہ رکنا۔ بوج۔ بوج نام رکھا ہوا۔

نامیبہ رکنا۔ بیہ۔ قوت بالبدی، بڑھوار کی قوت۔

نان رکنا۔ روٹی، تنوری روٹی۔

نان آبی رکنا۔ آبی۔ آبی ایک قسم کی روٹی۔

ناتیا، ناتیائی، نان رکنا۔ نانا۔ پا۔ روٹی، بھٹیلا،

روٹی پکانے والا۔

نان پز رکنا۔ بڑھ۔ روٹی پکانے والا۔

نان پیری رکنا۔ بڑی روٹی پکانا۔

نان خطا رکنا۔ خطا۔ روٹی نام سکھائی۔

نانخواہ رکنا۔ خواہ۔ اجاوبن۔

نانخورش رکنا۔ خورش۔ اسن۔

نان کار رکنا۔ کار۔ وہ زمین جو لڑم کو اس کی خدمت

کے صلہ میں گزارے کے لئے دی جاوے۔

نان کور رکنا۔ کور۔ کمینہ، لالچھی، سنگ حرام۔

ناور نا۔ کور بوری یعنی بچہ کو سکانے کا گیت۔

ناو (کاؤ) کشتی بہر نالہ۔

ناوارش رکنا۔ وارث۔ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

ناواقیف رکنا۔ وا۔ واقع، ایسے ضمیر۔

ناواقہیت رکنا۔ وا۔ یعنی، ایسا، انگریز، بکاری، بھئی۔

ناواقہیت رکنا۔ وا۔ یعنی، وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناووان رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوردنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوس رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوک رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوک انداز رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوک نکین رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناولون رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناولوش رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوہ رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناوید رکنا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔ وا۔

ناہار رکنا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔

ناہب رکنا۔ ہب۔ ہب۔ ہب۔ ہب۔ ہب۔ ہب۔ ہب۔

ناآج رکنا۔ جج۔ جج۔ جج۔ جج۔ جج۔ جج۔ جج۔

ناہر رکنا۔ ہر۔ ہر۔ ہر۔ ہر۔ ہر۔ ہر۔ ہر۔

ناہق رکنا۔ ہق۔ ہق۔ ہق۔ ہق۔ ہق۔ ہق۔ ہق۔

ناہل رکنا۔ ہل۔ ہل۔ ہل۔ ہل۔ ہل۔ ہل۔ ہل۔

ناہمنی رکنا۔ ہمنی۔ ہمنی۔ ہمنی۔ ہمنی۔ ہمنی۔ ہمنی۔

ناہوار رکنا۔ ہوار۔ ہوار۔ ہوار۔ ہوار۔ ہوار۔ ہوار۔

ناہتار رکنا۔ ہتار۔ ہتار۔ ہتار۔ ہتار۔ ہتار۔ ہتار۔

ناہی (رنا۔ ہی)۔ ہنہ۔ ہنہ۔ ہنہ۔ ہنہ۔ ہنہ۔ ہنہ۔

ناہید رکنا۔ ہید۔ ہید۔ ہید۔ ہید۔ ہید۔ ہید۔

ناہت رکنا۔ ہت۔ ہت۔ ہت۔ ہت۔ ہت۔ ہت۔ ہت۔

ناہیمہ رکنا۔ ہیمہ۔ ہیمہ۔ ہیمہ۔ ہیمہ۔ ہیمہ۔ ہیمہ۔

ناہچہ رکنا۔ ہچہ۔ ہچہ۔ ہچہ۔ ہچہ۔ ہچہ۔ ہچہ۔

نقرس رتق پریش ایکا شدید درو جو پیر کی انگلیوں سے
 آکتیا ہے۔
 نقرہ رتق برقی باکھلی ہونی چاندی، گڑھا، مسیق، کوٹرا۔
 نقرنی رتق برقی چاندی کی چینی۔
 نقس رتق مس، نکھنے کی سیاہی ہے اَلْعَاسِس۔
 نقش رتق ش، جھیاہ، تصویر، نشان، ایانت ،
 سزاواری ہے نقوش۔
 نقش رسب رتق اس، بریت، انا یا تدار، بیہوشان۔
 نقشتید رتق شس، برت، خاق، ضائع۔
 نقش پارتق شس، پناہیوں کا نشان۔
 نقش دل رتق شس، دل، یقین، سویدا۔
 نقش دیوار رتق شس، دیوار، دوار کی تصویر یا
 بہوشت، بجا، مکمل چپ اور اچھی پڑیا ہوا ہو۔
 نقش زیاد رتق شس، زیادہ، اسم بلا کسی، نادی۔
 نقش سویدا رتق شس، سوید، دل کا کالا نقطہ۔
 نقش قریبہ رتق شس، قری، رتق جو ابلی نقش۔
 نقش کا اسچر رتق شس، بکلی، رتق مثل تھہرے نقش
 کے جو سبک نہ سے۔
 نقش گزارش رتق شس، گزارش، قابل بیان ہوتے۔
 نقشمہ رتق شس، تصویر، نمونہ، جسم نقشیات۔
 نقشیں رتق شس، نقش والی چیز، نمونہ نقش۔
 نقص رتق ص، کمی، کموت ہے اتقاص۔
 نقصات رتق ص، نقصان، کمی، ٹوٹا۔
 نقضانی رتق ص، مانی، دیکھو نقصان۔
 نقض رتق ص، توڑنا۔
 نقطہ رتق ص، کلہ، ٹمڈ کی چندی، نٹہائے خط ہے
 نقاط، نقطہ۔
 نقطہ انتخاب رتق ص، گزارش، انتخاب، نقطہ
 بطور علامت پسندیدگی۔
 نقطہ سپور رتق ص، گزارش، نقطہ جو بھول سے لگاؤ۔
 نقطہ شک رتق ص، گزارش، نقطہ بطور علامت شک

نقطہ گاہ رتق ص، گزارش، داڑھے کا سرکڑا۔
 نقطہ مقابل رتق ص، گزارش، مقابل، ہمسرا، حرکت۔
 نقطہ لوگڑ رتق ص، گزارش، لوگڑ، رتقائی کی بوند۔
 جو قلم سے نکا گڑ پر ایک بیڑے۔
 نقع رتق ص، گزارش، گزارش، بھنگوٹا۔
 نقل رتق ل، بیان، کہانی، بناوٹ، نمونہ، نقوش
 ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، نمونہ انا رتا نقل
 شراب کے اور کھا نکا جیز مثل گیاب، سیدھ، گرگ۔
 نقل خواہ رتق ل، خواہ، چروٹی۔
 نقلی رتق ل، سیدھ، نقوش رتق ل، مسعودی بناوٹی۔
 نقمرت رتق ل، شرب، دکو، کید، نکلیع، رتق ل، رتق ل۔
 نقضات۔
 نقور ص رتق ل، پائی میں بھینکا ہوا سہوہ یاد والی رتق ل
 پائی جس میں دو نیاں بھینکی گئی ہوں۔
 نقی رتق ل، پاک، خاص سے نقوا، رتق ل، بڑی
 سا گودا۔
 نقیب رتق ل، بزرگ، سردار، عقلمند، حسب د
 نسب جاتے والا، ملاقات کر نیوالا ملازم ص
 نقیاء۔
 نقیر رتق ل، گویا، اصل، حقیقہ۔
 نقیصت، نقیصہ رتق ل، صحت، رتق ل، عیب، عیب،
 بڑائی، کمی، نقصان، بڑی ص نقیاص۔
 نقیض رتق ل، صحت، اٹ، ٹوٹنے والا۔
 نقیح رتق ل، پینے کیلئے ٹھنڈا، ایک ہر خالص دودھ،
 ٹھنڈا پھیلائی، بھگونے ہوئے ہے پھل پھلار یا
 دو نیاں بھینکی ہوئی دو نیاں کہانی۔
 نقیحہ رتق ل، سفر سے واپسی کی دعوت۔
 نقیق رتق ل، مرغی اور مینڈک کی آواز۔
 نقیمہ رتق ل، گزارش، ملاقات، رتق ل، عیب، پاک، خالص۔
 نکابت رتق ل، گزارش، ایاز سانی، دشمن کے لئے۔
 نکات رتق ل، نکات، نکستہ کی صحت۔

نوبتی رتوہ تین لتھاری پاسیان پیکل دیا فیمہ نکول کھوڑا
 نوبہر رتوہ بزم تیا بھل ، نوجوان نونکی ۔
 نوبہر رتوہ بزم حبشیوں کی نوم ۔
 نوبہار رتوہ بشارت بسنت کا موسم ۔
 نوبلی رتوہ بئی حبشی ماہیاں کی سکھی ۔
 نوبیان رتوہ پان لوکوا ۔
 نوبیدار رتوہ بی ڈا آئی پیدا ہوئی چیز ۔
 نوبتیبہر رتوہ جہا اسیلاب رو ۔
 نوجوانی رتوہ بجات جس کی نئی جوانی ہو ۔
 نوجوانی رتوہ بجاتی نئی جوانی ۔
 نوجہ رتوہ بیا بگولا ۔
 نوجہم رتوہ بزم نوجوان ناگوئیں ۔
 نوح ، نوحہ رتوہ نوح ، نوحہ حکیم نالہ ، بینا
 مرد سے پرووتا ۔
 نوجمگر رتوہ بزم بگرد بین کرنے والا ۔
 نوجمگرمی رتوہ بزم گرمی کا بین کرنا ۔
 نوجماسیہ رتوہ بزم خاشاک سے بچھا ، نیا اٹھا ہوا ۔
 نوجسط رتوہ بزم اٹھنے ڈھالا جسکے ڈاڑھی سوچیں دل رہی ہو ۔
 نوجتیز رتوہ بزم نیا اٹھنے والا نوجوان ۔
 نوجیشی رتوہ بزم نوج نیا اٹھاٹھان ، نوجوانی ۔
 نوجو رتوہ بزم نوج نوج نرہ مقدر کون ۔
 نووا ماور رتوہ بزم آسانی دہلوا ۔
 نووہم رتوہ بزم نوسے والے ۔
 نووولت رتوہ بزم نولت نیا مالدار ۔
 نووولتی رتوہ بزم نئی نئی بالدری ، نوج دولت آباد ۔
 نوور رتوہ بزم روشن ، جامانی ، نوجاواڑ ، نوجاواڑ نوجوڑ
 نوجی ، غنیمت نوجاواڑ ۔
 نوورافہ رتوہ بزم نوج نوج جوڑتی برصاوسے ۔
 نوورانی رتوہ بزم نوج روشن ، نوسے شوب ۔
 نوورانت رتوہ بزم نوجا ، حاکم ، پیر ایتنے والا ۔
 نوورانی رتوہ بزم نوجا ہے کا پیشہ ۔

نوبیہم رتوہ بزم آٹھ کی روشنی ، بیٹا ۔
 نور رتوہ بزم نیا بیٹا ، نوج سوال ، بیٹے
 کر نوالا ، پیٹنے والا ۔
 نوروان رتوہ بزم نوروان کا علف ۔
 نورولی رتوہ بزم نورین کے لائق ، پیٹنے کی چیز
 نورورہ رتوہ بزم نوریدہ ۔
 نوروریدہ رتوہ بزم نورین (نور) اور نورین کا علف ۔
 نوروریدہ رتوہ بزم نورین اور نورین اور نورین ۔
 نورین رتوہ بزم نورین ، بیٹا ، بیٹی ۔
 نورس رتوہ بزم نازہ ، نیا پیکا ہوا بھل ۔
 نورستہ رتوہ بزم نورستہ نیا آگایا ہوا ۔
 نورسدر رتوہ بزم نورسدر ترمبہ ۔
 نورنہ رتوہ بزم نورین سترہ پیٹنے والا ۔
 نورور رتوہ بزم نورین سال کا پہلا دن ، آتش کی پونک ، ہواہر
 نورولہ رتوہ بزم نورولہ لکڑی کی پھت گیری رتوہ بزم نورولہ جوہر ۔
 نوروان رتوہ بزم نوروان نفع ، سوغات ، انعام حاصل ۔
 نوروی رتوہ بزم نوروی سفید طوطی ، زرد آلو کی قسم ۔
 نورون رتوہ بزم نورون ہنوز ، آب تک ، تاحال ، صنوبر کا ج ۔
 نوروزہ رتوہ بزم نوروزہ (نورین) ۱۹ ۔
 نوروزم رتوہ بزم نوروزم (نورین) ۔
 نورورہ رتوہ بزم نورورہ لکڑی ۔
 نوروستہ رتوہ بزم نوروستہ جھلی ہوئی روٹی کی آواز ۔
 نوش (نوش) پیٹنے والا ، مرت ، آب حیات ،
 بیٹھا ، زندگی ، شہد ، توس ، قزم ۔
 نوشاب رتوہ بزم نوشاب آب حیات ۔
 نوشادار رتوہ بزم نوشادار ایک کھار کا نام ۔
 نوشان رتوہ بزم نوشان پیتا ہوا ۔
 نوشانیندن رتوہ بزم نوشانیندن پیلانا ۔
 نوشت رتوہ بزم نوشت ، تحریر ، کھنت ۔
 نوشتہ رتوہ بزم نوشتہ ، نوج ادب کھانی ، طہالی ۔
 نوشتن رتوہ بزم نوشتن کھنت کھنت نوشتن ۔

نہاڑا (نہاڑا) نسل کشی کا بلکہ بولک۔
 نہاڑیدن (نہاڑی) ذہن، دیکھو نہاڑیدن۔
 نہاڑی (نہاڑی) لگنے کی آواز۔

نہاڑی (نہاڑی) شہادت یا پودہ کا یا پودہ کا خوش بو بستر،
 گوشک، شکار۔
 نہاڑی (نہاڑی) پتہ، چھوٹی سی گوشک یا بستر۔
 نہاڑی یا نہاڑی (نہاڑی) بستر، گوشک،
 غلات۔

نہاڑی (نہاڑی) بچ، لوہار۔
 نہاڑی (نہاڑی) چھپا ہوا۔
 نہاڑی (نہاڑی) ناکہ، پوشیدہ گھر۔
 نہاڑی (نہاڑی) پوشیدگی، چھپاؤ، چھپاؤ۔
 نہاڑی (نہاڑی) بستی، انتہا، انجام، حد۔

نہاڑی (نہاڑی) لوط، غارت، غنیمت، استغاثہ
 جہ نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی، غارت۔
 نہاڑی (نہاڑی) لاد، راستہ، طریقہ، روش۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، ناکہ، دریا، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔
 نہاڑی (نہاڑی) نہاڑی، نہاڑی، نہاڑی۔

وابط ردا۔ بقا ضعیف، بدول۔

وابط ردا۔ بڑی بڑی بوندوں کا بیٹھ۔

والور ردا۔ بونہ، بونہ۔

واپس ردا۔ بڑی ہٹا ہوا، پھل ہوا۔

واپسی ردا۔ بیکھی، بھاری، موٹائی، ہٹائی۔

واپس ردا۔ بیکھی، بھاری، موٹائی، آخری، شہوت بہا۔

واپت ردا۔ حجت، سخن، بات۔

واقف ردا۔ تین، مضبوط۔

واجب ردا۔ جتن، سزاوار، لازم، ضروری،

لاائق، ٹھیک۔

واجبات ردا۔ جہاں، ادب کی جگہ، ضروری چیزیں۔

واجب الادا ردا۔ جہت، آگاہی، جس کا ادا کرنا

لازمی ہو۔

واجب التعظیم ردا۔ جہت، بڑی، بڑے لائق۔

واجب التعلیم ردا۔ جہت، علم، تعلیم کے لائق۔

واجب الرعايت ردا۔ جہت، رعایت، رعایت

کرنے کے لائق۔

واجب العرف ردا۔ جہت، عرف، پیش کرنے کے لائق،

تقریری سرحدات، درخواست، زمیندار اور کاشتکار

کے درمیان ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ حقوق۔

واجب القتل ردا۔ جہت، قتل، قتل کرنے کے لائق۔

واجب الوجود ردا۔ جہت، وجود، وجود کے لائق،

اللہ تعالیٰ۔

واجبی ردا۔ جہت، ضروری بات، وظیفہ، روزیت۔

واجب ردا۔ جہت، بائے والا۔

واجف ردا۔ جہت، جس کا دل دھڑکتا ہو۔

واجب ردا۔ جہت، دن، کہنا۔

واجب ردا۔ جہت، دن، چننا، چکنا، چٹکانا،

دور کرنا۔

واجب ردا۔ جہت، روزہ، چننا ہوا، چکنا ہوا۔

واحد ردا۔ جہت، ایک جگہ، محمد بن نام اللہ تعالیٰ۔

واجب ردا۔ جہت، واحد کا موٹ۔

واضح ردا۔ جہت، یقین، گمان، راست، درست۔

واضح ردا۔ جہت، سخن، بوجھ، دھمکنے والا۔

واخواست ردا۔ جہت، خواہش، مطالبہ، حساب

نہی، بازخواست۔

واخوردن ردا۔ جہت، خورد، کھانا، ملاقات کرنا۔

واخیدن ردا۔ جہت، خورد، کھانا، ملاقات کرنا۔

واخیدہ ردا۔ جہت، خورد، کھانا، ملاقات کرنا۔

واوردن ردا۔ جہت، خورد، کھانا، ملاقات کرنا۔

باد، ہوا، بولوں۔

وااشتقن ردا۔ جہت، اشتق، بچھڑنا۔

واذرع ردا۔ جہت، ذراع، زحمت کرنے والا۔

واوق ردا۔ جہت، تیز رو۔

واوسی ردا۔ جہت، بیابان، ٹیٹھی، ہموار زمین،

ترابی، مقدمہ، اسماء، حج، اودیبہ۔

واوینج ردا۔ جہت، وینج، دیکھ، بارہج۔

واویدن ردا۔ جہت، وینج، دیکھنا۔

وار ردا۔ جہت، رت، کلمہ، نسبت، کلمہ، تشبیہ، مانند، لائق،

ڈھنگ، دوش، ردا، کورانا۔

وارث ردا۔ جہت، میراث لینے والا، جمع و کثرت،

مورثینا۔

وارو ردا۔ جہت، آئے والا، تمام جمع و کثرت۔

واردات ردا۔ جہت، وارد، کئی، واقعہ،

حادثہ، جو کچھ ایسا ہی ہو، پیش آنی والی باتیں۔

وارد و صادر ردا۔ جہت، ردا، و قنا، و قن، مہمان، سفر

آئے جانے والا۔

وارستگی ردا۔ جہت، رست، گنج، آزادی، تاریخ، اہالیہ۔

وارستہ ردا۔ جہت، رست، آزاد، تاریخ، اہالیہ،

کوار، کھنگالی۔

وارسیدن ردا۔ جہت، رست، بھونچنا، خبر پانا۔

وارث ردا۔ جہت، رشتہ، نوال، جو بلا یا بھوکا نے جاوے۔

وزم رزم صمطا گندی -

وزن رذن قول بوجه اندازه ج اوزان
عزمت وقار -

وزنده رذن ذقه پلنے والی ہوا -

وزنہ رذن بزم بارت کا بیانہ -

وزی رذن بونا ٹھنکنا -

وزیدن رذن کج ہوا کا چلنا یعنی وزو -

وزیدہ رذن ذقه پلنے والی ہوا -

وزیر رذن بوجه اٹھانے والا اعلیٰ تر رکن صحت
یعنی وزرا -

وزیر سی رذن بزمی برقی اذکیو وزیر -

وزن رذن کثافت سخاست -

وزو وزندہ رذن بزم ذقه اتفا کرنے والا -

وزو ویارن رذن بزم ذق اتفا کرنا، آجبارنا
یعنی وزو لڈ -

وزو ویارن رذن بزم ذق اتفا کیا ہوا -

وزو رذن اباشت، وجب -

وس رذن بکھوپس -

وسا وہ رذن ذقہ نگہ، سرمانہ ج وسا بند -

وساطت رذن لٹ واسطہ، وسیلہ، بچ -

وسالت رذن سالت، واسطت -

وسام رذن ستم، تمہ -

وسامت رذن ستم، خوب، زیبائی، خوبصورتی -

وسا اطر رذن سار اطر واسط کی ج -

وسب رذن سب کثرت، بھیر رذن سب اوتولس
شبی کو ٹھنی -

وستار رذن ستم، ترفین، تاش، حمد -

وستی رذن ستم، شرح، ترجمہ -

وسخ رذن ستم، سبیل، سبیل ج اوشاخ
رذن سبیل، سبیل -

وسطر رذن ستم، سبیل، سبیل ج اوساط

رذسطا بھولی چیز، درمیانی چیز -

وسطی رذن ستم، کلا درمیان، بچ کی انگلی رذن ستم
یعنی انسوب بہ وسط، درمیانی -

وسع رذن ستم، چوڑائی، بچ، طاقت -

وسعت رذن ستم، عزت، فسرانی -

وسم رذن ستم، نشان، دارغ، وحید -

وسمت رذن ستم، شمت، ٹیکا، تہمت -

وسمہ رذن ستم، ستم، نیک کی بچی -

وسمی رذن ستم، بچی، بہار کا پہلا مہینہ -

وسن رذن ستم، نیند، آؤنگھ، آؤوونگی، پینک،
آؤوہ رذن ستم، سیا ہوا -

وسنا رذن ستم، بناؤ، بہت، انبوہ -

وسنی رذن ستم، بزم، سون، سوت -

وسواس رذن ستم، ستم، اہم، وسوسہ ج
وسا و ستم -

وسواسی رذن ستم، ستم، اہم، اہمی -

وسوسہ رذن ستم، ستم، انیشہ، ہدی، بڑائی،
بڑے بڑے خیالات ج وسا و ستم -

وسمہ رذن ستم، اہم کی لکڑی، قوت، قدرت -

وسیط رذن ستم، چھوٹی قوم کا عزت آدمی -

وسیع رذن ستم، چوڑا -

وسیع النظر رذن ستم، ستم، نظر جکی نظر وسیع ہوا -

وسیع النظری رذن ستم، ستم، نظر جکی نظر وسیع ہوا -

وسیلہ رذن ستم، ذق، ذریعہ، واسطہ ج وسیلہ و ستم

وسیم رذن ستم، خوبصورت، حسین، نشان کی ہوا -

وش رذن ستم، گاندہ، نشہ، مانند، نظیر، اجتناب،
چڑھی، شملہ -

وشار رذن ستم، شاو، چینی، جھانپنے والا -

وشاخ رذن ستم، سبیل، سبیل ج اوشاخ
اوشاخ، سبیل، سبیل -

اوشاخ رذن ستم، سبیل، سبیل ج اوشاخ

وشاوان (روح) روح کھولتا۔

وشاق (روح) روح غلام لڑکا۔

وشق (روح) روح اچھا، خوش۔

وشق (روح) روح کچھ ناچنا۔

وشق (روح) روح بچہ لگانا۔

وشق (روح) روح عمدہ اولاد کا ایک ترک تالی جانور،

وشق (روح) روح میں غلام لڑکا۔

وشق (روح) روح ایک لڑکے، جلد بازی۔

وشق (روح) روح تھوڑا پانی۔

وشق (روح) روح، نقاشی، وشوم، وشاقم لگانا، کھربھینی خارے کے موسم میں زمین کے بخارات۔

وشق (روح) روح، گلو، شمشاد رنگ۔

وشق (روح) روح، رنگین کپڑا، چھیدٹ۔

وشق (روح) روح، کھیت وغیرہ کی بارش۔

وشق (روح) روح، تیز رو، تیز رفتار، ماسپر۔

وشق (روح) روح، بہت زیادہ فعلیت کرنا والا۔

وشق (روح) روح، پیرسکی (روح) روح، بہت

سننے والا، بڑا مٹا مٹا والا، پیوست کرنا والا (روح) روح

روح) روح کی جمع۔

وشق (روح) روح، تاباں کی سرپرستی۔

وشق (روح) روح، بہاری، روح (روح) روح، بہار

وشق (روح) روح، تقریب، خوبی، صفت، ہم آؤشقا

وشق (روح) روح، جوڑ بند، ملاقات، سچو، میل،

رسید، سچ آؤشقا (روح) روح، عہد، عہد نامہ۔

وشق (روح) روح، بیوند، میل ملاپ، پیوستگی،

پیوند (روح) روح، دیکھو وصلہ۔

وشق (روح) روح، کھربھینی کا ٹھکانا (روح) روح، بالوں کا چٹلا۔

وشق (روح) روح، نی، کافور وغیرہ کے مصالحہ تھکے ہوئے

دو تختے جن پر لکھنے کی مشق کی جاتی ہے۔

وشق (روح) روح، مہم، روح، مہم، عیب۔

وشق (روح) روح، برقع میں سے دیکھنے کا شورانگ۔

وشق (روح) روح، پہونچنا۔

وشق (روح) روح، جس کو وصیت کی گئی ہو، آؤشقا

وشق (روح) روح، ملنا۔

وشق (روح) روح، بچ آنے والے کی خواہشوں کا

اظہار، جوہر تعمیل کے طور پر ہم وھما کیا۔

وشق (روح) روح، آستانہ، چوکھٹ۔

وشق (روح) روح، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وصی، وصی، وصی، وصی، وصی، وصی،

وٹھی (وٹھی) روٹھی، پانڈال کرنا، چھانچ کرنا۔
وٹھیس (وٹھیس) اوسے کا تور۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) پیشن، مقررہ چیز، مقررہ چیز۔
وٹھیہ (وٹھیہ)۔

وٹھیہ (وٹھیہ) برتن، ظن، جو آوٹھا، اور عیہ
وٹھیہ (وٹھیہ) آواز، غوغا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) ناظم، داعی، کج۔
وٹھیہ (وٹھیہ) خوشخبری، لوبہ۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) اقرار، بیان، عہد، جو وٹھیہ
وٹھیہ (وٹھیہ) مشکل، مقدر، ایسا احسان، گری کی حالت

وٹھیہ (وٹھیہ) بھڑکا، بھڑکا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) ناظم، نصیحت، تلقین، ہدایت۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) پہاڑی بکری، جو وٹھیہ، وٹھیہ
وٹھیہ (وٹھیہ)۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) آواز، چل، غوغا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) لومڑی، مقلبت آدمی۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) دھکی، عذاب کا وعدہ۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) چنگ، لڑائی، مشور، غوغا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) کیلہ، فرومایہ، ناکس، توٹھا، بنگین،
بادنجان۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) ظاہر، آشکارا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) شہ، ظاہر کرنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) اور سوائے۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) حلالی، دوستی، عہد، بات۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) پے، شہ، سب کے ساتھ، دفا کر لے والا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) موت۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) ڈاڑھ، دانا، ننگ، حلال۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) ادنا۔ رت، ایچی گری، بیٹھا، میری۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) شیتاب۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) موافقت، محبت، اتفاق، گیلانی۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) موافقت، محبت، موافقت۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) موافقت۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) واندکی، جسے نما بندوں کا گروہ، جو وٹھیہ
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) کسی اعلیٰ منصب والے کے پاس جانا

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) کثرت، ویا دتی، پورا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) اشتاب، جلدی۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) ترکش، جو وٹھیہ
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) موافق، سازگار، مصلحت۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) واندکی، جمع، واندکی جمع۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) زیادتی، بہتایت، کثرت۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) تمام، کامل، پورا، جوئی، تمام ہونا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) وہ چیز جس سے تنگہائی کریں۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) بے شرم، بے ادب، جو وٹھیہ
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) بے حیائی، بے ادبی۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) بڑا، چکدار، بہت بھوکدار۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) بھاری، برباری۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) گردن توڑ، جنگجو۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) لڑائی، جنگ، روٹھی، قاتل، چنگوڑ۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) ادنیٰ، کجی جمع۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، روٹھی، لڑائی۔ نگار، خبریں لکھنے والا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) لڑائی، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔
وٹھیہ (وٹھیہ) (وٹھیہ) نگار، لڑائی، خبریں لکھنا۔

<p>ولولہ (وَلُولَہ)۔ ذکت، خوش خوش، واہیلا، شور و غل۔ ولولہ (وَلُولَہ)۔ شیفٹنگی، عشق، غصہ۔ ولولہ (وَلُولَہ)۔ کھانہ، حیران، بے ہوش۔ ولی (وَلِی)۔ دوست، مددگار، نزدیک، کھیل، ذمہ دار خدا رسیدہ، شہزادہ، سردار، مالک جم اور لیا (وَلِی)۔ بھار کا دوسرا سہیلہ، نزدیک ہونا۔ ولے (وَلِے)۔ حرت، استغنا، حرت، استراک، ایک، لیکن، مایے۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ بچہ، ولی دوست۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ بچہ، لڑکا، غلام لڑکا، لونڈی جم ولولہ (وَلُولَہ)۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ لونڈی، لڑکی جم ولولہ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ گل، غنچہ۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ بادشاہ کا جانشین۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ لیکن (وَلِیْمَہ)۔ بے۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ بیاہ کی دعوت۔ ولیمہ (وَلِیْمَہ)۔ داد، توہا۔ ولی نعمت (وَلِی نِعْمَہ)۔ نفع، منت، امر، حسن و مہمان (وَلِی مَعْمَان)۔ کھلی چمکنا۔ ولن (وَلَن)۔ کلمہ تشبیہ، مانند، چہ و بچی۔ ونا (وَلَنَا)۔ منت ہونا، ماندہ ہونا۔ وناہ (وَلَنَاہ)۔ منت عورت۔ وناہ (وَلَنَاہ)۔ مانند، کارہ تشبیہ۔ وندہ (وَلَنَدَہ)۔ ذمہ، ترہ تیزک۔ ونی (وَلَنِی)۔ مانند، مستی، مانندگی۔ ونیم (وَلَنِیْم)۔ مکھی کا گوہ۔ وہ (وَلَہ)۔ دیکھو واہ۔ وول (وَلَوَل)۔ کاج، بہت بخشنے والا، اللہ تعالیٰ وول (وَلَوَل)۔ کاج، روشن، چمکیلا، بھر پور،</p>	<p>وہیب (وَلَوِیْب)۔ جوش، جھنش، ذہین۔ وہیبی (وَلَوِیْبِی)۔ جوش، جھنش، ہوشی چیر، عطا کی ہوشی چیر۔ ووج (وَلَوِج)۔ آگ کا شعلہ۔ وہجان (وَلَوِجَان)۔ آگ بھڑکنا۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ ذمہ نشینی زمین جم و ولولہ۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ مس، سخن چینی۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ کھنڈ۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ ڈرنا، ذمہ، لی، وہیل، پٹا ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ جڑ، زرم اور چیلے آؤ بھینچتے ہوئے۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ ڈر، نوبت، مرتبہ، دفعہ، باری۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ وسواس، اندیشہ، خیال، ڈر جم آؤ ولولہ۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ مہم، دروزہ، دروالات۔ ولولہ (وَلَوَلَہ)۔ جوش، کوشش، ہوش ذہین (وَلَوَلِیْن)۔ آسستی، ڈھیل پنا، آدمی رات۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ بہت زیادہ غلط گمان کرنے والا۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ ڈر، ڈرا، اور وہ یہ ہے۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ نرم چیر کا ڈھیل پٹا جانا۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ آہ، آہس جیسا کہ، آسکو۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ افسوس، حسرت، سختی۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ کلمہ، نرم، تفریق، افسوس۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ کلمہ، کلمہ، چیر، چارہ، سلاح۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ ذمہ علاج کرنا۔ ولولہ (وَلَوَلِیْم)۔ ذمہ، ذمہ، ذمہ، ذمہ، نا پذیر ہونا۔</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ویرا دوسے۔ (ز) اس کو، اس کے لئے۔
 ویران (روٹی۔ زان) اور چڑ، غیر آباد، اُجاڑ
 ویرا نکھرا (وٹی۔ زان) بگڑا، لیٹرا۔
 ویرانہ (روٹی۔ ز) دیکھو ویران۔
 ویرانی (روٹی۔ ز) اُجاڑ، غیر آبادی۔
 ویرکھ (روٹی۔ ز) خربوزے کا پیڑ۔
 ویرتھ (روٹے۔ تھ) ظالم، خالصہ۔
 ویرس (روٹیس) اکٹھے حقارت، اکٹھے تشبیہ۔
 ویریشہ (روٹے۔ شہ) دیکھو ہمیشہ
 ویریل (روٹیل) اکٹھے افسوس، مصیبت،
 انتقام، عداوت، دوزخ کا ایک طبقہ۔
 ویریل کش (روٹیل) کش، بدلہ لینے والا۔
 ویریل (روٹی۔ ل) اکٹھے افسوس۔
 ویرلان (روٹے۔ لان) ناغہ۔
 ویرن (روٹین) رنگ، کالہ انگور (وین) شہر واپس
 ویرہ (روٹی ۱۵) بھڑکانے کا کلمہ،
 آکا، آئی، ہئی۔

ع کے ساتھ مثلاً ملغم، بلہم۔ ۱۲۔
 ق کے ساتھ مثلاً لغت، سٹ۔ ۱۳۔
 ک کے ساتھ مثلاً پروانک، پروانہ۔
 ل کے ساتھ مثلاً چال، چاہ۔
 ن کے ساتھ مثلاً مرزن، مرزہ۔
 م کے ساتھ مثلاً باسرم، باسره۔
 ی کے ساتھ مثلاً رہنگاں،
 رائیگاں۔
 ہ (ہا) فارسی میں بے جان چیزوں کی
 علامت جمع، کلمہ تنبیہ۔
 ہا بلیط (ہا۔ بلیط) بیچنے اُترنے والا۔
 ہا بلی (ہا۔ بلی) خاک گور، قبر کی مٹی۔
 ہا بکت (ہا۔ بکت) تھکا ہوا، دینے والا، ٹیلیفون۔
 ہا بکت (ہا۔ بکت) تھکا ہوا، تھکا ہوا، فرشتہ
 جو آواز دیتا ہے۔
 ہا جہر (ہا۔ جہر) جہر کرنے والا، گھبراہ
 چھوڑنے والا۔
 ہا جہرہ (ہا۔ جہرہ) بہت گرم دودھ۔
 ہا جس (ہا۔ جس) دل میں گزرنے والا۔
 ہا جسہر (ہا۔ جسہر) چست، دوسوا، ماشی، طمانی
 خطہ جم ہوا جس۔
 ہا جن (ہا۔ جن) کنواری لڑکی۔
 ہا ج وارج (ہا۔ ج) ڈانچ، پریشان۔
 ہا جی (ہا۔ جی) بھوکے والے، حریفوں
 کی بے کرنے والا۔
 ہا دم (ہا۔ دم) ڈھاننے والا، اُجاڑیولا۔
 ہا دمی (ہا۔ دمی) ہدایت کرنے والا جم
 صہرات، صہرات، ہوا دمی۔
 ہا ر (ہا۔ ر) گھبرا، ڈھکیا ہوا۔ ۲۔
 بدھی، مالا۔
 ہا رب (ہا۔ رب) بھانگنے والا۔

- ۵ (ہا، ہے) حرن قمری، تالیق مقام
 عدد ۵، کئی حرفوں سے بدل ہے۔
 ۱۔ ا کے ساتھ مثلاً پیچ، اپیچ۔ ۲۔
 پ کے ساتھ مثلاً گوہہ، گوہہ۔ ۳۔
 پ کے ساتھ مثلاً کوہ، کوہ۔ ۴۔
 پ کے ساتھ مثلاً ناگاہ، ناگاج۔
 ۵۔ ج کے ساتھ مثلاً جہر، جہر۔ ۶۔
 ج کے ساتھ مثلاً جہر، جہر۔ ۷۔
 ج کے ساتھ مثلاً شبنم، شبنم۔ ۸۔
 ج کے ساتھ مثلاً درواز، درواہ۔ ۹۔
 ج کے ساتھ مثلاً آس، آس۔ ۱۰۔
 ج کے ساتھ مثلاً پاشنگ، پاشنگ۔ ۱۱۔

ہارٹس دہا۔ پریش نمازش، خود نمائی۔
 ہاروت دہا۔ جوت، ایک فرشتے کا نام۔
 ہاروتی دہا۔ رُو۔ رُئی، جادوگری، ساحری۔
 ہارون دہا۔ جوتن، اتحاد، نقیب، پاسپا۔
 ہاروندن دہا۔ جوتوں۔ دن، حیران ہونا،
 ہارونی دہا۔ رُو۔ رُئی، پیٹنا مہری، پاسپائی۔
 ہاروئیدن دہا۔ رُو۔ رُئی۔ دن، حیران
 ہونا، عاجز آنا۔
 ہاروئیدن دہا۔ رُئی۔ رُئی۔ دن، ارونا، نگر کرنا
 مہض ہاروئید۔
 ہاشمی دہا۔ شہین، تنسوب طرف ہاشم جو
 سردار دوعالم کے خاندان کے مورث تھے۔
 ہاشم دہا۔ جنم، ہضم کرنے والا، ہضم
 ہونے والا۔
 ہاشمہ دہا۔ جنم، ہضم کرنے کی قوت۔
 ہاشوم دہا۔ جنم، دو جو کھانا ہضم کرے۔
 ہاشول دہا۔ طنز، ہڑی برسنے والی گھٹا
 جم ہاشول۔
 ہاش دہا۔ رخ، بدول۔
 ہاک دہا۔ دیکھو خاک۔
 ہاکلہ دہا۔ کڑا، ہکلا۔
 ہاکت دہا۔ دیکھو خاک۔
 ہاکل دہا۔ سیف، لاجبی، قرار، آرام،
 نایب، چوگان کی کھیل۔
 ہال دہا۔ منع، تیز رفتار شتر مرغ،
 لاجبی آدمی۔
 ہالک دہا۔ رکت، ہلاک کرنے والا، ہلاک
 ہونے والا جم ہوا رکت، ہلاکت،
 ہلکتہ، ہلکت، ہلکتی۔
 ہالکھ دہا۔ کڑا، لاجبی، نفس۔
 ہالگاہ دہا۔ کڑا، چوگان کھیلنے کا میدان۔

ہالہ دہا۔ کڑا، پارس، چاند پر ڈاٹرہ۔
 ہالھر دہا۔ جرم بہت برسنے والی گھٹا۔
 ہالھر دہا۔ جز، آنکھ سے اشارہ کرنے والا، عجیب
 کرنے والا۔
 ہالسن دہا۔ جنم، دیکھو ہالسون۔
 ہالسون دہا۔ جنم، پھل ہونے جری، ادنیٰ کا کوہا۔
 ہالسون دہا۔ جنم، میدان، جنگل، ریگستان۔
 ہالسمہ دہا۔ نم، کھوپڑی، پیشانی، سردار قوم،
 اوجہ ہالسم، نم، بھٹ میں بڑے
 والا جانور جم ہوا جم۔
 ہالمی دہا۔ رخ، سرگشتہ، حیران۔
 ہالن دہا۔ اکھ، منبہ، بجز دار، ہاشیار۔
 ہالخم دہا۔ جنم، دیکھو خاتم۔
 ہالون دہا۔ دن، اوکھلی، چیز کوٹنے کا ظن۔
 ہالون دستہ دہا۔ دن، دن، بڑا دھات
 کی موسلی اور اوکھلی۔
 ہالون دہا۔ جوتن، اوکھلی، ہالون جم ہوا اوکھلی
 ہالویہ دہا۔ وکیم، دوزخ کا ساتواں طبقہ۔
 ہالو دہا۔ کما، تہقہہ کی آواز۔
 ہالو دہا۔ رکت، ڈرنے والا۔
 ہالو دہا۔ رکت، تو بہ کرنے والا جم ہوا ڈو۔
 ہالو دہا۔ رخ، بدول مرد۔
 ہالو دہا۔ ہال، لہ، کما، لہ، ہونک،
 جس سے ڈرنے۔
 ہالو دہا۔ رکت، شیفہ، محبت میں متوالا، بید
 پیاسا، بھولا بھٹکا۔
 ہالو دہا۔ رکت، کما کی آواز۔
 ہالو دہا۔ رکت، لہ سے۔ شش۔ رکت، لہ سے
 مخلوط، لہ سے دو جہی رھم۔
 ہالو دہا۔ رکت، زہر، ناپیتر جم ہوا ہالو دہا۔
 ہالو دہا۔ رکت، ہالوں والا ایک بنشہر۔

<p>ہفت ہوش رہتے ات۔ ہوش اساتوں دھاتوں کا مرکب۔</p>	<p>ہفت ہوش (۲۰) دیکھو اسم۔ ہوشوار ہوش۔ ڈاڑھ ہوشیار۔</p>
<p>ہفت دوڑج اہفت ات۔ دوڑج اوزج کے سات طبقے۔ ۱۰۔ سقر۔ ۲۔ سیر۔ ۳۔ نطی۔</p>	<p>ہوشیار ہوش۔ بیاز ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار خوش، ہنسکھ، دودھاری ہجری۔</p>
<p>ہفت ۵ اہفت ات۔ ۵۰ استرہ (۱۴)</p>	<p>ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۶ اہفت ات۔ ۶۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۷ اہفت ات۔ ۷۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۸ اہفت ات۔ ۸۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۹ اہفت ات۔ ۹۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۰ اہفت ات۔ ۱۰۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۱ اہفت ات۔ ۱۱۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۲ اہفت ات۔ ۱۲۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۳ اہفت ات۔ ۱۳۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۴ اہفت ات۔ ۱۴۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۵ اہفت ات۔ ۱۵۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>
<p>ہفت ۱۶ اہفت ات۔ ۱۶۰ ہوش ہوشوں۔</p>	<p>ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔</p>

ہیما اور رہتی۔ آہ بے پائی کا جنگل۔
 ہیماں رہتی۔ بان اسرگشی، حیرانی۔
 ہیما رہے۔ رتہ، ایندھن، جلانے کی سوئی کوئی
 ہیما یاد رہی۔ سیا، طلسم یا نرسٹھ کا علم۔
 ہیمن زمین، سیلاب، الجھی، چھوڑ دے، دوڑ،
 آگاہ ہوا کلمہ سرزنش، اپین، کین آسان۔
 ہیما یوب رہی بیدل، ڈرپوک۔
 ہیمولان، ہیولی رہی بھو، لا، ہی دیو۔ لا،
 ڈھنگ ڈول، مادہ، صورت، طہنت،
 سرشت، ہر چیز کی ماہیت، تصویر کا
 خاکہ، ناقصا چینیہ۔
 ہیمولانی رہی بھو۔ لا۔ ہی، ما، ہی بھو۔ لا۔ ہی،
 منسوب طرف ہیولا، ہیولا کا، ہیولا کی۔
 ہیولن رہی بھون، ادا نط، گھوڑا۔
 ہیولت رہی۔ آہ، دیکھو ہیات۔
 ہی کی رہی۔ آہ، کلمہ اظہار انفس۔
 ہیہات رہی آہ، کلمہ انفس، کلمہ حسرت، تعجب۔

ی

ی ریو، یے، قائم مقام عدد ۱۱، حرف تہری،
 حرف علت، چند حرف سے بدل ہے۔
 ۱۔ ا کے ساتھ مثلاً ایلاق، ایلاق۔ ۲۔
 و کے ساتھ مثلاً مادہ، مادہ، مایند۔ ۳۔ ز
 کے ساتھ مثلاً آواز، آوا، آوی۔ ۴۔ ل کے
 ساتھ مثلاً مال، نامی۔ ۵۔ ہ کے ساتھ
 مثلاً شاہنگاں، شاہنگاں۔
 یا ری، حرف ندا، حرف عطف، حرف تردید
 یا سنا، فات، اسے، او، خواہ۔
 یا سقی (یا۔ اسقا) اسے انفس۔

یاب ریات، ہائے، ولات۔
 یابان دیا۔ بان، جاپان، ژاپون (مشرقی ایشیا)
 یابنس ریابوش، خشک، زد کھا، سوکھا۔
 یابندہ ریابن۔ تہ، پانے والا۔
 یابور یا۔ یوم، طوطا، لہ، جھوٹا گھوڑا۔
 یاجوج ماجوج دینی ڈو۔ جوج۔ ہم ڈو۔ جوج،
 ایک سفرد قوم جس کا ذکر قرآن اور انجیل میں ہے۔
 یاجھن ریاج۔ تن، ہاتھ بڑھانا، ظاہر کرنا، ہتھ پازو
 یاد ریڈ، دل، خاطر، حافظہ، ذہن۔
 یاد اور سی ریڈ۔ ڈریج، یاد کرنا۔
 یاد لوور یا ڈو۔ یاد، یادگار، نشانی۔
 یادواشت ریڈ۔ دوش، یاد رکھنے کی نشانی۔
 یادوہ ریڈ۔ وہ، حافظہ میں رکھنے والا۔
 یاد فراموش ریڈ۔ فراموش، نام کھیل۔
 یادگار، یادگاری ریڈ۔ گکار، یادگار، گکار، گکار،
 نشان، نشانی، بیٹا۔
 یادوہ ریڈ۔ توت، حافظہ۔
 یار ریاز، دوست، مددگار، پیارا، محبت کرنے
 والا، جم، یادگاران، یار۔
 یار ریاز، توت، توانائی، تین، زور۔
 یارائندہ ریاز۔ ندر، دوستانہ، بطریق دوستی۔
 یارانی ریاز۔ اڑی، چارہ، علاج، مدد۔
 یارب ریاز۔ رب، اسے اللہ!
 یارباض ریاز۔ باش، ملنا، ہر تماشین۔
 یارس ریاز۔ رس، مددگار۔
 یارستن ریاز۔ رس، شغل، طاقت رکھنا، سکنا
 مضع، یازو۔
 یارستہ ریاز۔ رس۔ تہ، طاقت رکھا ہوا۔
 یارغار ریاز۔ غار، سپاہ، دوست، دوست، عادت۔
 یارفرش ریاز۔ فرش، دوست کی توجیہ کوئی والا۔
 یارفروشی ریاز۔ فروشی، دوست کی توجیہ کوئی والا۔

یڑکھار دینک ۔ کا تر اطلایہ فوج کا سردار ۔
 یڑنہ دینک ۔ بڑا بہنوی ، بہن کا شوھر ۔
 یسارہ دینک ۔ بائیں طرف ، بائیں ، کثرت ،
 دو تین ہی ۔ بڑ سمست آدمی ۔
 یسارت دینک ۔ کثرت ، دولت مند ہی ، تو انگری ۔
 یساق دینک ۔ اولیوں ، دربار ، ہم ، جنگ کی طیارگی
 یسال دینک ۔ فوج کا بڑا ، پھولوں کا تاج ۔
 یساول دینک ۔ اول ، نقیب ، چوہدر ۔
 یسیر دینک ۔ بڑا ، بڑا ، آسانی دینک ۔ آسان ۔
 یسیرہ دینک ۔ بڑا ، بائیں جانب ۔
 یسل دینک ۔ دل ، قطار ، صفت ، پیرہ ۔
 یسیر دینک ۔ ستھوڑا ، آسان ۔
 یسیل دینک ۔ فوج کا بڑا ۔
 ییشب دینک ۔ شب ، دیکھو ، چشم ۔
 ییشک دینک ۔ کم ، کمبل ، دانٹ ، کیلا ، پگی ۔
 ییشم دینک ۔ م ، سبز رنگ کا ایک تیشی پتھر ۔
 ییشاق دینک ۔ آفت ، عورتوں کے سر کا ڈوٹال ۔
 ییشمہ دینک ۔ مٹا ، کچی چمڑا ، ادیم ۔
 ییعبوب دینک ۔ بڑا ، تندرنتار کھوڑا ۔
 ییسوب دینک ۔ بڑا ، شہد کی کھینوں کا سردار
 ییعبا سبب ۔
 ییغفور دینک ۔ نور ، گرہرا بہن ، رات کا ایک حصہ ،
 گائے ، گورنر ، بہن کا بچہ جن کیعاً فیض ۔
 ییعلول دینک ۔ ٹولوں ، پانی کا بلبلیہ ، مرد کا عضو تناسل
 ییعیال لیل ۔
 ییغمرہ دینک ۔ بڑا ، بڑا ، بڑا ، کھانکھانہ ، بانڈھا جاوے
 ییعلملہ دینک ۔ بڑا ، مضبوط ، لداؤ مٹی ۔
 ییغورور دینک ۔ بڑا ، بھول بھول ، کاجی ۔
 ییعی دینک ۔ بی ، انشا ، مطلب ، گویا ، کلہرے برائے
 دعوات کلام ، قصہ کرتا ہے ، چاہتا ہے ۔
 ییغام دینک ۔ غول ، بیابانی ۔

ییغلا دینک ۔ آفراسی بان ۔
 ییغما ، ییغمان دینک ۔ آ ، بچ ۔ مانگ ، لوٹ ، غارت ، غنیمت
 ییغما دینک ۔ اوچی زمین ۔
 ییغتمہ دینک ۔ بڑا ، سائن ، پورٹو ۔
 ییغتن دینک ۔ پورٹو ، صاف ۔
 ییغظین دینک ۔ ظہن ، اکد ، سپر ، ہلدا ، روشت ۔
 ییغظ ، ییغظان دینک ۔ یقظ ، یقظ ۔ خانج ، میدار ، چونکنا ۔
 ییغظہ دینک ۔ سپاری ۔
 ییغیق دینک ۔ سپید ، بیکہ چمٹا ۔
 ییغیقن دینک ۔ یقین ، یقین ، بے شبہ ، صحیح ،
 سچ ، بیگماں ، موت
 ییک دینک ۔ ایک ۔
 ییکار دینک ۔ کتا ، کیلا ، تنہا ، بے مثل ۔
 ییک اسپہہ دینک ۔ آسن ۔ بڑا ، تھرا سولہ ۔
 ییکائی دینک ۔ راجی ، کائی ، ایک ، طوطہ ۔
 ییکایک دینک ۔ بیکہ ، اچانک ، ہر ایک ، سغا ۔
 ییکپارہ دینک ۔ بیکہ ، بیکہ ، بیکہ ، بیکہ ۔
 ییکڑک دینک ۔ بیکہ ، اچانک ، ایکائی ۔
 ییک بیبک دینک ۔ بیکہ ، بیکہ ، ایک ایک ۔
 ییکتار دینک ۔ تار ، کھوڑا ، قلعین ۔
 ییکتائی دینک ۔ تار ، ائی ، کیلا بن ۔
 ییک تن دینک ۔ تن ، ایک شخص ۔
 ییک تہہ دینک ۔ تہہ ، کیلا ، تنہا ۔
 ییکچا دینک ۔ چا ، ایک جگہ پر ، اکٹھا ۔
 ییکچان دینک ۔ چان ، متفق ، ولی دوست ۔
 ییکچائی دینک ۔ چا ، ائی ، مجمع ، ایک جگہ ہونا ۔
 ییک جلود دینک ۔ چلو ، تندرنتار ۔
 ییکچھت دینک ۔ چھت ، موافق ، متفق ۔
 ییکچھتی دینک ۔ چھتی ، اتفاق ۔
 ییکچشم دینک ۔ چشم ، آسان ، ایک آنکھ والا ۔

۴

مرقع رباعیات

ترتیب

محمد عبداللہ خاں خوشگلی

رباعی اصناف نظم میں اظہار تخیل کا موثر اور دلپزیر وسیلہ ہے۔
مرقع اردو زبان کے چالیس مشاہیر شعرائے متقدمین اور متوسطین کی رباعیوں کا مجموعہ
ہے۔ اتنا وسیع اور جامع انتخاب ملک میں ابھی تک اور کوئی شائع نہیں ہوا تھا۔ کتاب کو باعتبار
تنوع مضامین مختلف فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر فصل کے اندر مختلف اساتذہ کی متحدہ مضامین
رباعیاں اپنے مستقل عنوانات کے ماتحت یکجا کی گئی ہیں۔

یہ ترتیب دو ہویب سے چند نادرے متصور ہیں:-

آثار میں کو صحیح اندازہ ہو کہ ایک ہی بات کتنے مختلف مگر دلکش پیراؤں میں بیان ہو سکتی ہے۔ نیز
مالحہ ایک ہی مضمون میں اپنی مقبول اور مخصوص حسن ادا سے کیا کیا معنی آفرینیاں کی ہیں۔
ہکاروں کا اسطالعہ زبان پر قدرت تخیل میں وسعت و روانے ذہنی کار تھا کا موجب ہوگا۔

یہ جو موضوع پسند خاطر نہ ہو اس کو آسانی سے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

رباعیوں کے ردیف دار مرتب کرنا قدیم طریقہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اور اپنے عنوان کے تحت میں
ہر رباعی کی ترتیب کتب لغات کے اصول کے مطابق شروع حروف تہجی پر رکھی گئی ہے۔ یہ جدت
رباعی مطلوبہ کی تلاش میں زیادہ معین ثابت ہوگی۔

مال کارِ علم

ذوق

اس جہل کا ہے ذوق ٹھکانہ کچھ بھی دانش نے کیا دل کو نہ دانا کچھ بھی
ہم جانتے تھے علم سے کچھ جائیں گے جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی
ہیں جہل میں سب عالم و جاہل ہمسرا آتا نہیں فرق اس کے سوا ان میں نظر
عالم کو ہے علم اپنی دانتائی کا جاہل کو نہیں جہل کی بچھ اپنے سبر

دوستی

حالی

تا زلیست وہ جو نقش سوہوم رہے جو طالبِ دوستانِ معصوم رہے
اجاب سے بات بات پر جو بچھڑے صحبت کی وہ برکتوں سے محروم رہے
تو گل ہے اگر تو سب کی غمخواری کر دشمن کی بھی سوس نہ دل آزاری کر
ہر دم رہے اجاب کی الفت کا خیال دل ہے یہ جاب، ان کی ہوا داری کر

ہترم سخن

شیرانِ مہتاب میں کو کہاں بند کردوں دیکھو کہ نہیں گے ڈکاریں گے جہاں بند کردوں
ظلماتی مضمون کا ہے دعوا سب کو کھل جائے حقیقت جو زبان بند کردوں
گاہے مہتاب میں کو کہاں بند کردوں خوش ہو نہیں سھنے کی جہاں بند کردوں
میں باعثِ غم نہ سنی بندھیں ہوں کھولے نہ کہیں غم جو زبان بند کردوں

کاغذ چکنا سفید - حجم ۸۸ صفحات قیمت ایک روپیہ علاوہ محصولہ ٹاک

محمد عبید اللہ خان نوشکی فیروز منزل متصل جامع مسجد خورشید پورہ (پورہ)

